

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَوْلَانَا
الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ
الْمَدِينِيُّ

مَوْجُودٌ
مَوْلَانَا أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

مَكْتَبَةُ حَاجَانِيَّةٍ

إِقْرَأْ صَدْرُكَ عَدْنِي مَسْرُوفٌ
أَنْوَاعُ بَلَدِ الْهَوْدِ

میزان الاعتدال اُردو

مؤلفہ

الامام شمس الدین محمد بن ابراہیم بن عثمان بن علی بن ابی طالب

المتوفی ۷۴۸ھ

مترجم

مولانا ابوسعید رحمانی

جلد سوم



مکتبہ رحمانیہ (حصہ ۳)

پتہ: سسٹر عذرا سٹریٹ، اردو بازار، لاہور
فون: 042-37224228-37355743

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حقوق ملکیت بحق ناشر محفوظ ہیں



مکتبہ رحمانیہ (جزء ۱)

نام کتاب ÷

میزان الاعتدال (جلد سوم)

مؤلفہ ÷

الإمام ابن حجر العسقلانی

ناشر ÷

مکتبہ رحمانیہ (جزء ۱)

مطبع ÷

خضر جاوید پرنٹرز لاہور



اقرأ سنٹر عذری سٹریٹ، اُردو بازار، لاہور

فون: 042-37224228-37355743

ضروری وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول ﷺ اور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصحیح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصحیح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ یہ سب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرمادیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)

تنبیہ

ہمارے ادارے کا نام بغیر ہماری تحریری اجازت بطور منے کا پتہ، ڈسٹری بیوٹر، ناشر یا تقسیم کنندگان وغیرہ میں نہ لکھا جائے۔ بصورت دیگر اس کی تمام تر ذمہ داری کتاب طبع کروانے والے پر ہوگی۔ ادارہ ہذا اس کا جواب دہ نہ ہوگا اور ایسا کرنے والے کے خلاف ادارہ قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہے،

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۹	۲۶۰۹- داؤد بن زبرقان رقاشی، بصری	۳۳	﴿دارم، داہر﴾
"	۲۶۱۰- داؤد بن سلیمان بن چندل	"	۲۵۸۹- دارم
"	۲۶۱۱- داؤد بن سلیمان جرجانی الغازی	"	۲۵۹۰- داہر بن یحییٰ رازی
۴۰	۲۶۱۲- داؤد بن سلیمان	۳۴	۲۵۹۱- داؤد بن ابراہیم باہلی
"	۲۶۱۳- داؤد بن سلیمان بن جبیر	"	۲۵۹۲- داؤد بن ابراہیم
"	۲۶۱۴- داؤد بن سلیمان	"	۲۵۹۳- داؤد بن ابراہیم
"	۲۶۱۵- داؤد بن سلیمان	۳۵	۲۵۹۴- داؤد بن ابراہیم الواسطی
"	۲۶۱۶- داؤد بن سلیمان	"	۲۵۹۵- داؤد بن ابراہیم
"	۲۶۱۷- داؤد بن سنان	"	۲۵۹۶- داؤد بن ابراہیم
"	۲۶۱۸- داؤد بن سوار	"	۲۵۹۷- داؤد بن ابراہیم عقلی
۴۱	۲۶۱۹- داؤد بن ابی صالح، مدنی	"	۲۵۹۸- داؤد بن ابراہیم بن روزبہ البوشیبہ
"	۲۶۲۰- داؤد بن ابوصالح، حجازی	"	۲۵۹۹- داؤد بن اسود
"	۲۶۲۱- داؤد بن صغیر شامی	"	۲۶۰۰- داؤد بن ایوب قسملی
"	۲۶۲۲- داؤد بن عباد	"	۲۶۰۱- داؤد بن بکر بن ابوفرات
"	۲۶۲۳- داؤد بن عبداللہ بن ابوالکرام	"	۲۶۰۲- داؤد بن جمیل
۴۲	۲۶۲۴- داؤد بن عبداللہ اودی ابوالعلاء کوفی	۳۶	۲۶۰۳- داؤد بن حصین ابوسلیمان مدنی
"	۲۶۲۵- داؤد بن عبد الجبار کوفی مؤدب	۳۷	۲۶۰۴- داؤد بن حنین
۴۳	۲۶۲۶- داؤد بن ابی ہند،	"	۲۶۰۵- داؤد بن خالد لیشی مدنی
"	۲۶۲۷- داؤد بن عبد الحمید	۳۸	۲۶۰۶- داؤد بن خالد بن دینار مدنی
"	۲۶۲۸- داؤد بن عبد الرحمن مکی عطار، ابوسلیمان	"	۲۶۰۷- داؤد بن دلہات چینی
۴۴	۲۶۲۹- داؤد بن عبد الرحمن واسطی	"	۲۶۰۸- داؤد بن راشد طفاوی صالح

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۵	۲۶۵۸- داؤد بن یزید اودی کوفی، ابو یزید اعرج	۴۴	۲۶۳۰- داؤد بن عبید اللہ
۵۶	۲۶۵۹- داؤد بن یزید ثقفی	"	۲۶۳۱- داؤد بن عبید اللہ بن مسلم
"	۲۶۶۰- داؤد صفار	"	۲۶۳۲- داؤد بن عثمان ثغری
"	۲۶۶۱- داؤد سراج ثقفی	"	۲۶۳۳- داؤد بن عجلان مکی بزاز
"	۲۶۶۲- داؤد بصری	"	۲۶۳۴- داؤد بن عطاء مدنی، ابوسلیمان
"	۲۶۶۳- داؤد طفاوی ابو بحر	۴۵	۲۶۳۵- داؤد بن عفان
"	۲۶۶۴- داؤد جواربی	"	۲۶۳۶- داؤد بن علی ہاشمی
۵۷	﴿دبیس﴾	۴۷	۲۶۳۷- داؤد بن علی اصہبانی ظاہری فقیہ ابوسلیمان
"	۲۶۶۵- دبیس بن سلام قصبانی	۴۹	۲۶۳۸- داؤد بن عمر نخعی
"	۲۶۶۶- دبیس ملانی	"	۲۶۳۹- داؤد بن عمرو ضعی بغدادی
"	﴿دجین﴾	۵۰	۲۶۴۰- داؤد بن عمرو دمشقی
"	۲۶۶۷- دجین، ابو غصن بن ثابت یربوعی بصری	۵۱	۲۶۴۱- داؤد بن ابی عوف ابو جحاف
۵۸	۲۶۶۸- دجین عربی	"	۲۶۴۲- داؤد بن ابوفرات
"	۲۶۶۹- دحیہ بنت علیہ	۵۲	۲۶۴۳- داؤد بن ابوفرات کندی مروزی
"	﴿دراج﴾	"	۲۶۴۴- داؤد بن فراہج
"	۲۶۷۰- دراج، ابو سح مصری	"	۲۶۴۵- داؤد بن فضل حلبی
۶۰	﴿درباس، درست﴾	۵۳	۲۶۴۶- داؤد بن کثیر
"	۲۶۷۱- درباس بن دجاجہ	"	۲۶۴۷- داؤد بن کردوس
"	۲۶۷۲- درست بن حمزہ	"	۲۶۴۸- داؤد بن شہی
"	۲۶۷۳- درست بن زیاد بصری قزازی	"	۲۶۴۹- داؤد بن محبر بن قحدم، ابوسلیمان بصری
۶۱	﴿درمک، دعامہ﴾	۵۴	۲۶۵۰- داؤد بن محمد معیونی عین شرمائی
"	۲۶۷۴- درمک بن عمرو	"	۲۶۵۱- داؤد بن مدرک
"	۲۶۷۵- دعامہ	"	۲۶۵۲- داؤد بن مفضل
۶۲	﴿دعبل﴾	"	۲۶۵۳- داؤد بن منصور نسائی
"	۲۶۷۶- دعبل بن علی خزاعی	"	۲۶۵۴- داؤد بن نصیر طائی
"	۲۶۷۷- دعبل (یا شاید) دغفل	۵۵	۲۶۵۵- داؤد بن وازع
"	۲۶۷۸- دغفل بن حظلہ نسابہ	"	۲۶۵۶- داؤد بن ولید
۶۳	﴿دفاع، دلہاٹ﴾	"	۲۶۵۷- داؤد بن یحییٰ افریقی

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۹	۲۷۰۰- ذر بن عبداللہ ہمدانی	۶۳	۲۶۷۹- دفاع بن وغفل
"	۲۷۰۱- ذواد بن علیہ ابو منذر حارثی کوفی	"	۲۶۸۰- دلہاش بن جبیر
۷۰	﴿ذؤیب﴾	"	﴿دہلم﴾
"	۲۷۰۲- ذؤیب بن عباد	"	۲۶۸۱- دہلم بن اسود
"	۲۷۰۳- ذؤیب بن عمامہ کعبی	"	۲۶۸۲- دہلم بن دہشم
"	﴿ذوالنون، ذہیل، ذیال﴾	۶۳	۲۶۸۳- دہلم بن صالح کندی، کوفی
"	۲۷۰۴- ذوالنون مصری (مشہور صوفی بزرگ)	"	﴿ذہیل، دہشم﴾
۷۱	۲۷۰۵- ذہیل بن عوف طہوی	"	۲۶۸۴- ذہیل بن عبدالملک فزاری حلبی
"	۲۷۰۶- ذیال بن عبید بن حنظلہ	"	۲۶۸۵- دہشم بن جناح
	﴿حرف الراء﴾	"	۲۶۸۶- دہشم بن قران
۷۲	﴿راشد﴾	"	﴿دوید، دیسم﴾
"	۲۷۰۷- راشد بن جندل یافعی، مصری	۶۵	۲۶۸۷- دوید بصری
"	۲۷۰۸- راشد بن داؤد صنعانی دمشقی	"	۲۶۸۸- دیسم
"	۲۷۰۹- راشد بن سعد حمصی	"	﴿دیلم﴾
"	۲۷۱۰- راشد بن کیسان	"	۲۶۸۹- دیلم بن غزوان بصری
۷۳	۲۷۱۱- راشد ابوسریہ یمامی	"	۲۶۹۰- دیلم بن فیروز
"	۲۷۱۲- راشد بن معبد	"	۲۶۹۱- دیلم بن ہوش ابو وہب جیشانی
"	۲۷۱۳- راشد، ابوسلمہ کوفی	۶۶	﴿دینار﴾
"	۲۷۱۴- راشد ابوالکمیت	"	۲۶۹۲- دینار، ابوسعید عقیصا
"	۲۷۱۵- راشد، ابو محمد حمانی	"	۲۶۹۳- دینار، ابویحیی القنات
۷۴	۲۷۱۶- راشد، ابوسرہ عطارکی	"	۲۶۹۴- دینار، ابو عمر
"	۲۷۱۷- راشد،	"	۲۶۹۵- دینار ابومکیس حبشی
"	۲۷۱۸- راشد	۶۸	۲۶۹۶- دینار، ابوبارون
"	۲۷۱۹- راشد بن حفص	"	۲۶۹۷- دینار، ابوکثیر
"	۲۷۲۰- راشد	"	۲۶۹۸- دینار
"	۲۷۲۱- راشد		﴿حرف الذال﴾
۷۵	﴿رافع، رباح﴾	۶۹	﴿ذاکر، ذر﴾
"	۲۷۲۲- رافع بن اسید بن ظہیر انصاری	"	۲۶۹۹- ذاکر بن موسیٰ بن شیبہ عسقلانی

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۸۱	۲۷۴۹- ربيع بن مطرق	۷۵	۲۷۲۳- رافع بن سلمان (ياشايد) ابن سالم
"	۲۷۵۰- ربيع بن يحيى اشثاني	"	۲۷۲۴- رافع بن سلمه
"	۲۷۵۱- ربيع بن يحيى بن مقسم مدائني	"	۲۷۲۵- رباح بن صالح
"	۲۷۵۲- ربيع غطفاني	"	۲۷۲۶- رباح بن عبید اللہ بن عمر عمری
۸۲	﴿ربيعه﴾	"	۲۷۲۷- رباح بن عثمان
"	۲۷۵۳- ربيعہ بن ربيعہ	۷۶	۲۷۲۸- رباح بن ابو معروف کبی
"	۲۷۵۴- ربيعہ بن سيف معافری مصری	"	۲۷۲۹- رباح نوبی
"	۲۷۵۵- ربيعہ (بن عبد اللہ يا شايد) عبد الرحمن بن حصن غنوی	"	﴿ربيع﴾
۸۳	۲۷۵۶- ربيعہ بن ابو عبد الرحمن فروخ مدنی فقیہ	"	۲۷۳۰- ربيع بن عبد الرحمن بن حضرت ابو سعید خدری
"	۲۷۵۷- ربيعہ بن عثمان	"	۲۷۳۱- ربيع بن نوفل کوفی
"	۲۷۵۸- ربيعہ بن کلثوم بن جبر بصری	"	﴿ربيع﴾
"	۲۷۵۹- ربيعہ بن محمد، ابو قضا عطاءنی	"	۲۷۳۲- ربيع بن اسماعیل، ابو عاصم
۸۴	۲۷۶۰- ربيعہ بن نابغہ	"	۲۷۳۳- ربيع بن بدر ابو العلاء تمیمی بصری، علیہ
"	۲۷۶۱- ربيعہ بن ناجد	۷۷	۲۷۳۴- ربيع بن برہ
"	﴿رتن، رجاء﴾	"	۲۷۳۵- ربيع بن حیظان
"	۲۷۶۲- رتن ہندی	۷۸	۲۷۳۶- ربيع بن حبیب عیسیٰ مولا ہم کوفی
"	۲۷۶۳- رجاء بن حارث	"	۲۷۳۷- ربيع بن حبیب بصری
"	۲۷۶۴- رجاء بن ابو رجاء باہلی	"	۲۷۳۸- ربيع بن خلف
۸۵	۲۷۶۵- رجاء بن اہل صاغانی	"	۲۷۳۹- الربیع بن زیاد الہمدانی
"	۲۷۶۶- رجاء بن صبیح ابو یحییٰ	"	۲۷۴۰- ربيع بن سعد جعفی
"	۲۷۶۷- رجاء بن ابو عطاء مصری	۷۹	۲۷۴۱- ربيع بن سلیم کوفی
"	۲۷۶۸- رجاء انصاری	"	۲۷۴۲- ربيع بن سلیمان ازدی بصری خلتقانی
۸۶	﴿رجال، رحمہ﴾	"	۲۷۴۳- ربيع بن اہل
"	۲۷۶۹- رجال بن سالم	"	۲۷۴۴- ربيع بن صبیح بصری
"	۲۷۷۰- رحمہ بن مصعب واسطی	۸۰	۲۷۴۵- ربيع بن عبد اللہ بن خطاف بصری احدب
"	﴿رداء، ردتح﴾	"	۲۷۴۶- ربيع بن لوط، کوفی
"	۲۷۷۱- ردا دیشی	۸۱	۲۷۴۷- ربيع بن مالک
"	۲۷۷۲- ردتح بن عطیہ	"	۲۷۴۸- ربيع بن محمود ماردینی

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۹۴	﴿رکن، رکین﴾	۸۷	﴿رزق﴾
"	۲۷۹۲-رکن شامی	"	۲۷۷۳-رزق اللہ بن اسود
"	۲۷۹۵-رکین بن عبدالاعلیٰ	"	۲۷۷۴-رزق اللہ بن سلام طبری
۹۵	﴿ریح﴾	"	۲۷۷۵-رزق اللہ بن موسیٰ ابوبکر بغدادی
"	۲۷۹۶-ریح بن ہلال	"	﴿رزیق﴾
"	۲۷۹۷-ریح	"	۲۷۷۶-رزیق اعلیٰ
"	﴿رواد﴾	"	۲۷۷۷-رزیق بن سعید مدنی
"	۲۷۹۸-رواد بن جراح عسقلانی، ابو عصام	"	۲۷۷۸-رزیق ابو عبد اللہ الہبانی
۹۶	﴿رؤبہ﴾	۸۸	۲۷۷۹-رزیق بن شعیب
"	۲۷۹۹-رؤبہ بن رویبہ	"	﴿رزین﴾
۹۷	۲۸۰۰-رؤبہ بن عجاج شاعر	"	۲۷۸۰-رزین بن سلیمان الحمیری
"	﴿روح﴾	"	۲۷۸۱-رزین بن عقبہ
"	۲۸۰۱-روح بن اسلم باہلی	"	۲۷۸۲-رزین کوفی اعلیٰ
۹۸	۲۸۰۲-روح بن جناح	"	﴿رشدین﴾
"	۲۸۰۳-روح بن حاتم بزاز، بغدادی	"	۲۷۸۳-رشدین بن سعد مہری مصری
۹۹	۲۸۰۴-روح بن صلاح مصری	۹۱	۲۷۸۴-رشدین بن کریم
"	۲۸۰۵-روح بن عبادہ قیسی	"	﴿رشید﴾
۱۰۰	۲۸۰۶-روح بن عبد الکریم	"	۲۷۸۵-رشید بن ابراہیم
"	۲۸۰۷-روح بن عبید	"	۲۷۸۶-رشید زبری
"	۲۸۰۸-روح بن عبد الواحد	"	۲۷۸۷-رشید جبری
"	۲۸۰۹-روح بن عطاء بن ابی میمونہ	۹۲	۲۷۸۸-رشید، ابو مہوب کلابی
۱۰۱	۲۸۱۰-روح بن عیینہ طائی	۹۳	﴿رضراض، رفاعہ﴾
"	۲۸۱۱-روح (بن عنبہ) اموی	"	۲۷۸۹-رضراض
"	۲۸۱۲-روح بن غطفان	"	۲۷۹۰-رفاعہ ہاشمی
"	۲۸۱۳-روح بن فضل	"	۲۷۹۱-رفاعہ بن ہریر بن عبد الرحمن بن رافع بن خدیج
"	۲۸۱۴-روح بن مسافر ابو بشر، بصری	"	﴿رفدہ، رفیع﴾
۱۰۲	۲۸۱۵-روح بن مسیب کلبی بصری	"	۲۷۹۲-رفدہ بن قضاہ
"	﴿ریاح، ریحان﴾	۹۴	۲۷۹۳-رفیع ابو العالیہ ریاحی

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۰۸	۲۸۳۵- زبیر بن حبیب بن ثابت بن عبد اللہ بن زبیر اسدی	۱۰۲	۲۸۱۶- ریاح بن صالح
"	۲۸۳۶- زبیر بن خربوذ	"	۲۸۱۷- ریاح بن عمرو قیسی
"	۲۸۳۷- زبیر بن خرق، جزری	۱۰۳	۲۸۱۸- ریحان بن سعید ناجی
"	۲۸۳۸- زبیر بن زبیر جہضمی	"	۲۸۱۹- ریحان بن یزید
	۲۸۳۹- زبیر بن سعید بن سلیمان بن سعید بن نوفل		﴿ حرف الزای ﴾
"	بن حارث بن عبد المطلب ہاشمی	۱۰۴	﴿ زاذان ﴾
۱۰۹	۲۸۴۰- زبیر بن سلیم	"	۲۸۲۰- زاذان ابو عمر کندی مولا ہم کوفی
"	۲۸۴۱- زبیر بن شعشاع	"	۲۸۲۱- زاذان، ابو یحییٰ القتات
"	۲۸۴۲- زبیر بن عبد اللہ، ابو یحییٰ	"	﴿ زافر ﴾
"	۲۸۴۳- زبیر بن عبد اللہ مدنی	"	۲۸۲۲- زافر بن سلیمان قوہستانی
"	۲۸۴۴- زبیر بن عبد الرحمن بن زبیر بن باطرقظی مدنی	۱۰۵	﴿ زامل، زاہر ﴾
۱۱۰	۲۸۴۵- زبیر بن سعید	"	۲۸۲۳- زامل بن زیاد طائی
"	۲۸۴۶- زبیر بن عثمان بن عبد اللہ بن سراقہ	"	۲۸۲۴- زاہر بن طاہر ابو القاسم شامی
"	۲۸۴۷- زبیر بن عمرو بن زبیر بن عوام	"	﴿ زانکہ ﴾
"	۲۸۴۸- زبیر بن عدی کوفی	"	۲۸۲۵- زانکہ بن سلیم
"	۲۸۴۹- زبیر بن عیسیٰ	۱۰۶	۲۸۲۶- زانکہ
"	۲۸۵۰- زبیر بن منذر ساعدی	"	۲۸۲۷- زانکہ بن ابو رقاد ابو معاذ
"	۲۸۵۱- زبیر بن ولید شامی	"	﴿ زبان ﴾
"	۲۸۵۲- زبیر،	"	۲۸۲۸- زبان بن سلمان
۱۱۱	﴿ زحر، زربی ﴾	"	۲۸۲۹- زبان بن فائد
"	۲۸۵۳- زحر بن حصن	۱۰۷	﴿ زبرقان ﴾
"	۲۸۵۴- زربی	"	۲۸۳۰- زبرقان بن عبد اللہ ضمری
"	۲۸۵۵- زربی ابو عبد اللہ	"	۲۸۳۱- زبرقان بن عبد اللہ عبدی، ابو الورقاء کوفی
"	﴿ زرارہ ﴾	"	﴿ زبید ﴾
"	۲۸۵۶- زرارہ بن اعین کوفی،	"	۲۸۳۲- زبید بن حارث یامی،
۱۱۲	۲۸۵۷- زرارہ بن ابو حلال عتقی	"	﴿ زبیر ﴾
"	۲۸۵۸- زرارہ	"	۲۸۳۳- زبیر بن بکار
"	۲۸۵۹- زرارہ	۱۰۸	۲۸۳۴- زبیر بن جنادہ بجمری کوفی

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۱۷	۲۸۸۳- زکریا بن عبد اللہ	۱۱۲	﴿زر زور﴾
"	۲۸۸۴- زکریا بن عبد الرحمن برجمی	"	۲۸۶۰- زر زور مخزومی
۱۱۸	۲۸۸۵- زکریا بن ابو عبیدہ	"	۲۸۶۱- زر زور
"	۲۸۸۶- زکریا بن عطیہ	۱۱۳	﴿زرعہ﴾
"	۲۸۸۷- زکریا بن عیسیٰ	"	۲۸۶۲- زرعہ بن ابراہیم
"	۲۸۸۸- زکریا بن ابو مریم	"	۲۸۶۳- زرعہ بن عبد اللہ
۱۱۹	۲۸۸۹- زکریا بن منظور بن عقبہ بن ثعلبہ قرظی	"	۲۸۶۴- زرعہ بن عبد الرحمن زبیدی
"	۲۸۹۰- زکریا بن یحییٰ کندی	"	۲۸۶۵- زرعہ بن عبد الرحمن
"	۲۸۹۱- زکریا بن یحییٰ بن عمارہ	"	﴿زریق﴾
"	۲۸۹۲- زکریا بن یحییٰ بدی	"	۲۸۶۶- زریق بن محمد کوفی
"	۲۸۹۳- زکریا بن یحییٰ کسائی کوفی	"	﴿زفر﴾
۱۲۱	۲۸۹۴- زکریا بن یحییٰ بن اسد مروزی	"	۲۸۶۷- زفر بن اوس بن حدثان
"	۲۸۹۵- زکریا بن یحییٰ مصری، ابو یحییٰ الوقار	"	۲۸۶۸- زفر بن قیس ہمدانی
۱۲۳	۲۸۹۶- زکریا بن یحییٰ بن منظور بن ثعلبہ بن ابو مالک قرظی مدنی	"	۲۸۶۹- زفر بن محمد فہری مدنی
۱۲۴	۲۸۹۷- زکریا بن یحییٰ سراج مقری	۱۱۴	۲۸۷۰- زفر بن ہذیل عنبری (امام زفر <small>رضی اللہ عنہ</small>)
"	۲۸۹۸- زکریا بن یحییٰ، ابو السکین الطائی	"	۲۸۷۱- زفر بن وحمیہ بن مالک بن اوس بن حدثان نصری
"	۲۸۹۹- زکریا بن یحییٰ اجملی	"	﴿زکار، زکریا﴾
"	۲۹۰۰- زکریا بن یحییٰ بن داؤد الحافظ، ابو یحییٰ ساجی بصری	"	۲۸۷۲- زکار بن علی
"	۲۹۰۱- زکریا بن یحییٰ بن الخطاب	"	۲۸۷۳- زکریا بن اسحاق کبی
"	۲۹۰۲- زکریا بن یحییٰ بن حارث	"	۲۸۷۴- زکریا بن ایوب
۱۲۵	۲۹۰۳- زکریا بن یحییٰ الکنانی، ابو یحییٰ	۱۱۵	۲۸۷۵- زکریا بن بدر
"	۲۹۰۴- زکریا بن یحییٰ بن اسد مروزی	"	۲۸۷۶- زکریا بن حکیم حبلی کوفی ابو یحییٰ
"	۲۹۰۵- زکریا بن یحییٰ ضمیری	"	۲۸۷۷- زکریا بن دوید (بن محمد بن اشعث بن قیس) کندی
۱۲۶	۲۹۰۶- زکریا	۱۱۶	۲۸۷۸- زکریا بن ابو زائدہ
"	﴿زمعہ﴾	"	۲۸۷۹- زکریا بن زید مدنی
"	۲۹۰۷- زمعہ بن صالح	"	۲۸۸۰- زکریا بن صہیب
"	﴿زمیل﴾	"	۲۸۸۱- زکریا بن صمصامہ
"	۲۹۰۸- زمیل	۱۱۷	۲۸۸۲- زکریا بن عبد اللہ بن یزید صہبانی

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۳۴	۲۹۳۴- زیاد بن حارث	۱۴۷	﴿نفل، زہدم﴾
۱۳۵	۲۹۳۵- زیاد بن حذیم بن عمرو سعدی	"	۲۹۰۹- نفل عرفی مکی
"	۲۹۳۶- زیاد بن ابوحسان نبطی واسطی	"	۲۹۱۰- زہدم بن حارث طائی
"	۲۹۳۷- زیاد بن حسان بصری	"	۲۹۱۱- زہدم بن حارث مکی
"	۲۹۳۸- زیاد بن حسن بن فرات تمیمی کوفی قزاز	۱۴۸	﴿زہرہ، زہیر﴾
"	۲۹۳۹- زیاد بن ابو حفصہ	"	۲۹۱۲- زہرہ
"	۲۹۴۰- زیاد بن ربیع	"	۲۹۱۳- زہیر بن اسحاق
۱۳۶	۲۹۴۱- زیاد بن ابوبصا ص بصری واسطی	"	۲۹۱۴- زہیر بن ثابت
۱۳۷	۲۹۴۲- زیاد بن زید الاعسم	"	۲۹۱۵- زہیر بن ابوثابت
"	۲۹۴۳- زیاد بن سعد بن ضمیرہ	"	۲۹۱۶- زہیر بن سالم
"	۲۹۴۴- زیاد بن سح صنعانی	۱۴۹	۲۹۱۷- زہیر بن عبدالرواسی
"	۲۹۴۵- زیاد بن سفیان	"	۲۹۱۸- زہیر بن عبداللہ
"	۲۹۴۶- زیاد بن ابوسودہ	"	۲۹۱۹- زہیر بن العلاء
۱۳۸	۲۹۴۷- زیاد بن طارق	"	۲۹۲۰- زہیر بن مالک، ابوالوازع
"	۲۹۴۸- زیاد بن عبداللہ نمیری بصری	۱۳۰	۲۹۲۱- زہیر بن محمد تمیمی مروزی
"	۲۹۴۹- زیاد بن عبداللہ نخعی	۱۳۲	۲۹۲۲- زہیر بن محمد الالبلی
۱۳۹	۲۹۵۰- زیاد بن عبداللہ (یا شاید) ابن عبید	"	۲۹۲۳- زہیر بن مروان
"	۲۹۵۱- زیاد بن عبداللہ	"	۲۹۲۴- زہیر بن معاویہ ابوخیثمہ جعفی کوفی الحافظ
"	۲۹۵۲- زیاد بن عبداللہ طفیل بکائی کوفی	۱۳۳	۲۹۲۵- زہیر بن منقذ
۱۴۰	۲۹۵۳- زیاد بن عبدالرحمن ابوالخصیب	"	﴿زیاد﴾
"	۲۹۵۴- زیاد بن عباد	"	۲۹۲۶- زیاد بن ابیہ الامیر
"	۲۹۵۵- زیاد بن عبیدہ	"	۲۹۲۷- زیاد بن اسماعیل
"	۲۹۵۶- زیاد بن عبید حمیر بصری	"	۲۹۲۸- زیاد بن امیہ
۱۴۱	۲۹۵۷- زیاد بن عثمان	۱۳۴	۲۹۲۹- زیاد بن انعم افریقی
"	۲۹۵۸- زیاد بن عمرو بن ہند حلیمی کوفی	"	۲۹۳۰- زیاد بن بیان
"	۲۹۵۹- زیاد بن عمرو	"	۲۹۳۱- زیاد بن ثویب
"	۲۹۶۰- زیاد بن قیس	"	۲۹۳۲- زیاد بن جاریہ
"	۲۹۶۱- زیاد بن کثیر	"	۲۹۳۳- زیاد بن جبل

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۴۸	۲۹۹۰- زیاد، مولیٰ معقیب	۱۴۱	۲۹۶۲- زیاد بن کلیب ابو معشر تمیمی کوفی
"	﴿زیادہ﴾	"	۲۹۶۳- زیاد بن مالک
"	۲۹۹۱- زیادہ بن محمد انصاری	"	۲۹۶۴- زیاد بن ابومریم جزری
۱۴۹	﴿زید﴾	۱۴۲	۲۹۶۵- زیاد بن ابومسلم بصری صفار العابد
"	۲۹۹۲- زید بن اسلم مولیٰ عمر	"	۲۹۶۶- زیاد بن ابولیح ہذلی
"	۲۹۹۳- زید بن ابوانیسہر ہادی، ابواسامہ	"	۲۹۶۷- زیاد بن ملیک، ابوسکینہ
۱۵۰	۲۹۹۴- زید بن ایمن	"	۲۹۶۸- زیاد بن منذر ہمدانی
"	۲۹۹۵- زید بن بکر جوزی	۱۴۳	۲۹۶۹- زیاد بن منذر، ابو حازم، شیبی
۱۵۱	۲۹۹۶- زید بن تغلب	"	۲۹۷۰- زیاد بن میمون ثقفی فاکہی
"	۲۹۹۷- زید بن جاری	۱۴۵	۲۹۷۱- زیاد بن مینا
"	۲۹۹۸- زید بن جبیرہ ابو جبیرہ انصاری	"	۲۹۷۲- زیاد بن یزید زیادی
۱۵۲	۲۹۹۹- زید بن جساس	"	۲۹۷۳- زیاد، ابوالسکن
"	۳۰۰۰- زید بن حباب	"	۲۹۷۴- زیاد
۱۵۳	۳۰۰۱- زید بن حبان رقی	"	۲۹۷۵- زیاد، مولیٰ بنی مخزوم
۱۵۴	۳۰۰۲- زید بن حسن مصری	"	۲۹۷۶- زیاد، مولیٰ معقیب
"	۳۰۰۳- زید بن حسن بن زید بن امیرک حسینی	"	۲۹۷۷- زیاد، ابو عمرو
"	۳۰۰۴- زید بن حسن قرشی کوفی صاحب الانماط	۱۴۶	۲۹۷۸- زیاد، ابوبشر
"	۳۰۰۵- زید بن حماد بن سلمہ بن دینار بصری	"	۲۹۷۹- زیاد
"	۳۰۰۶- زید بن حواری العمی ابوالحواری بصری	"	۲۹۸۰- زیاد ابوہاشم
۱۵۶	۳۰۰۷- زید بن رباح مدینی	"	۲۹۸۱- زیاد الطائی
"	۳۰۰۸- زید بن رفاعہ ہاشمی، ابو خیر	"	۲۹۸۲- زیاد ابوالوقار کوفی عصفری
"	۳۰۰۹- زید بن رفیع، جزری	۱۴۷	۲۹۸۳- زیاد، ابوالا برد
"	۳۰۱۰- زید بن زائد	"	۲۹۸۴- زیاد
"	۳۰۱۱- زید بن ابوزرقاء مصلیٰ	"	۲۹۸۵- زیاد، ابوہشام
"	۳۰۱۲- زید بن سعید واسطی	"	۲۹۸۶- زیاد، ابوعمار
۱۵۷	۳۰۱۳- زید بن سکین	"	۲۹۸۷- زیاد
"	۳۰۱۴- زید بن ابوشعثاء ابوالحکم	۱۴۸	۲۹۸۸- زیاد، ابو عمرو بصری
"	۳۰۱۵- زید بن صالح	"	۲۹۸۹- زیاد

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۶۳	۳۰۴۳- زینب بنت کعب بن عجرہ	۱۵۷	۳۰۱۶- زید بن صبیح
	﴿حرف السین﴾	"	۳۰۱۷- زید بن ظبیان
۱۶۴	۳۰۴۴- سابق بن عبداللہ رقی	۱۵۸	۳۰۱۸- زید بن عبدحمید بن عبدالرحمن بن زید بن خطاب عدوی مدنی
"	۳۰۴۵- سابق بن ناجیہ	"	۳۰۱۹- زید بن عبداللہ بن مسعود ہاشمی، ابوقاسم
"	۳۰۴۶- سالم بن ابراہیم	"	۳۰۲۰- زید بن عبدالرحمن بن زید بن اسلم
۱۶۵	۳۰۴۷- سالم بن ثابت	۱۵۹	۳۰۲۱- زید بن عبدالرحمن
"	۳۰۴۸- سالم بن ابوالجعد	"	۳۰۲۲- زید بن عقیف
"	۳۰۴۹- سالم بن ابوحفص عجل کوفی	"	۳۰۲۳- زید بن عطاء بن سائب
۱۶۶	۳۰۵۰- سالم بن ابوجہاد	"	۳۰۲۴- زید بن عمر بن عاصم
"	۳۰۵۱- سالم بن دینار ابوجحیح	"	۳۰۲۵- زید بن عوف، ابوربیع
"	۳۰۵۲- سالم بن زین	"	۳۰۲۶- زید بن عیاش مدنی زرقی
۱۶۷	۳۰۵۳- سالم بن سلمہ ابوترہ ہذلی	"	۳۰۲۷- زید بن عیاض
"	۳۰۵۴- سالم بن صالح رازی	۱۶۰	۳۰۲۸- زید بن محمد بن خلف مصری
"	۳۰۵۵- سالم بن عبداللہ کلانی	"	۳۰۲۹- زید بن معاوی
"	۳۰۵۶- سالم بن عبداللہ خیاط	"	۳۰۳۰- زید بن نعیم
"	۳۰۵۷- سالم بن عبدالاعلیٰ	۱۶۱	۳۰۳۱- زید بن نفع
۱۶۸	۳۰۵۸- سالم بن علاء ابوعلاء مرادی	"	۳۰۳۲- زید بن واقد، ابوعلی سستی بصری
"	۳۰۵۹- سالم بن عجلان افسس،	"	۳۰۳۳- زید بن واقد
"	۳۰۶۰- سالم بن غیلان	"	۳۰۳۴- زید بن وہب
۱۶۹	۳۰۶۱- سالم بن مخراق	۱۶۲	۳۰۳۵- زید بن شیح ہمدانی
"	۳۰۶۲- سالم بن نوح عطار	"	۳۰۳۶- زید بن یحییٰ بیح
"	۳۰۶۳- سالم بن ہلال	"	۳۰۳۷- زید، ابوعمر
"	۳۰۶۴- سالم ابوجہاد	"	۳۰۳۸- زید، ابواسامہ حجام
"	۳۰۶۵- سالم مولیٰ عکاشہ	۱۶۳	۳۰۳۹- زید نمیری
"	۳۰۶۶- سالم	"	۳۰۴۰- زید
"	۳۰۶۷- سالم، ابوغیاث	"	۳۰۴۱- زید سلمی
۱۷۰	۳۰۶۸- سالم، ابو الغیث	"	﴿زینب﴾
"	۳۰۶۹- سالم ابوعلاء	"	۳۰۴۲- زینب سمیہ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۷۴	۳۰۹۰- سری بن اسماعیل کوفی	۱۷۰	۳۰۷۰- سالم ابو جمع قزاز
"	۳۰۹۱- سری بن خالد مدنی	"	۳۰۷۱- سالم دورقی
"	۳۰۹۲- سری بن عاصم بن سہل، ابو عاصم ہمدانی	"	۳۰۷۲- سالم فراء
۱۷۵	۳۰۹۳- سری بن عبید اللہ سلمی	"	۳۰۷۳- سالم سہمی
"	۳۰۹۴- سری بن عبد الحمید	"	۳۰۷۴- سالم مکی
"	۳۰۹۵- سری بن مخلد	"	﴿سائب﴾
"	۳۰۹۶- سری بن یحییٰ بن ایاس	"	۳۰۷۵- سائب خولانی
"	﴿سعاد، سعدان﴾	۱۷۱	۳۰۷۶- سائب نگری
۱۷۶	۳۰۹۷- سعاد بن عبد الرحمن	"	۳۰۷۷- سائب بن مالک
"	۳۰۹۸- سعدان بن اشوع ہمدانی	"	۳۰۷۸- سائب
"	۳۰۹۹- سعدان بن بشر ابو مجالد	"	﴿سباع﴾
"	۳۱۰۰- سعدان بن سعد لیثی	"	۳۰۷۹- سباع بن ثابت
"	۳۱۰۱- سعدان بن سعید حکمی	"	﴿سبرہ، ست العباد﴾
۱۷۷	۳۱۰۲- سعدان بن عبدہ قدامی	"	۳۰۸۰- سبرہ
"	۳۱۰۳- سعدان بن ہشام رقی	"	۳۰۸۱- ست عباد مصری
"	۳۱۰۴- سعدان بن یحییٰ جلی	۱۷۲	﴿سحیم، سدیف﴾
"	۳۱۰۵- سعدان حکمی	"	۳۰۸۲- سحیم، مولیٰ بنی زہرہ
"	﴿سعد﴾	"	۳۰۸۳- سدیف بن میمون مکی
"	۳۱۰۶- سعد بن الاخرم طائی کوفی	۱۷۳	﴿سدیر، سراج﴾
"	۳۱۰۷- سعد بن اوس عبسی	"	۳۰۸۴- سدیر بن حکیم صیرنی کوفی
"	۳۱۰۸- سعد بن اوس بصری	"	۳۰۸۵- سراج بن مجاہد حنفی
۱۷۸	۳۱۰۹- سعد بن حبیب	"	﴿سرور﴾
"	۳۱۱۰- سعد بن زنبور	"	۳۰۸۶- سرور بن مغیرہ
"	۳۱۱۱- سعد بن زیاد، ابو عاصم	"	﴿سرتج، سربلج﴾
"	۳۱۱۲- سعد بن سعید	"	۳۰۸۷- سرتج بن نعمان جوہری
۱۷۹	۳۱۱۳- سعد بن سعید بن ابوسعید مقبری	۱۷۴	۳۰۸۸- سربلج بن عبد اللہ
"	۳۱۱۴- سعد بن سعید	"	۳۰۸۹- سربلج بن عبد اللہ واسطی جمال
"	۳۱۱۵- سعد بن سعید جرجانی	"	﴿سری﴾

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۸۷	۳۱۴۳- سعید بن انس	۱۸۰	۳۱۱۶- سعد بن سعید ساعدی
"	۳۱۴۴- سعید بن اوس، ابوزید انصاری نخوی	"	۳۱۱۷- سعد بن سنان
۱۸۸	۳۱۴۵- سعید بن ایاس ابو مسعود جریری بصری	۱۸۱	۳۱۱۸- سعد بن شعبہ بن ججاج
۱۸۹	۳۱۴۶- سعید بن بشر	"	۳۱۱۹- سعد بن طارق، ابو مالک اشجعی
۱۹۲	۳۱۴۷- سعید بن بشیر بخاری انصاری	۱۸۲	۳۱۲۰- سعد بن طالب
"	۳۱۴۸- سعید بن بشیر	"	۳۱۲۱- سعد بن طریف اسکاف حظلی کوفی
"	۳۱۴۹- سعید بن بشیر قرشی	۱۸۴	۳۱۲۲- سعد بن عبد الحمید بن جعفر انصاری
۱۹۳	۳۱۵۰- سعید بن ابوبکر بن ابوموسیٰ اشعری	"	۳۱۲۳- سعد بن عثمان رازی دشتکی
"	۳۱۵۱- سعید بن ثمامہ مکی	"	۳۱۲۴- سعد بن علی قاضی، ابو الوفاء نسوی
"	۳۱۵۲- سعید بن جہان	۱۸۵	۳۱۲۵- سعد بن عمران
۱۹۴	۳۱۵۳- سعید بن جندب	"	۳۱۲۶- سعد بن عمار بن سعد قرظ
"	۳۱۵۴- سعید بن حریش	"	۳۱۲۷- سعد بن عیاض
"	۳۱۵۵- سعید بن حماد	"	۳۱۲۸- سعد بن معاذ ابو عصم مروزی
"	۳۱۵۶- سعید بن حوشب	"	۳۱۲۹- سعد بن منصور جذامی
"	۳۱۵۷- سعید بن خدش	۱۸۶	۳۱۳۰- سعد
"	۳۱۵۸- سعید بن حسان	"	۳۱۳۱- سعد، ابو حبیب
"	۳۱۵۹- سعید بن حکیم قشیری	"	۳۱۳۲- سعد
"	۳۱۶۰- سعید بن حیان	"	۳۱۳۳- سعد مولیٰ طلحہ
۱۹۵	۳۱۶۱- سعید بن حیان حمصی	"	﴿سعید﴾
"	۳۱۶۲- سعید بن خالد بن ابوطویل	"	۳۱۳۴- سعید بن ابان وراق
"	۳۱۶۳- سعید بن خالد قارظی	"	۳۱۳۵- سعید بن ابراہیم
"	۳۱۶۴- سعید بن خالد خزاعی	"	۳۱۳۶- سعید بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف
۱۹۶	۳۱۶۵- سعید بن خثیم ہلمالی	۱۸۷	۳۱۳۷- سعید بن ابیض بن جمال
"	۳۱۶۶- سعید بن داؤد زہری	"	۳۱۳۸- سعید بن ابراہیم
۱۹۷	۳۱۶۷- سعید بن دینار دمشقی	"	۳۱۳۹- سعید بن ابراہیم بن معقل بن منب یمانی
"	۳۱۶۸- سعید بن دہشم	"	۳۱۴۰- سعید بن ابی الایض
۱۹۸	۳۱۶۹- سعید بن ذی العوہ	"	۳۱۴۱- سعید بن اسحاق مصری
"	۳۱۷۰- سعید بن ذؤیب مروزی	"	۳۱۴۲- سعید بن اشوع

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۰۷	۳۱۹۹- سعید بن سلمہ بصری	۱۹۸	۳۱۷۱- سعید بن ذی حدان، کوفی،
"	۳۲۰۰- سعید بن سلیمان بن نهد	"	۳۱۷۲- سعید بن راشد مازنی سماک
"	۳۲۰۱- سعید بن سلمہ بن ابوحسام بصری	۱۹۹	۳۱۷۳- سعید بن راشد
"	۳۲۰۲- سعید بن سلمہ مدنی	"	۳۱۷۴- سعید بن ابوراشد
"	۳۲۰۳- سعید بن سلمان	"	۳۱۷۵- سعید بن رحمہ بن نعیم مصیعی
"	۳۲۰۴- سعید بن سلیمان بن کنانہ واسطی سعدویہ حافظ	"	۳۱۷۶- سعید بن ابورزین
۲۰۸	۳۲۰۵- سعید بن سلیمان شیطی بصری	۲۰۰	۳۱۷۷- سعید بن رفاعہ
"	۳۲۰۶- سعید بن سلیمان دمشقی	"	۳۱۷۸- سعید بن ابورعدہ
"	۳۲۰۷- سعید بن سلیم	"	۳۱۷۹- سعید بن رواحہ بصری
۲۰۹	۳۲۰۸- سعید بن سماک بن حرب	"	۳۱۸۰- سعید بن زربی ابوعبیدہ بصری
"	۳۲۰۹- سعید بن سمعان	"	۳۱۸۱- سعید بن زرعہ
"	۳۲۱۰- سعید بن سنان، ابوسنان شیبانی	۲۰۱	۳۱۸۲- سعید بن زکریا قرشی مدائنی
۲۱۰	۳۲۱۱- سعید بن سنان ابومہدی حمصی	"	۳۱۸۳- سعید بن زکریا
۲۱۲	۳۲۱۲- سعید بن سوید	"	۳۱۸۴- سعید بن زون علمی بصری
"	۳۲۱۳- سعید بن سیرین	۲۰۲	۳۱۸۵- سعید بن زیاد شیبانی
"	۳۲۱۴- سعید بن شرحبیل	"	۳۱۸۶- سعید بن زیاد بن فاکد بن زیاد بن ابہند داری
۲۱۳	۳۲۱۵- سعید بن صخر، ابواحمد داری	۲۰۳	۳۱۸۷- سعید بن زیاد
"	۳۲۱۶- سعید بن صالح السلمی	"	۳۱۸۸- سعید بن زید ابوحسن
"	۳۲۱۷- سعید بن عبد اللہ جعفی	۲۰۴	۳۱۸۹- سعید بن سالم قداح
"	۳۲۱۸- سعید بن عبد اللہ	"	۳۱۹۰- سعید بن ابوسعید مقبری
"	۳۲۱۹- سعید بن عبد اللہ	۲۰۵	۳۱۹۱- سعید بن سعید تغلمی
"	۳۲۲۰- سعید بن صباح نیشاپوری	"	۳۱۹۲- سعید بن ابوسعید زبیدی
"	۳۲۲۱- سعید بن طہمان	"	۳۱۹۳- سعید بن ابوسعید
"	۳۲۲۲- سعید بن عامر	"	۳۱۹۴- سعید بن ابوسعید عیار صوفی
۲۱۴	۳۲۲۳- سعید بن عبد اللہ بن جریح سلمی بصری	۲۰۶	۳۱۹۵- سعید بن سفیان
"	۳۲۲۴- سعید بن عبد اللہ بن ضرار	"	۳۱۹۶- سعید بن سفیان اندلسی
"	۳۲۲۵- سعید بن عبد اللہ دہان بصری	"	۳۱۹۷- سعید بن سفیان سلمی
"	۳۲۲۶- سعید بن عبد الجبار زبیدی حمصی	"	۳۱۹۸- سعید بن سلام عطار

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۲۲	۳۲۵۴- سعید بن عسیبی بن معن مکی	۲۱۵	۳۲۲۷- سعید بن عبد الجبار
۲۲۳	۳۲۵۵- سعید بن عسیبی کریزی	"	۳۲۲۸- سعید بن عبد الجبار بن وائل
"	۳۲۵۶- سعید بن غزووان	"	۳۲۲۹- سعید بن عبد الجبار قرشی کرابیسی
"	۳۲۵۷- سعید بن غنیم، ابوشیبہ کلاعی	"	۳۲۳۰- سعید بن عبد الرحمن حنظلی قاضی مدنی
"	۳۲۵۸- سعید بن فضل	۲۱۶	۳۲۳۱- سعید بن عبد الرحمن رقاشی
"	۳۲۵۹- سعید بن قطن قطعی	"	۳۲۳۲- سعید بن عبد الرحمن اموی
"	۳۲۶۰- سعید بن کثیر بن عفیر مصری	"	۳۲۳۳- سعید بن عبد الرحمن ابوشیبہ زبیدی
۲۲۴	۳۲۶۱- سعید بن کثیر بن مطلب بن ابوداؤد سہمی	۲۱۷	۳۲۳۴- سعید بن عبد العزیز تنوخی دمشقی
"	۳۲۶۲- سعید بن ابوکرب	"	۳۲۳۵- سعید بن عبد الکریم
"	۳۲۶۳- سعید بن کرز	۲۱۸	۳۲۳۶- سعید بن عبد الملک بن واقد حرانی
۲۲۵	۳۲۶۴- سعید بن لقمان	"	۳۲۳۷- سعید بن عبید اللہ بن جبیر (بن حید) ثقفی
"	۳۲۶۵- سعید بن محمد مدنی	"	۳۲۳۸- سعید بن عبید اللہ بن ولید وصافی
"	۳۲۶۶- سعید بن محمد الوراق، کوفی	"	۳۲۳۹- سعید بن عبید بن کثیر
"	۳۲۶۷- سعید بن محمد جریمی	"	۳۲۴۰- سعید بن عثمان کریزی
۲۲۶	۳۲۶۸- سعید بن محمد بکر اوئی	"	۳۲۴۱- سعید بن عثمان معافی
"	۳۲۶۹- سعید بن محمد بن جبیر بن مطعم قرشی	۲۱۹	۳۲۴۲- سعید بن عثمان
"	۳۲۷۰- سعید بن محمد بن سعید حوئی کوفی	"	۳۲۴۳- سعید بن عثمان بلوی
"	۳۲۷۱- سعید بن محمد بن نصر	"	۳۲۴۴- سعید بن عثمان
"	۳۲۷۲- سعید بن محمد ذہلی احولی	"	۳۲۴۵- سعید بن ابو عمرو
"	۳۲۷۳- سعید بن محمد طوسی	۲۲۱	۳۲۴۶- سعید بن عقبہ
۲۲۷	۳۲۷۴- سعید بن مرزبان، ابوسعید بقال الاعور	۲۲۲	۳۲۴۷- سعید بن عمارة
"	۳۲۷۵- سعید بن مزاحم	"	۳۲۴۸- سعید بن عمرو
۲۲۸	۳۲۷۶- سعید بن م سلمہ بن ہشام بن عبد الملک بن مروان اموی	"	۳۲۴۹- سعید بن ابو عمرہ
"	۳۲۷۷- سعید بن معروف بن رافع بن خدیج	"	۳۲۵۰- سعید بن عمیر
"	۳۲۷۸- سعید بن معن	"	۳۲۵۱- سعید بن عنبہ رازی
۲۲۹	۳۲۷۹- سعید بن ابومغیرہ	"	۳۲۵۲- سعید بن عنبہ
"	۳۲۸۰- سعید بن منصور (بن شعبہ) خراسانی	"	۳۲۵۳- سعید بن عنبہ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۳۵	_____ سعید انصاری - ۳۳۰۸	۲۲۹	_____ سعید بن مہلب - ۳۲۸۱
"	_____ سعید قیس - ۳۳۰۹	"	_____ سعید بن مہاجر - ۳۲۸۲
"	_____ سعید تمار - ۳۳۱۰	"	_____ سعید بن موسیٰ ازدی - ۳۲۸۳
"	_____ ﴿سعیر، سفر﴾	۲۳۰	_____ سعید بن میسرہ بکری بصری ابو عمران - ۳۲۸۴
"	_____ سعیر بن خمس - ۳۳۱۱	۲۳۱	_____ سعید بن میمون - ۳۲۸۵
۲۳۶	_____ سفر بن نسیر حمصی - ۳۳۱۲	"	_____ سعید بن نشیط - ۳۲۸۶
"	_____ ﴿سفیان﴾	"	_____ سعید بن ابونصر سکونی - ۳۲۸۷
"	_____ سفیان بن ابراہیم کوفی - ۳۳۱۳	۲۳۲	_____ سعید بن نعمان - ۳۲۸۸
"	_____ سفیان بن حسین واسطی - ۳۳۱۴	"	_____ سعید بن نمران - ۳۲۸۹
۲۴۰	_____ سفیان بن زیاد - ۳۳۱۵	"	_____ سعید بن ہاشم فیومی مصری - ۳۲۹۰
"	_____ سفیان بن زیاد مخزومی - ۳۳۱۶	"	_____ سعید بن ہاشم مخزومی - ۳۲۹۱
"	_____ سفیان بن زیاد غسانی - ۳۳۱۷	"	_____ سعید بن ہبیرہ مروزی - ۳۲۹۲
۲۴۱	_____ سفیان بن زیاد واسی - ۳۳۱۸	۲۳۳	_____ سعید بن ابولہلال - ۳۲۹۳
"	_____ سفیان بن زیاد - ۳۳۱۹	"	_____ سعید بن ہناد بوشنی - ۳۲۹۴
"	_____ سفیان بن زیاد - ۳۳۲۰	"	_____ سعید بن ہند خزاز - ۳۲۹۵
"	_____ سفیان بن زیاد بصری - ۳۳۲۱	"	_____ سعید بن واصل - ۳۲۹۶
"	_____ سفیان بن زیاد عقیلی (بصری) - ۳۳۲۲	"	_____ سعید بن یحییٰ الخمی، سعدان، ابویحییٰ کوفی - ۳۲۹۷
"	_____ سفیان بن زیاد - ۳۳۲۳	"	_____ سعید بن یحییٰ ابوسفیان حمیری - ۳۲۹۸
"	_____ سفیان بن زیاد عصفری، ابورقاء - ۳۳۲۴	۲۳۴	_____ سعید بن یزید بن الصلت - ۳۲۹۹
"	_____ سفیان بن سعید - ۳۳۲۵	"	_____ سعید بن یزید الحمسی - ۳۳۰۰
۲۴۲	_____ سفیان بن ابوسراج - ۳۳۲۶	"	_____ سعید بن یوسف یمامی رحمی شامی - ۳۳۰۱
"	_____ سفیان بن عامر - ۳۳۲۷	"	_____ سعید بن یوسف ہجری، - ۳۳۰۲
"	_____ سفیان بن عقبہ کوفی - ۳۳۲۸	"	_____ سعید الرعینی - ۳۳۰۳
"	_____ سفیان بن ابوعوجاء - ۳۳۲۹	"	_____ سعید حرثی - ۳۳۰۴
۲۴۳	_____ سفیان بن عیینہ ہلالی - ۳۳۳۰	۲۳۵	_____ سعید - ۳۳۰۵
۲۴۴	_____ سفیان بن لیل کوفی - ۳۳۳۱	"	_____ سعید مولیٰ نمران - ۳۳۰۶
۲۴۵	_____ سفیان بن محمد فزاری مصیعی - ۳۳۳۲	"	_____ سعید مؤدب - ۳۳۰۷

صفحه	مضامین	صفحه	مضامین
۲۵۶	۳۳۵۹- سلام بن ابوطیح بصری	۲۳۶	۳۳۳۳- سفیان بن معاذ بن قیس مصری
۲۵۷	۳۳۶۰- سلام بن واقد مروزی	"	۳۳۳۴- سفیان بن موسیٰ بصری
"	۳۳۶۱- سلام بن وهب جندی	"	۳۳۳۵- سفیان بن هبط، بصری
"	۳۳۶۲- سلام بن یزید قارئ بصری	"	۳۳۳۶- سفیان بن هشام، مروزی
۲۵۸	۳۳۶۳- سلام، قیل ابوسلام	"	۳۳۳۷- سفیان بن وکیع بن جراح، ابو محمد واسی
"	سلامه ﴿﴾	۲۳۷	۳۳۳۸- سقر بن عبدالرحمن
"	۳۳۶۴- سلامه بن روح ایلی	"	۳۳۳۹- سکین بن ابوسراج
۲۵۹	۳۳۶۵- سلامه بن سلام	۲۳۸	۳۳۴۰- سکین بن عبدالعزیز بن قیس عبیدی بصری
"	۳۳۶۶- سلامه بن عمر مصری	"	۳۳۴۱- سکین بن عبدالعزیز
"	۳۳۶۷- سلامه اسدی	"	﴿سلام﴾
"	۳۳۶۸- سلامه بن قیصر	"	۳۳۴۲- سلام بن حارث
"	﴿سلم﴾	"	۳۳۴۳- سلام بن ابوشمزه عطار بصری
۲۶۰	۳۳۶۹- سلم بن ابراهیم وارق	۲۳۹	۳۳۴۴- سلام بن رزین
"	۳۳۷۰- سلم بن بایق، ابوخلیل	"	۳۳۴۵- سلام بن سعید بصری عطار
"	۳۳۷۱- سلم بن جعفر	"	۳۳۴۶- سلام بن سلم
"	۳۳۷۲- سلم بن جناده ابوسائب	۲۵۱	۳۳۴۷- سلام بن سلیم ابواحوص حنفی کوفی
"	۳۳۷۳- سلم بن زریر	۲۵۲	۳۳۴۸- سلام بن سلیمان ابومنذر مغزی بصری قاری
۲۶۱	۳۳۷۴- سلم بن سالم نخعی زاہد	"	۳۳۴۹- سلام بن سلیمان بن سوار، ابوالعباس ثقفی مدائنی
"	۳۳۷۵- سلم بن سلیمان، ابوهاشم ضعی بصری	۲۵۳	۳۳۵۰- سلام بن سوار
"	۳۳۷۶- سلم بن عبداللہ زاہد	"	۳۳۵۱- سلام بن شرمیل
۲۶۲	۳۳۷۷- سلم بن عبدالرحمن نخعی	"	۳۳۵۲- سلام بن صبح
"	۳۳۷۸- سلم بن عبدالرحمن جری	۲۵۵	۳۳۵۳- سلام بن ابوصہباء، ابومنذر بصری فزاری
"	۳۳۷۹- سلم بن عطیہ	"	۳۳۵۴- سلام بن عبداللہ، ابوحفص
"	۳۳۸۰- سلم بن قتیبہ بابلی	"	۳۳۵۵- سلام بن ابوعمره خراسانی
"	۳۳۸۱- سلم بن قیس	۲۵۶	۳۳۵۶- سلام بن عمرو یثقری
"	۳۳۸۲- سلم بن (محمد) وراق	"	۳۳۵۷- سلام بن قیس
۲۶۳	۳۳۸۳- سلم بن مغیرہ، ابوحذیفہ	"	۳۳۵۸- سلام بن مسکین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۶۹	۳۲۰۹۔ سلمہ بن ابوظیفیل	۲۶۳	۳۳۱۔ سلم بن میمون زابدرازی خواص
"	۳۲۱۰۔ سلمہ بن عبدالملک عوصی	"	۳۳۱۵۔ سلم علوی بصری ابن قیس
"	۳۲۱۱۔ سلمہ بن عبید اللہ بن محسن	۲۶۴	﴿سلمان﴾
"	۳۲۱۲۔ سلمہ بن فضل قرشی	"	۳۳۱۰۔ سلمان بن فروخ
۲۷۰	۳۲۱۳۔ سلمہ بن فضل ابرش	"	۳۳۱۱۔ سلمان، شامی
"	۳۲۱۴۔ سلمہ بن محمد بن عمار بن یاسر، ابو عبیدہ	"	﴿سلمہ﴾
"	۳۲۱۵۔ سلمہ بن مسلم	"	۳۳۱۱۔ سلمہ بن احمد سمرقندی
۲۷۱	۳۲۱۶۔ سلمہ بن نبیط بن شریط شحجی	"	۳۳۱۶۔ سلمہ بن ازرق
"	۳۲۱۷۔ سلمہ بن وردان ابو یعلیٰ جندعی مولا ہم مدنی	۲۶۵	۳۳۵۰۔ سلمہ بن بشر
"	۳۲۱۸۔ سلمہ بن وہرام	"	۳۳۵۱۔ سلمہ بن تمام ابو عبد اللہ شقری کوفی
۲۷۲	۳۲۱۹۔ سلمہ نسبی	۲۶۶	۳۳۹۲۔ سلمہ بن تمام بصری
"	۳۲۲۰۔ سلمہ لیشی	"	۳۳۹۳۔ سلمہ بن حبیب
"	﴿سلمی، سلیط﴾	"	۳۳۹۴۔ سلمہ بن حامد
"	۳۲۲۱۔ سلمی (بن عبد اللہ) ابو بکر ہندی	"	۳۳۹۵۔ سلمہ بن حرب کلابی
"	۳۲۲۲۔ سلیط	"	۳۳۹۰۔ سلمہ بن حفص
"	۳۲۲۳۔ سلیط بن عبد اللہ	۲۶۷	۳۳۹۷۔ سلمہ بن رباح
۲۷۳	﴿سلیمان﴾	"	۳۳۹۸۔ سلمہ بن رجاہ کوفی
"	۳۲۲۴۔ سلیمان بن احمد واسطی حافظ	"	۳۳۹۹۔ سلمہ بن روح بن زبناح
"	۳۲۲۵۔ سلیمان بن احمد ملطی خم مصری	"	۳۴۰۰۔ سلمہ بن سابور
"	۳۲۲۶۔ سلیمان بن احمد بن ایوب نخعی طبرانی	"	۳۴۰۱۔ سلمہ بن سائب کلبی
۲۷۴	۳۲۲۷۔ سلیمان بن احمد سر قسطلی	"	۳۴۰۲۔ سلمہ بن سلیمان ضعی
"	۳۲۲۸۔ سلیمان بن ابراہیم بن زرعہ قیروانی	۲۶۸	۳۴۰۳۔ سلمہ بن سلیمان موصلی
"	۳۲۲۹۔ سلیمان بن ابراہیم اصہبانی حافظ	"	۳۴۰۴۔ سلمہ بن سہل کھشل
"	۳۲۳۰۔ سلیمان بن ارقم، ابو معاذ بصری	"	۳۴۰۵۔ سلمہ بن شریح
۲۷۵	۳۲۳۱۔ سلیمان بن ایوب طحی کوفی	"	۳۴۰۶۔ سلمہ بن شریح
۲۷۶	۳۲۳۲۔ سلیمان بن بکیر	"	۳۴۰۷۔ سلمہ بن صالح احمر واسطی
"	۳۲۳۳۔ سلیمان بن بریدہ	۲۶۹	۳۴۰۸۔ سلمہ بن صالح الخنمی مصری

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۸۷	_____ سلیمان بن ربیع نهدی کوفی ۳۴۶۲-	۲۷۶	_____ سلیمان بن بزیج ۳۴۳۴-
"	_____ سلیمان بن ربیع ۳۴۶۳-	"	_____ سلیمان بن بشار ۳۴۳۵-
"	_____ سلیمان بن رجاء ۳۴۶۴-	۲۷۷	_____ سلیمان بن بشیر ۳۴۳۶-
"	_____ سلیمان بن رزین ۳۴۶۵-	"	_____ سلیمان بن ثعلبہ ۳۴۳۷-
"	_____ سلیمان بن زیاد ثقفی واسطی ۳۴۶۶-	"	_____ سلیمان بن جابر ہجری ۳۴۳۸-
۲۸۸	_____ سلیمان بن زیاد، مصری ۳۴۶۷-	"	_____ سلیمان بن جبیر ۳۴۳۹-
"	_____ سلیمان بن زید ۳۴۶۸-	۲۷۸	_____ سلیمان بن جعفر ۳۴۴۰-
"	_____ سلیمان بن سالم ۳۴۶۹-	"	_____ سلیمان بن جنادہ ۳۴۴۱-
"	_____ سلیمان بن سالم قطان مدنی ۳۴۷۰-	"	_____ سلیمان بن حجاج ۳۴۴۲-
۲۸۹	_____ سلیمان بن ابوسراج ۳۴۷۱-	"	_____ سلیمان بن حسان مصری ۳۴۴۳-
"	_____ سلیمان بن سفیان، ابوسفیان مدنی ۳۴۷۲-	"	_____ سلیمان بن حکم بن عوانہ کلبی ۳۴۴۴-
۲۹۰	_____ سلیمان بن سفیان چینی مدائنی ۳۴۷۳-	۲۷۹	_____ سلیمان بن حیان، ابو خالد دار ۳۴۴۶-
"	_____ سلیمان بن سلمی رازی ۳۴۷۴-	۲۸۰	_____ سلیمان بن خارجہ بن زید بن ثابت ۳۴۴۷-
"	_____ سلیمان بن سلمہ خبازی، ابویوب مصی ۳۴۷۵-	"	_____ سلیمان بن ابو خالد مدائنی بزاز ۳۴۴۸-
۲۹۱	_____ سلیمان بن سلمہ ۳۴۷۶-	"	_____ سلیمان بن خالد واسطی ۳۴۴۹-
"	_____ سلیمان بن ابوسلیمان قافلانی ۳۴۷۷-	"	_____ سلیمان بن خربوذ ۳۴۵۰-
۲۹۲	_____ سلیمان بن ابوسلیمان یمامی ۳۴۷۸-	"	_____ سلیمان بن داؤد خولانی، دمشقی ۳۴۵۱-
"	_____ سلیمان بن ابوسلیمان ۳۴۷۹-	۲۸۲	_____ سلیمان بن داؤد یمامی، ابو جمل ۳۴۵۲-
"	_____ سلیمان بن شعیب بن لیث بن سعد مصری ۳۴۸۰-	۲۸۳	_____ سلیمان بن داؤد، ابوداؤد طیالسی ۳۴۵۳-
۲۹۳	_____ سلیمان بن شعیب ہجری ۳۴۸۱-	۲۸۵	_____ سلیمان بن داؤد مقبری شاذ کوفی بصری حافظ، ابویوب ۳۴۵۴-
"	_____ سلیمان بن شہاب ۳۴۸۲-	۲۸۶	_____ سلیمان بن داؤد قرشی ۳۴۵۵-
"	_____ سلیمان بن صلیبہ ملطی ۳۴۸۳-	"	_____ سلیمان بن داؤد جزری ۳۴۵۶-
"	_____ سلیمان بن طرخان تمیمی (بصری قیس مولانا، ہم) ۳۴۸۴-	"	_____ سلیمان بن داؤد بن قیس فراء مدنی ۳۴۵۷-
"	_____ سلیمان بن عبداللہ ابولیدرتی ۳۴۸۵-	"	_____ سلیمان بن داؤد ۳۴۵۸-
"	_____ سلیمان بن عبداللہ بن عویمر ۳۴۸۶-	"	_____ سلیمان بن داؤد حرانی، بومہ ۳۴۵۹-
۲۹۴	_____ سلیمان بن عبداللہ ۳۴۸۷-	۲۸۷	_____ سلیمان بن ابوداؤد ۳۴۶۰-
"	_____ سلیمان بن ابوعبداللہ ۳۴۸۸-	"	_____ سلیمان بن ذکوان ۳۴۶۱-

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۰۶	۳۵۱۶- سلیمان بن مسلم خشاب	۲۹۴	۳۲۸۹- سلیمان بن عبد الحمید بہرانی حمصی
۳۰۷	۳۵۱۷- سلیمان بن معاذ	"	۳۲۹۰- سلیمان بن عبد الرحمن دمشقی حافظ
"	۳۵۱۸- سلیمان بن معافی بن سلیمان رسعنی	۲۹۵	۳۲۹۱- سلیمان بن عبید اللہ انصاری، ابو ایوب رقی خطاب
"	۳۵۱۹- سلیمان بن مہران مدائنی ضریر	۲۹۶	۳۲۹۲- سلیمان بن عبید اللہ غیلانی بصری
۳۰۸	۳۵۲۰- سلیمان بن مہران کاہلی کوفی اعمش	"	۳۲۹۳- سلیمان بن عتیق
۳۰۹	۳۵۲۱- سلیمان بن موسیٰ (اسدی) اشراق، ابو ایوب دمشقی	"	۳۲۹۴- سلیمان بن عتبہ دمشقی
۳۱۰	۳۵۲۲- سلیمان بن موسیٰ زہری کوفی	"	۳۲۹۵- سلیمان بن ابو عثمان کجیحی بصری
۳۱۱	۳۵۲۳- سلیمان بن موسیٰ کوفی، ابو داؤد	"	۳۲۹۶- سلیمان بن عطاء حرانی
"	۳۵۲۴- سلیمان بن نافع عبدی	"	۳۲۹۷- سلیمان بن عمران
۳۱۲	۳۵۲۵- سلیمان بن وہب انصاری	۲۹۸	۳۲۹۸- سلیمان بن عمرو، ابو داؤد نخعی
"	۳۵۲۶- سلیمان بن ہرم	۳۰۱	۳۲۹۹- سلیمان بن عیسیٰ بن کحج سجری
۳۱۳	۳۵۲۷- سلیمان بن یزید، ابو ثنی عمی خزاعی	۳۰۲	۳۵۰۰- سلیمان بن فروخ
"	۳۵۲۸- سلیمان بن بسیر	"	۳۵۰۱- سلیمان بن فضل
"	۳۵۲۹- سلیمان بصری	"	۳۵۰۲- سلیمان بن قرم ابو داؤد ضعی کوفی
۳۱۵	۳۵۳۰- سلیمان	۳۰۳	۳۵۰۳- سلیمان بن کثیر عبدی بصری
"	۳۵۳۱- سلیمان عبدی	۳۰۴	۳۵۰۴- سلیمان بن کران ابو داؤد طفاوی بصری
"	۳۵۳۲- سلیمان، ابو حبیب	"	۳۵۰۵- سلیمان بن ابو کریمہ شامی
"	۳۵۳۳- سلیمان	۳۰۵	۳۵۰۶- سلیمان بن محمد بن یحییٰ
"	۳۵۳۴- سلیمان، ابو صلہ عطار واسطی	"	۳۵۰۷- سلیمان بن محمد قافلانی
"	۳۵۳۵- سلیمان منہبی	"	۳۵۰۸- سلیمان بن محمد بن فضل نہروانی، ابو منصور
"	۳۵۳۶- سلیمان مولیٰ حسن بن علی	"	۳۵۰۹- سلیمان بن محمد ہاشمی
"	۳۵۳۷- سلیمان مولیٰ ابو عثمان کجیحی	۳۰۶	۳۵۱۰- سلیمان بن محمد بن حیان موصلی
"	۳۵۳۸- سلیمان خوزی	"	۳۵۱۱- سلیمان بن مرشد
۳۱۶	﴿ سلیم ﴾	"	۳۵۱۲- سلیمان بن مرقاع جندی
"	۳۵۳۹- سلیم بن یحییٰ	"	۳۵۱۳- سلیمان بن مساتق مدنی
"	۳۵۴۰- سلیم بن عثمان فوزی، ابو عثمان حمصی	"	۳۵۱۴- سلیمان بن مسافع ججی
۳۱۷	۳۵۴۱- سلیم بن عقبہ قار	"	۳۵۱۵- سلیمان بن مسلم

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۲۲	۳۵۶۳-سمیہ	۳۱۷	۳۵۴۲-سلیم بن عمرو انصاری شامی
"	﴿شان﴾	"	۳۵۴۳-سلیم بن عیسیٰ کوفی قاری
"	۳۵۶۴-شان بن ربیعہ	۳۱۸	۳۵۴۴-سلیم بن مطیر
۳۲۳	۳۵۶۵-شان بن سعد	"	۳۵۴۵-سلیم بن منصور بن عمار، ابوحسن
"	۳۵۶۶-شان بن عبد اللہ جہنی	"	۳۵۴۶-سلیم
"	۳۵۶۷-شان بن ہارون برجی،	"	۳۵۴۷-سلیم، ابو میمونہ
"	۳۵۶۸-شان مولیٰ واثلہ	۳۱۹	۳۵۴۸-سلیم، ابو عتبہ سلمی
"	۳۵۶۹-شان بن یزید رهاوی	"	﴿ذکر سلیم بالفتح﴾
۳۲۴	﴿سندول، سندی﴾	"	۳۵۴۹-سلیم بن صالح
"	۳۵۷۰-سندول	"	۳۵۵۰-سلیم بن مسلم کی خشاب کاتب
"	۳۵۷۱-سندی بن ابو ہارون	"	﴿سماک﴾
"	﴿سنید﴾	"	۳۵۵۱-سماک بن حرب، ابو مغیرہ ہذلی کوفی
"	۳۵۷۲-سنید بن داؤد مصیعی محتسب	۳۲۰	۳۵۵۲-سماک بن سلمہ ضعی
۳۲۵	﴿سہل﴾	"	۳۵۵۳-سماک بن فضل یمانی
"	۳۵۷۳-سہل بن احمد دیاج	۳۲۱	۳۵۵۴-سماک ابو ولید یمانی
"	۳۵۷۴-سہل بن ادریس	"	﴿سمرہ﴾
"	۳۵۷۵-سہل بن تمام	"	۳۵۵۵-سمرہ بن تمیم
"	۳۵۷۶-سہل بن ثعلبہ	"	﴿سمعان﴾
"	۳۵۷۷-سہل بن حزن بن نباتہ	"	۳۵۵۶-سمعان بن مالک
"	۳۵۷۸-سہل بن حماد	"	۳۵۵۷-سمعان بن مشج
۳۲۶	۳۵۷۹-سہل بن خاقان	"	۳۵۵۸-سمعان بن مہدی
"	۳۵۸۰-سہل بن رجاء	۳۲۲	﴿سعی، سمیر﴾
"	۳۵۸۱-سہل بن زیاد، ابو زیاد	"	۳۵۵۹-سعی بن قیس
"	۳۵۸۲-سہل بن زیاد، ابو علی قطان	"	۳۵۶۰-سمیر بن داؤد
"	۳۵۸۳-سہل بن سلیمان اسود، بصری	"	۳۵۶۱-سمیر بن نہار
۳۲۷	۳۵۸۴-سہل بن ابوہل	"	﴿سمیح، سمیہ﴾
"	۳۵۸۵-سہل بن صحر	"	۳۵۶۲-سمیح بن زاذان

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۳۵	۳۶۱۲- سہیل بن ابو فرقد	۳۲۷	۳۵۸۶- سہل بن صقیر، ابو حسن خلاطی
"	﴿سوادہ﴾	"	۳۵۸۷- سہل بن ابوصلت سراج
"	۳۶۱۳- سوادہ بن ابراہیم انصاری	۳۲۸	۳۵۸۸- سہل بن عامر بجلی
"	۳۶۱۴- سوادہ بن اسماعیل	"	۳۵۸۹- سہل بن عامر نیشاپوری
"	۳۶۱۵- سوادہ بن علی کوفی	"	۳۵۹۰- سہل بن عباس ترمذی
"	﴿سوار﴾	"	۳۵۹۱- سہل بن عبداللہ بن بریدہ مروزی
۳۳۶	۳۶۱۶- سوار بن داؤد ابو حمزہ	"	۳۵۹۲- سہل بن عبداللہ مروزی
"	۳۶۱۷- سوار بن سہل	۳۲۹	۳۵۹۳- سہل بن علی
"	۳۶۱۸- سوار بن عبداللہ بن قدامہ عتیری قاضی بصری	"	۳۵۹۴- سہل بن عمار نیشاپوری
"	۳۶۱۹- سوار بن عمر	"	۳۵۹۵- سہل بن ابو فرقد
۳۳۷	۳۶۲۰- سوار بن محمد بن قریش، مصری	"	۳۵۹۶- سہل بن قرین
"	۳۶۲۱- سوار بن مصعب ہمدانی کوفی، ابو عبداللہ اعلمی مؤذن	۳۳۰	۳۵۹۷- سہل بن معاذ بن انس جہنی
"	۳۶۲۲- سوار، ابو ادریس مرہبی کوفی	"	۳۵۹۸- سہل بن ہاشم شامی
۳۳۸	۳۶۲۳- سوار	"	۳۵۹۹- سہل بن یزید
"	﴿سوید﴾	"	۳۶۰۰- سہل بن فلان فزاری
"	۳۶۲۴- سوید بن ابراہیم بصری عطار	۳۳۱	۳۶۰۱- سہل
۳۳۹	۳۶۲۵- سوید بن خطاب	"	۳۶۰۲- سہل، ابو حریر مولیٰ مغیرہ
"	۳۶۲۶- سوید بن سعید، ابو محمد ہرودی حدثنیٰ انباری	"	۳۶۰۳- سہل اعرابی، بصری
۳۴۰	۳۶۲۷- سوید بن سعید دقاق	۳۳۲	۳۶۰۴- سہل بن حصین
۳۴۱	۳۶۲۸- سوید بن عبدعزیز دمشقی	"	﴿سہیل﴾
۳۴۵	۳۶۲۹- سوید بن عمرو کلبی، ابو ولید، کوفی	"	۳۶۰۵- سہیل بن بیان
"	۳۶۳۰- سوید بن قیس، مصری	"	۳۶۰۶- سہیل بن ابو حمزہ
"	۳۶۳۱- سوید بن وہب	"	۳۶۰۷- سہیل بن خلاد عبدی
"	﴿سویدہ﴾	"	۳۶۰۸- سہیل بن ذکوان، ابوسندی
"	۳۶۳۲- سویدہ بنت جابر	۳۳۳	۳۶۰۹- سہیل بن ابوصالح ذکوان السمان
"	﴿سیار﴾	۳۳۴	۳۶۱۰- سہیل بن ابو حمزہ مہران قطعی
۳۴۶	۳۶۳۳- سیار بن حاتم عنزی بصری	۳۳۵	۳۶۱۱- سہیل بن عمیر

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۵۴	۳۶۵۶- شاہین بن حیان،	۳۴۶	۳۶۳۴- سیار بن مغرور
"	۳۶۵۷- شباب بن العلاء	"	۳۶۳۵- سیار بن ابو منصور
۳۵۵	﴿شبابہ﴾	۳۴۷	﴿سیدان، سید﴾
"	۳۶۵۸- شبابہ بن سوار مدائنی	"	۳۶۳۶- سیدان بن مضارب باہلی
۳۵۶	﴿شبث، شبل﴾	"	۳۶۳۷- سید بن شماس بصری
"	۳۶۵۹- شبث بن ربیع	"	۳۶۳۸- سید بن عیسیٰ کوفی
"	۳۶۶۰- شبل بن علاء بن عبدالرحمن	"	﴿سویہ، سیف﴾
"	﴿شبوہ، شبیل﴾	"	۳۶۳۹- سویہ
"	۳۶۶۱- شبویہ	"	۳۶۴۰- سیف بن ابوزیاد
"	۳۶۶۲- شیب بن بشر بکلی بصری	"	۳۶۴۱- سیف بن سلیمان مکی
۳۵۷	۳۶۶۳- شیب بن سعید حطلی بصری	۳۴۸	۳۶۴۲- سیف بن عمر ضی اسیدی
"	۳۶۶۴- شیب بن سلیم	۳۴۹	۳۶۴۳- سیف بن عمیرہ
"	۳۶۶۵- شیب بن شیبہ	"	۳۶۴۴- سیف بن محمد کوفی
۳۵۸	۳۶۶۶- شیب بن عبدالملک تمیمی بصری	۳۵۰	۳۶۴۵- سیف بن مسکین
"	۳۶۶۷- شیب بن مہران عبدی	۳۵۱	۳۶۴۶- سیف بن منیر
۳۵۹	۳۶۶۸- شیب بن فلان، ابو حارث	۳۵۲	۳۶۴۷- سیف بن ابو مغیرہ
"	۳۶۶۹- وشمیل بن عائد	"	۳۶۴۸- سیف بن ہارون برجی کوفی
"	﴿شجاع﴾	"	۳۶۴۹- سیف بن ہارون
"	۳۶۷۰- شجاع بن اسلم حاسب	۳۵۳	۳۶۵۰- سیف بن وہب
"	۳۶۷۱- شجاع بن عبدالرحمن	"	۳۶۵۱- سیف، شامی
"	۳۶۷۲- شجاع بن بیان واسطی	"	۳۶۵۲- سیف آمدی
"	۳۶۷۳- شجاع بن ولید ابو بدر سکونی حافظ	﴿حرف الشین﴾	
۳۶۰	۳۶۷۴- شجاع بن مخلد فلاس	۳۵۴	﴿شاذان، شاذ، شاہ﴾
"	۳۶۷۵- شجاع	"	۳۶۵۳- شاذان
۳۶۱	﴿شداد﴾	"	۳۶۵۴- شاذ بن فیاض
"	۳۶۷۶- شداد بن حارث	"	۳۶۵۵- شاہ بن شیر بامیان اخراسانی
"	۳۶۷۷- شداد بن ابوسلام	"	﴿شاہین، شباب﴾

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۶۶	۳۷۰۱- شریک بن عبد اللہ بن ابو نمر مَدَنی	۳۶۱	۳۶۷۸- شداد بن سعید راسبی
۳۶۷	۳۷۰۲- شریک بن عبد اللہ (عو، م) نخعی، ابو عبد اللہ کوفی	"	۳۶۷۹- شداد بن ابو عمرو بن حماس
"	﴿شعبہ﴾	"	۳۶۸۰- شداد، مولیٰ عیاض
۳۷۱	۳۷۰۳- شعبہ بن عجلان عتکی اسکاف	"	﴿شراحیل، شرحیل﴾
"	۳۷۰۴- شعبہ بن عمرو	"	۳۶۸۱- شراحیل بن سعید
"	۳۷۰۵- شعبہ بن عیاش، ابو بکر کوفی	"	۳۶۸۲- شراحیل بن عبد الحمید
"	۳۷۰۶- شعبہ بن یحییٰ	۳۶۲	۳۶۸۳- شراحیل بن عمرو غنسی
۳۷۲	۳۷۰۷- شعبہ	"	۳۶۸۴- شراحیل بن عمرو
"	۳۷۰۸- و شعبہ بن بریدہ خفی	"	۳۶۸۵- شراحیل
"	﴿شعیب﴾	"	۳۶۸۶- شراحیل
"	۳۷۰۹- شعیب بن ابراہیم کوفی	"	۳۶۸۷- شرحبیل بن سعد مدنی
"	۳۷۱۰- شعیب بن احمد بغدادی	۳۶۳	۳۶۸۸- شرحبیل بن حکم
"	۳۷۱۱- شعیب بن احمد فرغانی	"	۳۶۸۹- شرحبیل بن شریک
"	۳۷۱۲- شعیب بن ابواشعث	"	۳۶۹۰- شرحبیل بن مسلم خولانی
"	۳۷۱۳- شعیب بن ایوب صریغینی مقروی	۳۶۴	﴿شرقی﴾
"	۳۷۱۴- شعیب بن بکار	"	۳۶۹۱- شرقی بن قطامی
۳۷۳	۳۷۱۵- شعیب بن بیان صفار	۳۶۵	۳۶۹۲- شرقی بصری
"	۳۷۱۶- شعیب بن حاتم	"	۳۶۹۳- شرقی جعفی
"	۳۷۱۷- شعیب بن حرب	"	﴿شرح، شریح، شریق﴾
"	۳۷۱۸- شعیب بن حرب مدائنی	"	۳۶۹۴- شرح بن نعمان صائدی
"	۳۷۱۹- شعیب بن حیان بصری	"	۳۶۹۵- شریح سلمیٰ
"	۳۷۲۰- شعیب بن راشد کوفی	"	۳۶۹۶- شریق ہوزنی حمصی
"	۳۷۲۱- شعیب بن ابوراشد	۳۶۶	﴿شریک﴾
۳۷۴	۳۷۲۲- شعیب بن رزق شامی، ابوشیبہ مقدسی	"	۳۶۹۷- شریک بن تمیم
"	۳۷۲۳- شعیب بن رزق طائفی	"	۳۶۹۸- شریک بن جنبل
"	۳۷۲۴- شعیب بن سہل	"	۳۶۹۹- شریک بن سہیل شامی
"	۳۷۲۵- شعیب بن صفوان	"	۳۷۰۰- شریک بن شہاب

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۷۹	۳۷۵۰- شمر بن نیر مصری،	۳۷۲۶	۳۷۲۶- شعیب بن طلحہ بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق
"	﴿شملہ، شمیر، شمیلہ﴾	۳۷۲۷	۳۷۲۷- شعیب بن عمرو
"	۳۷۵۱- شملہ بن منیب کلبی	۳۷۲۸	۳۷۲۸- شعیب بن عمرو بن طحان
"	۳۷۵۲- شملہ بن ہزال	"	۳۷۲۹- شعیب بن فیروز، بغدادی
"	۳۷۵۳- شمیر	"	۳۷۳۰- شعیب بن کیسان
۳۸۰	۳۷۵۴- شمیلہ بن محمد بن جعفر بن ابوبہاشم علوی حسنی مکی	"	۳۷۳۱- شعیب بن مبشر
"	﴿شہاب﴾	۳۷۳۲	۳۷۳۲- شعیب بن محمد بن فضل کوفی
"	۳۷۵۵- شہاب بن خراش	"	۳۷۳۳- شعیب بن میمون
۳۸۱	۳۷۵۶- شہاب بن شرفہ مجاشعی بصری مقبر	"	۳۷۳۴- شعیب بن واقد
"	۳۷۵۷- شہاب بن عباد	"	۳۷۳۵- شعیب بن یحییٰ تجیبی
۳۸۲	۳۷۵۸- شہاب سہوردی	"	۳۷۳۶- شعیب جبائی،
"	۳۷۵۹- شہاب	"	﴿شعیف، شفعہ﴾
"	۳۷۶۰- شہاب	۳۷۳۷	۳۷۳۷- شعیف بن شداد
"	﴿شہر﴾	"	۳۷۳۸- شعیف بن عبید اللہ بن زبیب
"	۳۷۶۱- شہر بن حوشب اشعری	"	۳۷۳۹- شعیف بن محرز
"	﴿شوکر، شبیان﴾	"	۳۷۴۰- شفعہ (بن) سمی
۳۸۵	۳۷۶۲- شوکر	"	﴿شقیق﴾
"	۳۷۶۳- شبیان نحوی	"	۳۷۴۱- شقیق بن حمزہ اسدی
"	۳۷۶۴- شبیان بن فروخ ابلی	"	۳۷۴۲- شقیق بن حیان
"	۳۷۶۵- شبیان بن محرم	۳۷۴۸	۳۷۴۳- شقیق ضعی
"	﴿شیبہ، شیخ﴾	"	۳۷۴۴- شقیق عقیلی
"	۳۷۶۶- شیبہ بن نعامہ	"	۳۷۴۵- شقیق
۳۸۶	۳۷۶۷- شیبہ خضریٰ	"	۳۷۴۶- شقیق ثنی
"	۳۷۶۸- شیخ بن ابو خالد	"	﴿شمر﴾
	﴿حرف الصاد﴾	"	۳۷۴۷- شمر بن ذی جوشن، ابوسابغہ ضبابی
۳۸۷	﴿صاعد﴾	۳۷۴۹	۳۷۴۸- شمر بن عطیہ
"	۳۷۶۹- صاعد بن حسن ربیع، ابوعلاء	"	۳۷۴۹- شمر بن عکرمہ

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۹۶	۳۷۹۶- صالح بن رستم، ابو عامر خزاز	۳۸۷	۳۷۷۰- صاعد بن مسلم
"	۳۷۹۷- صالح بن رستم	"	صالح
۳۹۷	۳۷۹۸- صالح بن ریح	"	۳۷۷۱- صالح بن ابراہیم بن محمد بن طلحہ بن عبید اللہ
"	۳۷۹۹- صالح بن رؤبہ	"	۳۷۷۲- صالح بن احمد بن ابو مقاتل
"	۳۸۰۰- صالح بن رومان حجازی	۳۸۸	۳۷۷۳- صالح بن احمد بن یونس ہروی
"	۳۸۰۱- صالح بن زیاد	"	۳۷۷۴- صالح بن ابو اخضر بصری
"	۳۸۰۲- صالح بن سرج	۳۸۹	۳۷۷۵- صالح بن اسحاق بن کلی بصری
"	۳۸۰۳- صالح بن سلیمان	"	۳۷۷۶- صالح بن ابو الاسود کوفی خیاط
"	۳۸۰۴- صالح بن شریح	"	۳۷۷۷- صالح بن بشر سدوسی
۳۹۸	۳۸۰۵- صالح بن صالح بن حنی	"	۳۷۷۸- صالح بن بشیر الزاہد
"	۳۸۰۶- صالح بن عامر	۳۹۱	۳۷۷۹- صالح بن بشیر بن فذیک
"	۳۸۰۷- صالح بن عبد اللہ بن صالح مدنی	"	۳۷۸۰- صالح بن بیان
"	۳۸۰۸- صالح بن عبد اللہ قیروانی	"	۳۷۸۱- صالح بن جبلہ
"	۳۸۰۹- صالح بن عبد اللہ کرمانی	"	۳۷۸۲- صالح بن جبیر
"	۳۸۱۰- صالح بن ابوصالح اسدی	۳۹۲	۳۷۸۳- صالح بن ابو جبیر
"	۳۸۱۱- صالح بن ابوصالح	"	۳۷۸۴- صالح بن حریش
"	۳۸۱۲- صالح بن عبد اللہ، ابو یحییٰ	"	۳۷۸۵- صالح بن ابو حسان
۳۹۹	۳۸۱۳- صالح بن صہیب رومی	۳۹۳	۳۷۸۶- صالح بن ابو حسان مدنی
"	۳۸۱۴- صالح بن عبد جبار	"	۳۷۸۷- صالح بن حسین بن صالح سواق
"	۳۸۱۵- صالح بن عبد القدوس، ابو فضل ازدی	"	۳۷۸۸- صالح بن حیان قرشی کوفی
۴۰۱	۳۸۱۶- صالح بن عبد الکبیر بن شعیب بن حجاب	۳۹۵	۳۷۸۹- صالح بن خیوان
"	۳۸۱۷- صالح بن عبد الکبیر مسمعی	"	۳۷۹۰- صالح بن دراج کاتب
"	۳۸۱۸- صالح بن عبید اللہ ازدی	"	۳۷۹۱- صالح بن دیمم
"	۳۸۱۹- صالح بن عبید، ابو مصعب	"	۳۷۹۲- صالح بن دینار
"	۳۸۲۰- صالح بن عبید	"	۳۷۹۳- صالح بن دینار تمار
"	۳۸۲۱- صالح بن عجلان	"	۳۷۹۴- صالح بن راشد
"	۳۸۲۲- صالح بن ابو عریب	"	۳۷۹۵- صالح بن رزق عطار

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۱۰	۳۸۴۹- صباح بن عبد اللہ عبدی	۴۰۲	۳۸۲۳- صالح بن عمران، ابو شعیب الدّعاء
"	۳۸۵۰- صباح بن عبد اللہ	"	۳۸۲۴- صالح بن عمرو
"	۳۸۵۱- صباح بن مجالد	"	۳۸۲۵- صالح بن قدامہ حجازی
"	۳۸۵۲- صباح بن محارب، (تمیمی) کوفی	"	۳۸۲۶- صالح بن کثیر
۴۱۱	۳۸۵۳- صباح بن محمد بکلی	"	۳۸۲۷- صالح بن کندیر
"	۳۸۵۴- صباح بن موسیٰ	"	۳۸۲۸- صالح بن کیسان
"	۳۸۵۵- صباح بن یحییٰ	"	۳۸۲۹- صالح بن محمد بن زائدہ، ابو واقد لیشی مدنی
۴۱۲	۳۸۵۶- صباح عبدی	۴۰۴	۳۸۳۰- صالح بن محمد ترمذی
"	﴿صباح﴾	۴۰۵	۳۸۳۱- صالح بن محمد
"	۳۸۵۷- صباح بن بزلیح	"	۳۸۳۲- صالح بن محمد بن حرب
"	۳۸۵۸- صباح بن دینار	"	۳۸۳۳- صالح بن مسلم
"	۳۸۵۹- صباح بن سعید	"	۳۸۳۴- صالح بن ابوصالح مہران
"	۳۸۶۰- صباح بن عبد اللہ	"	۳۸۳۵- صالح بن مقاتل
"	۳۸۶۱- صباح بن عبد اللہ	"	۳۸۳۶- صالح بن موسیٰ
۴۱۳	۳۸۶۲- صباح بن عبد اللہ فرغانی	۴۰۶	۳۸۳۷- صالح بن میسرہ
"	۳۸۶۳- صباح بن عمیر	۴۰۷	۳۸۳۸- صالح بن نہمان مدنی
"	۳۸۶۴- صباح بن محرز مقرانی	۴۰۸	۳۸۳۹- صالح بن واقد لیشی
"	۳۸۶۵- صباح- بالضم	"	۳۸۴۰- صالح بن ولید
"	﴿صبی، صحر﴾	۴۰۹	۳۸۴۱- صالح بن یحییٰ بن مقدام
"	۳۸۶۶- صبی بن اشعث سلولی	"	۳۸۴۲- صالح عبدی
۴۱۴	۳۸۶۷- صحر بن اسحاق حجازی	"	۳۸۴۳- صالح سلمیٰ
"	۳۸۶۸- صحر بن بدر	"	۳۸۴۴- صالح شیبانی
"	۳۸۶۹- صحر بن جویریہ	"	۳۸۴۵- صالح قیراطی
"	۳۸۷۰- صحر بن عبد اللہ بن حرمہ	"	۳۸۴۶- صالح یاع اکیسہ
"	۳۸۷۱- صحر بن ابو غلیظ	"	﴿صامت، صباح﴾
"	۳۸۷۲- صحر بن محمد منقری حاجبی مروزی	"	۳۸۴۷- صامت بن نخیل یشرکی
۴۱۶	﴿صدقہ﴾	"	۳۸۴۸- صباح بن ہبل

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۲۲	۳۸۹۷- صعق بن حبیب	۴۱۶	۳۸۷۳- صدقہ بن حسین بغدادی جنلی ناسخ
"	۳۸۹۸- صعق بن حزن بن قیس بکری بصری	"	۳۸۷۴- صدقہ بن رستم اسکاف
"	﴿صغدی﴾	"	۳۸۷۵- صدقہ بن سعید حنفی
"	۳۸۹۹- صغدی بن سنان، ابو معاویہ بصری	"	۳۸۷۶- صدقہ بن سہل، ابوسہل ہنائی
۴۲۳	۳۹۰۰- صغدی کوفی	"	۳۸۷۷- صدقہ بن عبداللہ سیمین، ابو معاویہ دمشق
"	۳۹۰۱- صغدی بن عبداللہ	۴۱۸	۳۸۷۸- صدقہ بن ابو عمران کوفی
"	﴿صفوان﴾	"	۳۸۷۹- صدقہ بن عمرو غسانی
"	۳۹۰۲- صفوان بن رستم	"	۳۸۸۰- صدقہ بن عمرو کلبی
"	۳۹۰۳- صفوان بن ابوصہباء	"	۳۸۸۱- صدقہ بن عیسیٰ حنفی
"	۳۹۰۴- صفوان بن عمران اصم	"	۳۸۸۲- صدقہ بن شتی کعبی
"	۳۹۰۵- صفوان بن قبیصہ	"	۳۸۸۳- صدقہ بن مہاہل
"	۳۹۰۶- صفوان بن ہبیرہ، بصری	۴۱۹	۳۸۸۴- صدقہ بن موسیٰ وقتیبی بصری، ابو مغیرہ
۴۲۴	﴿صقر﴾	"	۳۸۸۵- صدقہ بن موسیٰ بن تمیم
"	۳۹۰۷- صقر بن حبیب	"	۳۸۸۶- صدقہ بن ہرمز زامی
"	۳۹۰۸- صقر بن عبدالرحمن، ابو بہز	"	۳۸۸۷- صدقہ بن یزید خراسانی، ثم شامی
"	﴿صلت﴾	۴۲۰	۳۸۸۸- صدقہ بن یسار
"	۳۹۰۹- صلت بن بہرام	"	۳۸۸۹- صدقہ رمانی
۴۲۵	۳۹۱۰- صلت بن ججاج	۴۲۱	﴿صدیق﴾
"	۳۹۱۱- صلت بن دینار ابو شعیب مجنون	"	۳۸۹۰- صدیق بن سعید صونانی ترکی
۴۲۶	۳۹۱۲- صلت بن سالم	"	۳۸۹۱- صدیق بن موسیٰ (بن عبداللہ بن زبیر)
"	۳۹۱۳- صلت بن طریف	"	﴿صرد، صعب، صعصع﴾
"	۳۹۱۴- صلت بن طریف معولی	"	۳۸۹۲- صرد بن ابومنازل
"	۳۹۱۵- صلت بن عبدالرحمن انصاری	"	۳۸۹۳- صعب بن حکیم بن شریک بن نملہ کوفی
"	۳۹۱۶- صلت بن عبدالرحمن زبیدی	۴۲۲	۳۸۹۴- صعب بن زید
"	۳۹۱۷- صلت بن عبدالرحمن	"	۳۸۹۵- صعب بن عثمان
۴۲۷	۳۹۱۸- صلت بن قوید	"	۳۸۹۶- صعصع بن صوحان
"	۳۹۱۹- صلت بن مسعود محمدری	"	﴿صعق﴾

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۳۲	۳۹۴۱- ضحاک بن عبدالرحمن بن حوشب نصری دمشقی	۴۲۷	۳۹۲۰- صلت بن مهران
"	۳۹۴۲- ضحاک بن عبدالرحمن بن حوشب نصری دمشقی	۴۲۸	۳۹۲۱- صلت بن یحییٰ
۴۳۳	۳۹۴۳- ضحاک بن عثمان حزامی مدنی	"	۳۹۲۲- صلت سدوسی
"	۳۹۴۴- ضحاک بن عثمان بن ضحاک بن عثمان بن عبداللہ بن خالد،	"	﴿صلہ﴾
"	۳۹۴۵- ضحاک بن عثمان	"	۳۹۲۳- صلہ بن سلیمان عطار، ابوزید واسطی
"	۳۹۴۶- ضحاک بن مخلد ابو عاصم نبیل	۴۲۹	﴿صہیب﴾
"	۳۹۴۷- ضحاک بن مزاحم بلخی مفسر، ابوقاسم	"	۳۹۲۴- صہیب بن مهران
۴۳۴	۳۹۴۸- ضحاک بن مسافر	"	۳۹۲۵- صہیب
"	۳۹۴۹- ضحاک بن میمون ثقفی	"	۳۹۲۶- صہیب عتواری
"	۳۹۵۰- ضحاک بن نیراس، بصری	"	۳۹۲۷- صہیب کی الخداء
"	۳۹۵۱- ضحاک بن یربوع	"	۳۹۲۸- صہیب، ابو صہباء بکری
"	ضحاک بن یسار بصری	"	۳۹۲۹- صہیب
"	۳۹۵۲- ضحاک ضعی	﴿حرف الصاد﴾	
۴۳۵	۳۹۵۳- ضحاک معافری	۴۳۰	﴿ضبارہ﴾
۴۳۶	﴿ضرار﴾	"	۳۹۳۰- ضبارہ بن عبداللہ بن ابوسلیل شامی
"	۳۹۵۴- ضرار بن سہل	"	۳۹۳۱- ضبارہ بن مالک
"	۳۹۵۵- ضرار بن سرد، ابو نعیم طحان	"	﴿ضبیعہ﴾
۴۳۷	۳۹۵۷- ضرار بن عمرو ملطی	"	۳۹۳۲- ضبیعہ بن حسین
"	۳۹۵۸- ضرار بن عمرو قاضی	"	﴿ضحاک﴾
"	۳۹۵۹- ضرار بن علی قاضی، ابو مرجی	"	۳۹۳۳- ضحاک بن ایمن کلبی
۴۳۸	۳۹۶۰- ضرار بن مسعود	"	۳۹۳۴- ضحاک بن حمزہ
"	﴿ضمام﴾	۴۳۱	۳۹۳۵- ضحاک بن جحہ
"	۳۹۶۱- ضمام بن اسماعیل مصری	۴۳۲	۳۹۳۶- ضحاک بن زید اہوازی
"	﴿ضممرہ﴾	"	۳۹۳۷- ضحاک بن شرحبیل
۴۳۹	۳۹۶۲- ضممرہ بن حبیب مقدسی	"	۳۹۳۸- ضحاک بن شرحبیل مصری غافقی
"	۳۹۶۳- ضممرہ بن حبیب حمصی	"	۳۹۳۹- ضحاک بن شرحبیل
"	۳۹۶۴- ضممرہ بن ربیعہ رملی	"	۳۹۴۰- ضحاک بن عبدالرحمن بن عرزب شامی

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۳۵	۳۹۸۵- طاہر بن فضل حلبی	۳۳۰	﴿مضمم﴾
"	﴿طرب، طرفہ﴾	"	۳۹۱۵- مضمم بن زرعہ
"	۳۹۸۶- طرب	"	۳۹۲۰- مضمم بن عمرو
"	۳۹۸۷- طرفہ حضری	"	﴿ضوء﴾
"	﴿طریف﴾	"	۳۹۶۷- ضوء بن ضوء
"	۳۹۸۸- طریف بن زید	﴿حرف الطاء﴾	
۳۳۶	۳۹۸۹- طریف بن سلمان ابوعاتکہ	۳۳۱	﴿طارق﴾
"	۳۹۹۰- طریف بن شہاب سعدی بصری اشل، ابوسفیان	"	۳۹۶۸- طارق بن ابوحساء
۳۳۷	۳۹۹۱- طریف بن عبید اللہ موصلی، ابولید	"	۳۹۶۹- طارق بن زیاد
"	۳۹۹۲- طریف بن عیسیٰ جزری	"	۳۹۷۰- طارق بن عبدالرحمن بجلی
"	۳۹۹۳- طریف بن ناصح	۳۳۲	۳۹۷۱- طارق بن عبدالرحمن بن قاسم
"	۳۹۹۴- طریف بن یزید	"	۳۹۷۲- طارق بن عمار
"	۳۹۹۵- طریف کوفی	"	۳۹۷۳- طارق بن مرثع
"	۳۹۹۶- طریف	"	﴿طالب﴾
۳۳۸	﴿طعمہ، طفیل﴾	"	۳۹۷۴- طالب بن بشیر
"	۳۹۹۷- طعمہ بن عمرو جعفری کوفی	"	۳۹۷۵- طالب بن عبید بن اسلم
"	۳۹۹۸- طفیل بن عمرو تمیمی	۳۳۳	۳۹۷۶- طالب بن حمیر
"	۳۹۹۹- طفیل نخعی	"	۳۹۷۷- طالب بن سمیدع
۳۳۹	۴۰۰۰- طفیل مؤذن	"	۳۹۷۸- طالب (بن عبداللہ)
"	﴿طلحہ﴾	۳۳۴	﴿طالوت﴾
"	۴۰۰۱- طلحہ بن جبر	"	۳۹۷۹- طالوت بن طریف
"	۴۰۰۲- طلحہ بن خراش بن عبدالرحمن بن خراش بن صمد انصاری سلمی	"	۳۹۸۰- طالوت بن عباد صیرفی
"	۴۰۰۳- طلحہ بن رافع	"	﴿طاہر﴾
"	۴۰۰۴- طلحہ بن زید	"	۳۹۸۱- طاہر بن حماد بن عمرو نصیبی
"	۴۰۰۵- طلحہ بن زبیر قتی	"	۳۹۸۲- طاہر بن خالد بن زرارہ ایلی
۳۴۰	۴۰۰۶- طلحہ بن سمرہ	۳۳۵	۳۹۸۳- طاہر بن رشید
"	۴۰۰۷- طلحہ بن صالح	"	۳۹۸۴- طاہر بن اسفراہینی

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۵۹	﴿طلیق، طود﴾	۴۵۱	طلحہ
"	۴۰۳۲۔ طلیق بن محمد بن عمران بن حصین	"	۴۰۰۹۔ طلحہ بن ابوطلیح جو باری جرجانی
"	۴۰۳۵۔ طود بن عبد الملک قیس	"	۴۰۱۰۔ طلحہ بن عبد اللہ بن عبد الرحمن بن حضرت ابوبکر صدیق
"	﴿طیب﴾	۴۵۲	۴۰۱۱۔ طلحہ بن عبد الرحمن مؤدب
"	۴۰۳۶۔ طیب بن زبان عسقلانی	"	۴۰۱۲۔ طلحہ بن علاء حمسی
"	۴۰۳۷۔ طیب بن سلیمان	"	۴۰۱۳۔ طلحہ بن عمرو حضرمی مکی
"	۴۰۳۸۔ طیب بن محمد	۴۵۴	۴۰۱۴۔ طلحہ بن ابوقتان
"	۴۰۳۹۔ طیب	"	۴۰۱۵۔ طلحہ بن کیسان
۴۶۰	﴿طیفور﴾	"	۴۰۱۶۔ طلحہ بن محمد شاہد
"	۴۰۴۰۔ طیفور بن عیسیٰ، بایزید بسطامی	"	۴۰۱۷۔ طلحہ بن نافع، ابوسفیان واسطی
	﴿حرف الظاء﴾	۴۵۵	۴۰۱۸۔ طلحہ بن یحییٰ بن طلحہ بن عبد اللہ تمیمی کوفی
۴۶۱	﴿ظبیان﴾	۴۵۶	۴۰۱۹۔ طلحہ بن یحییٰ بن نعمان بن ابو عیاش زرقی
"	۴۰۴۱۔ ظبیان بن صبیح فضلی	"	۴۰۲۰۔ طلحہ بن یزید شامی
"	۴۰۴۲۔ ظبیان بن عمارہ کوفی	"	۴۰۲۱۔ طلحہ بن یزید ابو حمزہ کوفی
"	۴۰۴۳۔ ظبیان بن محمد محصی	"	۴۰۲۲۔ طلحہ بن یزید
"	۴۰۴۴۔ ظبیان	"	۴۰۲۳۔ طلحہ
"	﴿ظریف﴾	۴۵۷	۴۰۲۴۔ طلحہ القناد،
"	۴۰۴۵۔ ظریف بن ناصح	"	۴۰۲۴۔ طلحہ
۴۶۲	﴿ظفر﴾	"	۴۰۲۵۔ طلحہ ابو یسع
"	۴۰۴۶۔ ظفر بن لیث	"	۴۰۲۶۔ طلحہ حارثی
"	۴۰۴۷۔ ظفر	"	۴۰۲۷۔ طلحہ
۴۶۳	﴿ظلم﴾	۴۵۸	﴿طلق﴾
"	۴۰۴۸۔ ظلم بن حطیط، ابوقاسم جہضمی دہلی	"	۴۰۲۹۔ طلق بن حبیب
"		"	۴۰۳۰۔ طلق بن سح
"		"	۴۰۳۱۔ طلق بن غنم بن طلق بن معاویہ نخعی،
"		"	۴۰۳۲۔ طلق بن معاویہ
"		"	۴۰۳۳۔ طلق بن معاویہ

(دارم، داہر)

۲۵۸۹- دارم (ق)

اس نے سعید بن ابوربدہ سے روایت نقل کی ہے جب کہ اس سے صرف ابواسحاق سہمی نے یہ روایت نقل کی ہے:
لا تسبقونی بالرکوع.

”مجھ سے پہلے رکوع میں نہ جاؤ۔“

ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

۲۵۹۰- داہر بن یحییٰ رازی

یہ رافضی اور بغض رکھنے والا شخص ہے، عقلی نے اس کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول یہ روایت نقل کی ہے:

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال: یا ام سلمة، ان علیا لحمہ من لحمی، وهو بنزلة ہارون من موسیٰ منی، غیر انه لانی بعدی.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ام سلمہ! علی کا گوشت میرے گوشت کا حصہ ہے اور اسے مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، تاہم میرے بعد وہ نبی نہیں ہوگا۔“

اس نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت بھی نقل کی ہے:

قال ابن عباس: ستکون فتنۃ، فمن ادركها فعليه بخصلتين: كتاب اللہ، وعلی بن ابی طالب، فانی سعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول - وهو آخذ بید علی: هذا اول من آمن بی، واول من یصافحنی یوم القیامة، وهو فاروق هذه الامة، یفرق بین الحق والباطل، وهو یعسوب المؤمنین، والبال یعسوب الظلمة، وهو الصدیق الاکبر، وهو خلیفتی من بعدی.

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: عنقریب فتنہ آئے گا جو شخص اس (کا زمانہ) پائے، اس پر دو چیزوں (کے ساتھ رہنا) لازم ہے اللہ کی کتاب اور حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: آپ نے اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔“

”یہ وہ پہلا شخص ہے جو مجھ پر ایمان لایا اور قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کرنے والا پہلا شخص یہ ہوگا یہ اس اُمت کا فاروق ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے یہ اہل ایمان کا سردار ہے اور مال، ظلمت کا سردار ہے یہ صدیق اکبر ہے اور یہ میرے بعد خلیفہ ہوگا۔“

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ روایت جھوٹی ہے میں نے کسی کو داہر کا ذکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ ابن ابی حاتم کو بھی نہیں خرابی کی جڑ اس کا بیٹا عبداللہ ہے جو ”متروک“ ہے۔

۲۵۹۱- داؤد بن ابراہیم باہلی۔

اس نے زہری سے روایات نقل کی ہیں اس کی شناخت پہ یہ نہیں چل سکی۔

۲۵۹۲- داؤد بن ابراہیم

یہ قزوین کا قاضی ہے اس نے شعبہ سے روایات نقل کی ہیں ابو حاتم کہتے ہیں: یہ متروک الحدیث ہے یہ جھوٹ بولتا تھا میں اپنے ماموں کے ساتھ قزوین گیا تو یہ اپنی ”مسند“ اٹھا کر میرے ماموں کے پاس لایا جب میں نے ”مسند ابو بکر“ کے ابتدائی حصہ کا جائزہ لیا تو اس میں ایک حدیث موجود تھی جس کی شعبہ کی طرف جھوٹی نسبت کی گئی تھی تو میں نے اسے ترک کر دیا میرے ماموں نے کوشش کی کہ میں اس سے روایات نوٹ کروں لیکن میں خود کو اس کے لیے تیار نہیں کر سکا۔

اس کی نقل کردہ مصیبتوں میں سے ایک یہ روایت ہے جو اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے:

ان شابا احتضر، فاتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: قل لا اله الا الله. قال: لا اقدر، علی قلبی کھیئة العقدة، فطلب امه، فقال: ارضی عن ابنک. قالت: اشهدک انی راضیة عنه. فقال لها، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الحمد لله الذی نجاه بی.

”ایک نوجوان کا آخری وقت قریب آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم یہ پڑھو: لا اله الا الله! اس نے عرض کی: میں یہ نہیں کر سکتا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے دل میں کوئی گرہ لگی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلوایا اور اس سے فرمایا: تم اپنے بیٹے سے راضی ہو جاؤ۔ اس عورت نے عرض کی: میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں اس سے راضی ہوں تو اس لڑکے نے وہ (کلمہ) پڑھ لیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جس نے میری وجہ سے اسے نجات عطا کی۔“

اس کی سند میں ”فائد“ نامی راوی ہلاکت کا شکار ہونے والا ہے۔

۲۵۹۳- داؤد بن ابراہیم

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے اس نے روایات نقل کی ہیں اس کی شناخت پہ یہ نہیں چل سکی۔

ازدی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت مستند نہیں ہے۔

۲۵۹۶- داؤد بن ابراہیم الواسطی۔

حسب بن سالم سے اس نے روایات نقل کی ہیں، طیالیسی نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے اور اس سے حدیث نقل کی ہے۔

۲۵۹۵- داؤد بن ابراہیم

یہ ایک شیخ ہے؛ جس نے عبدہ بن سلیمان سے روایات نقل کی ہیں۔

۲۵۹۶- داؤد بن ابراہیم۔

اس نے حسن بن شیبہ سے روایت نقل کی ہے؛ یہ دونوں مستور ہیں۔

۲۵۹۷- داؤد بن ابراہیم عقیلی

خالد بن عبداللہ طحان سے اس نے روایات نقل کی ہیں؛ اسے ازدی نے جھوٹا قرار دیا ہے۔

۲۵۹۸- داؤد بن ابراہیم بن روزبہ البوشیبہ

یہ معروف شیخ ہے اور ”صدوق“ ہے۔ یہ 300 ہجری کے بعد کا ہے؛ ضعیف راویوں سے متعلق کتابوں میں کسی نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا؛ یہاں تک کہ ابن جوزی نے بھی نہیں کیا؛ لیکن پھر انہوں نے اپنی بعض تالیفات میں اسے کسی حجت کے بغیر ”واہی“ قرار دیا ہے۔

۲۵۹۹- داؤد بن اسود

اس نے جعفر بن ابومغیرہ سے روایت نقل کی ہے؛ یہ بزرگ ہے اور اس نے تھوڑی روایات نقل کی ہیں؛ ازدی نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔

۲۶۰۰- داؤد بن ایوب قسملی

اس نے عباد بن بشر کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دو موضوع روایات نقل کی ہیں؛ جب کہ اس سے عباس بن فضل اسفاطی نے روایت نقل کی ہے۔

۲۶۰۱- داؤد بن بکر بن ابوفرات۔

یہ داؤد بن ابوفرات ہے؛ جس کا ذکر آگے آئے گا۔

۲۶۰۲- داؤد بن جمیل (ق)

بعض حضرات نے اس کا نام ولید بن جمیل ذکر کیا ہے؛ اس نے کثیر بن قیس کے حوالے سے حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے:

من سلك طريقا يطلب علما.

- ”جو شخص علم کے حصول کے راستے پر چلے۔“

عاصم بن رجاہ بن حیوة نے اس سے روایت نقل کی ہے اس کی حدیث ”مضطرب“ ہے، ازدی نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے، جہاں تک ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے تو انہوں نے اس کا ذکر ”الثقات“ میں کیا ہے۔

داؤد نامی راوی اپنے استاد کی طرح، معروف نہیں ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ”العلل“ میں تحریر کرتے ہیں: عاصم اور اس سے اوپر کے تمام راوی ضعیف ہیں، تاہم یہ بات درست نہیں ہے۔

۲۶۰۳- (صح) داؤد بن حصین (ع) ابوسلیمان مدنی

یہ مشہور محدث ہے، البتہ یہ بعض روایات کو نقل کرنے میں منفرد ہے، اس کی ”نسبت ولاء“ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی آل سے ہے، اس نے اپنے والد (ان کے علاوہ) اعرج اور عکرمہ سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے ابن اسحاق مالک، محمد بن جعفر بن کثیر اور ایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔

یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات یہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں: ہم اس کی نقل کردہ حدیث سے بچا کرتے تھے، امام ابو زرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”لین“ ہے۔

ابو حاتم کہتے ہیں: اگر امام مالک نے اس سے روایت نقل نہ کی ہوتی، تو اس کی نقل کردہ حدیث کو ”متروک“ قرار دیا جاتا، علی بن مدینی کہتے ہیں: عکرمہ کے حوالے سے اس نے جو روایات نقل کی ہیں، وہ ”منکر“ ہیں، حسین بن شجاع بیان کرتے ہیں: میں نے علی بن مدینی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: شععی اور سعید بن مسیب کی نقل کردہ ”مرسل“ روایات میرے نزدیک ان روایات سے زیادہ محبوب ہیں، جو داؤد نے عکرمہ کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہیں۔

امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عکرمہ کے حوالے سے اس کی نقل کردہ روایات ”منکر“ ہیں اور دیگر مشائخ سے نقل کردہ روایات ”مستقیم“ ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کتاب ”الثقات“ میں تحریر کرتے ہیں: اس کا مسلک بُرا تھا، لیکن یہ (اپنے مسلک کا) داعی نہیں تھا، عباس دوری بیان کرتے ہیں: داؤد بن حصین کو میں ضعیف سمجھتا تھا، تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا: وہ ثقہ ہے، ایک مرتبہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

”موطا“ میں اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت منقول ہے، جو اندازے کے تحت ”عرايا“ کو فروخت کرنے کے بارے میں ہے۔

ابن عدی نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے، عکرمہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے:

ما احتلم نبي قط، انما الاحتلام بعثت من الشيطان.

”کبھی کسی نبی کو احتلام نہیں ہوا، کیونکہ احتلام شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔“

ابن عدی کہتے ہیں: اس میں خرابی کی وجہ داؤد کے بعد والا کوئی راوی ہے۔ داؤد ”صالح الحدیث“ ہے۔

امام احمد رضی اللہ عنہ نے اپنی ”مسند“ میں اپنی سند کے ساتھ اس راوی ’عکرمہ‘ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

قال: طلق ركانة بن عبد يزيد اخو المطلب امراته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا

شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا. قال: فقال في

مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فانما تلك واحدة فارجعها ان شئت. قال: فرجعها.

فكان ابن عباس يري: انما الطلاق عند كل طهر.

”حضرت ركانہ بن عبد یزید رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کو ایک ہی محفل میں تین طلاقیں دیدیں، پھر انہیں اس پر بہت افسوس ہوا۔ نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا: تم نے اس عورت کو کیسے طلاق دی تھی؟ انہوں نے عرض کی: میں نے اسے تین طلاقیں

دی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: ایک ہی مجلس میں؟ انہوں نے عرض کی: جی ہاں! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ ایک

شمار ہوگی اگر تم چاہو تو اس عورت سے رجوع کر لو تو انہوں نے اس عورت سے رجوع کر لیا۔“

تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس بات کے قائل تھے: ہر طہر میں ایک طلاق دی جانی چاہیے۔

اس راوی نے عکرمہ کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت بھی نقل کی ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب على ابي العاص بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث

نكاحا.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سال گزر جانے کے باوجود سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کی طرف پہلے نکاح کی بنیاد

پر بھیجا دیا تھا، آپ نے ان کا از سر نو نکاح نہیں کروایا تھا۔“

یہ روایت امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے نقل کی ہے اور یہ کہا ہے: یہ اس حوالے سے معروف نہیں ہے، شاید یہ داؤد نے اپنے حافظے کی بنیاد پر

نقل کی ہے۔

داؤد بن حمصین کا انتقال 135 ہجری میں ہوا، اس پر قدریہ فرقے سے تعلق رکھنے کا بھی الزام ہے۔

ابن حبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ عکرمہ کی طرح بُرے لوگوں کے سے نظریات رکھتا تھا، (یعنی خارجی تھا) لیکن یہ اس مسلک کا داعی نہیں

تھا، جو لوگ داعی ہوں، ان کی نقل کردہ روایات سے پہلو تہی لازم ہوتی ہے۔

۲۶۰۴- داؤد بن حنین

یہ ایک شیخ ہے، جس نے احمد بن مصعب سے روایات نقل کی ہیں، اس کی حالت مجہول ہے۔

۲۶۰۵- داؤد بن خالد لیشی (س) مدنی.

ایک قول کے مطابق (اس کا اسم منسوب) ”مکی“ ہے، اس نے مقبری سے اور اس سے معلیٰ بن منصور اور یحییٰ جمانی نے روایات نقل

کی ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:
 ”جسے قاضی بنایا گیا، اسے گویا چھری کے بغیر زنج کر دیا گیا۔“

یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو انہوں نے کہا: میں اس سے واقف نہیں ہوں۔
 ابن عدی نے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے: مجھے یہ امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس کے حوالے سے
 کچھ ”منکر“ روایات نقل کی ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ ہے، جو اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ”مرفوع“ حدیث
 کے طور پر نقل کی ہے:

کان اذا نزل علیہ الوحی وهو علی ناقته تذرف عینها وتزیف باذنیها
 ”جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی پر تھے تو اس اونٹنی کی آنکھوں سے
 آنسو جاری ہو گئے اور کانوں کو جھکا کر چلنا شروع کر دیا۔“

۲۶۰۶- داؤد بن خالد بن دینار (د) مدنی.

اس نے ربیعہ اور ابن منکدر سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے محمد بن معن اور ابن ابوفدیک نے روایات نقل کی ہیں۔
 ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قوی قرار دیا ہے، ابن مدینی کہتے ہیں: اس کے حوالے سے صرف ایک ہی حدیث کو محفوظ قرار دیا گیا ہے۔
 جو شہداء کی قبور کے بارے میں ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: اس سے یہ روایت منقول ہے اور ایک اور روایت بھی منقول ہے، جو اس نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے
 نقل کی ہے:

کان اذا نزل علیہ الوحی، وهو علی ناقته تذرف عینها وتزیف باذنیها
 ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، آپ اس وقت اپنی اونٹنی پر سوار تھے تو اس اونٹنی کی آنکھوں سے آنسو جاری
 ہو گئے اور کانوں کو جھکا کر چلنا شروع کر دیا۔“

(ابن عدی کہتے ہیں: مجھے یہ امید ہے، اس (راوی میں) کوئی حرج نہیں ہے۔

یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں: داؤد بن خالد بن دینار مدنی ”مجہول“ ہے، ہم اس سے واقف نہیں ہیں، شاید یہ ”ثقة“ ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: شاید یہ اور سابقہ راوی ایک ہی شخصیت ہیں۔

۲۶۰۷- داؤد بن دلہاث جہنی

اس نے اپنے آباؤ اجداد کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، اس کی نقل کردہ حدیث مستند نہیں ہے، یہ بات ازدی نے بیان کی ہے۔

۲۶۰۸- داؤد بن راشد (د) طفاوی صانغ.

اس نے ابو مسلم بکلی سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے معتمر بن سلیمان، مقری اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر ”اشقات“ میں کیا ہے، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: مقری نے اس سے قرآن کے بارے میں ایک حدیث روایت کی ہے یہ راوی کوئی چیز نہیں ہے۔

۲۰۶۰۹- داؤد بن زبرقان (ت، ق) رقاشی، بصری۔

اس نے بغداد میں رہائش اختیار کی تھی اس نے ثابت زید بن اسلم اور ایک مخلوق سے روایات نقل کی ہیں جب کہ اس سے ابن ابوعروہ رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں اس کے ساتھ میں سے ہیں (اور ان کے علاوہ) احمد بن منیع اور ابن عرفہ نے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی حدیث ”مقارب“ ہے، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے ابوزرعہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے ابوداؤد کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے اس کی حدیث کو ترک کر دیا جائے گا۔ جوزجانی کہتے ہیں: یہ کذاب ہے۔

ابن عدی نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے حوالے سے دس سے زیادہ روایات نقل کی ہیں اور انہیں ”منکر“ قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے: اس کی نقل کردہ زیادہ تر روایات کی متابعت نہیں کی گئی۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: اس کا انتقال 180 ہجری کے آس پاس ہوا تھا ابن مدینی کہتے ہیں: میں نے اس سے روایات نوٹ کی تھیں، لیکن پھر انہیں ایک طرف رکھ دیا، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ نہیں ہے۔

۲۰۶۱۰- داؤد بن سلیمان بن جندل۔

علی بن حرب طائی سے اس نے روایات نقل کی ہیں، خطیب کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ نہیں ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: اس نے علی بن حرب کی طرف جھوٹ کے طور پر یہ روایت منسوب کی ہے، جو ان کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

كيف تفلح والدين احب اليك من احني الناس عليك.

”تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو جب کہ دنیا تمہارے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہے، جو تم پر لوگوں سے زیادہ مہربان ہے۔“

۲۰۶۱۱- داؤد بن سلیمان جرجانی الغازی

اس نے امام علی رضا اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ اس سے واقف نہیں ہیں، یہ شیخ بہر صورت کذاب ہے، اس سے ایک نسخہ منقول ہے، جس کی امام علی رضا کی طرف جھوٹی نسبت کی گئی ہے، یہ نسخہ اس سے علی بن محمد بن مہرودیز قزوینی نے نقل کیا ہے، جو اس سے نقل کرنے میں سچا ہے۔

اس نے امام علی رضا کے حوالے سے ان کے والد (اور آباؤ اجداد) کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ ”مرفوع“ حدیث نقل کی

ہے:

اخذتوا اولادکم يوم السابع، فانه اطهر واسرع نبتا للحم، ان الارض تنجس من بول الاقلف

اربعین یوما۔

” (پیدائش کے) ساتویں دن اپنے بچوں کا تختہ کرو، کیونکہ یہ زیادہ پاکیزگی کا باعث بھی ہوگا اور اس سے گوشت جلد بنے گا جس شخص کے تختے نہ ہوئے ہوں اس کے پیشاب سے زمین چالیس دن تک نجس رہتی ہے۔“

اسی سند کے ساتھ یہ روایت بھی منقول ہے:

من ادى فريضة فله دعوة مجابة.

”جو شخص فرض ادا کر لے اسے مستجاب دعا کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔“

اسی سند کے ساتھ یہ روایت بھی منقول ہے:

العلم خزائن ومفتاحه السؤال

”علم خزانہ ہے اور اس کی چابی سوال کرنا ہے۔“

۲۶۱۲- داؤد بن سلیمان

اس نے حازم بن جبلة سے روایات نقل کی ہیں ازدی کہتے ہیں: یہ انتہائی ضعیف ہے (اس کا اسم منسوب) خراسانی ہے۔

۲۶۱۳- داؤد بن سلیمان بن جبیر.

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔

۲۶۱۴- داؤد بن سلیمان.

یہ خالد بن حمید کا استاد ہے یہ دونوں مجہول ہیں۔

۲۶۱۵- داؤد بن سلیمان

اس نے قیس بن ربیع سے روایات نقل کی ہیں یہ جزری بزرگ ہے ازدی نے اسے ”متروک“ قرار دیا ہے۔

۲۶۱۶- داؤد بن سلیمان.

اس نے امیر بلال بن ابو بردہ سے جب کہ اس سے زید بن حباب نے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے۔

۲۶۱۷- داؤد بن شان.

یہ اسحاق فروی کا استاد ہے امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے: اس میں کوئی

حرج نہیں ہے۔

۲۶۱۸- داؤد بن سوار.

اس کا درست نام سوار بن داؤد ابو حمزہ ہے یہ کعب کا استاد ہے اسے ضعیف قرار دیا گیا ہے۔

۲۶۱۹- داؤد بن ابی صالح (د)، مدنی۔

اس نے نافع سے روایات نقل کی ہیں، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”موضوع“ روایات نقل کرتا ہے۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

”نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشی الرجل بین الہراتین اذا استقبلتہا۔

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ جب سامنے سے دو عورتیں آرہی ہوں، تو آدمی ان کے درمیان میں سے گزرے۔“

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی متابعت نہیں کی گئی، امام ابو زرعة رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں صرف اسی حدیث کے حوالے اس سے

واقف ہوں اور یہ ”مکتر“ ہے۔

۲۶۲۰- داؤد بن ابوصالح، حجازی۔

اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی، اس سے ایک روایت منقول ہے، جو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اس سے صرف

ولید بن کثیر انصاری نے روایت نقل کی ہے۔

۲۶۲۱- داؤد بن صغیر شامی۔

اس کی کنیت ”ابوعبدالرحمان“ ہے، اس نے کثیر النواء سے روایات نقل کی ہیں، ابوبکر خطیب کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ

کہتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے (اس کے باپ کا نام) ”صغیر“ حافظ ضیاء کی تحریر میں نقطے کے بغیر اور پیش کے ساتھ ہے اور یہ غلطی ہے، کیونکہ تاریخ بغداد سے اس شخص کا تذکرہ میں نے ”نسخہ سمیاطیہ“ سے نقل کیا ہے، جو مستند ہے اور مصنف کے خطی نسخے سے منقول ہے، اس میں ”صغیر“ ہی تحریر ہے، جس میں ”ص“ پر زبر ہے اور اس کے بعد ”غین“ ہے۔

یہ داؤد بن صغیر بن شیبہ ابوعبدالرحمان بخاری ہے، یہ شامی نہیں ہے، کیونکہ شامی کا کوئی وجود نہیں ہے، پھر خطیب نے یہ کہا ہے: اس

نے بغداد میں سکونت اختیار کی تھی اور اس نے اعمش، ابوعبدالرحمان النواء شامی اور سفیان سے، جب کہ اس سے اسحاق بن سنین اور فضل بن مخلد نے روایات نقل کی ہیں، یہ ضعیف تھا اور 233 ہجری تک زندہ تھا۔

۲۶۲۲- داؤد بن عماد

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے موضوع روایات نقل کی ہیں۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میرا خیال ہے، یہ ابن عفان ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا۔

۲۶۲۳- داؤد بن عبداللہ (ق)، بن ابوالکرام

(ابوالکرام کا نام) محمد بن علی بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب جعفری ہے، (اس راوی کی کنیت اور اسم منسوب) ابوسلیمان مدنی ہے۔

اس نے امام مالک اور ابن ابی یحییٰ سے جب کہ اس سے ابو حاتم اور تھمام نے روایات نقل کی ہیں ابو حاتم نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، غیلی کہتے ہیں: ”مقارب الحدیث“ ہے اور بعض اوقات غلطی کر جاتا ہے، عقیلی بیان کرتے ہیں: اس کی نقل کردہ حدیث میں وہم پایا جاتا ہے۔

۲۶۲۴- داؤد بن عبداللہ (عمو) اودی ابو العلاء کوفی

اس نے حمید بن عبدالرحمان حمیری اور دیگر حضرات سے جب کہ اس سے ابو عوانہ اور ابن فضیل نے روایات نقل کی ہیں۔ امام احمد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ بزرگ، ثقة اور قدیم ہے، یہ ابن ادریس کے بچا کے علاوہ کوئی اور فرد ہے، کوچ نے یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: ”ثقة“ ہے، عباس دوری نے یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ آزاد ہوگا، کیونکہ یہ (قول) ابن یزید کے بارے میں ہے۔

۲۶۲۵- داؤد بن عبد الجبار کوفی مؤدب

اس نے تابعین سے روایات نقل کی ہیں، عباس دوری نے یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: ”ثقة“ نہیں ہے، ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا: یہ جھوٹ بولتا تھا، میں نے اسے دیکھا ہوا ہے، یہ بغداد میں قاعد تھا، جب کہ سعید بن محمد جری کہتے ہیں: یہ حمر کا مؤذن تھا، میں نے اس سے سماع کیا ہے، امام بخاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ منکر الحدیث تھا، امام نسائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ متروک تھا۔ ابن عدی نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے:

إذا قبلت الرايات السود من قبل الشرق فلا يردّها شيء حتى تنصب بايلياء .
”جب مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے آئیں گے تو کوئی ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکے گا، یہاں تک کہ انہیں ایلپاء میں نصب کیا جائے گا۔“

(اس کی سند میں موجود) ابو شراع نامی راوی کا نام سلمہ بن مجنون ہے۔

خطیب بغدادی کی تاریخ میں اس راوی کے حوالے سے ابو شراع کا یہ بیان منقول ہے:

كنا عند ابن عباس في البيت فقال: اذا خرجت الرايات السود فاستوصوا بالفرس خيرا، فان دولتنا معهم، فقال ابو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا قبلت الرايات السود من قبل الشرق فان اولها فتنة، ووسطها هرج، وآخرها ضلالة.

”ہم بیت اللہ میں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا: جب سیاہ جھنڈے نکل آئیں، تو ان شہسواروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی تلقین قبول کرو، کیونکہ ہماری حکومت ان کے ساتھ ہوگی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”جب مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، تو ان کے آغاز میں فتنہ ہوگا، درمیان میں قتل عام ہوگا اور آخر میں گمراہی ہوگی۔“
سعدویہ نے داؤد نامی اس راوی کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں ابراہیم بن جریر کے ساتھ موجود تھا، انہوں نے ایک سانپ دیکھا تو بولے: میں نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

من رای حیة فلم یقتلها فرقا منها فلیس منا.

”جو شخص کوئی سانپ دیکھے اور پھر اس سے ڈر کر اسے نہ مارے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

محمد بن عقبہ سدوسی نے اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ بیان نقل کیا ہے:

رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کل العنب خرطا

”میں نے نبی اکرم ﷺ کو انگور کے کچھے کو منہ میں رکھ کر دانہ نکال کر کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔“

عقیلی نے یہ روایت اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے: اور یہ کہا ہے: اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

اس راوی نے سلمہ کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من تغوط علی صف نهر یتوضا منه ویشرب فعلیہ لعنة اللہ
والملائكة والناس اجمعین.

”جو شخص کسی نہر کے کنارے ایسی جگہ قضائے حاجت کرے جہاں سے وضو کیا جاتا ہو یا پانی پیا جاتا ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں اور انسانوں کی لعنت ہوتی ہے“

۲۶۲۶- داؤد بن ابی ہند،

یہ حجت ہے مجھے نہیں معلوم کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے روایت کیوں نقل نہیں کی۔

۲۶۲۷- داؤد بن عبد الحمید

اس نے زکریا بن ابوزائدہ سے روایت نقل کی ہے، امام ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ حدیث اس کے ضعیف ہونے پر دلالت کرتی ہے، اسحاق بن ابراہیم بغوی نے اس سے روایت نقل کی ہے، اس نے موصل میں رہائش اختیار کی تھی، اصل کے اعتبار سے یہ کوفہ کا رہنے والا ہے، عقیلی بیان کرتے ہیں: اس نے عمرو بن قیس ملائی سے ایسے روایت نقل کی ہیں، جن کی متابعت نہیں کی گئی، ان میں سے ایک روایت یہ ہے:

یا فاطمة قومی الی اضحیتک فاشہدیہا.

”اے فاطمہ! اپنی قربانی کے جانور کے پاس جاؤ اور (قربانی کے وقت) اس کے پاس موجود رہو“

۲۶۲۸- (صحیح) داؤد بن عبد الرحمن (خ، م) مکی عطار، ابوسلیمان.

اس نے قاسم بن ابوبزہ، عمرو بن دینار اور ایک جماعت سے، جب کہ اس سے شافعی، قتیبیہ اور متعدد افراد نے روایت نقل کی ہیں۔

یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، ابراہیم بن محمد شافعی کہتے ہیں: میں نے فضیل (بن عیاض) سے زیادہ عبادت گزار اور داؤد عطار سے زیادہ پرہیزگار اور کوئی شخص نہیں دیکھا۔

حاکم بیان کرتے ہیں: یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف الحدیث ہے، ازدی کہتے ہیں: محدثین نے اس کے بارے میں کلام کیا

نے

ابو حاتم کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ صالح ہے۔

۲۶۲۹- داؤد بن عبد الرحمن واسطی

اس نے سفیان بن حسین سے روایت نقل کی ہے، ازدی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

۲۶۳۰- داؤد بن عبید اللہ (س).

اس نے خالد بن معدان کے حوالے سے ہفتے کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت کے بارے میں روایت نقل کی ہے، اس کی شناخت پتا نہیں چل سکی، علماء اس سے روایت نقل کرنے میں منفرد ہے، شاید یہ ابن حارث ہے۔

۲۶۳۱- داؤد بن عبید اللہ بن مسلم.

اس نے بکر بن مصاد سے، جب کہ اس سے برجلابی نے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت پتا نہیں چل سکی۔

۲۶۳۲- داؤد بن عثمان ثغری

اس نے مصر میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، عقلی کہتے ہیں: یہ جھوٹی روایات بیان کرتا تھا، یحییٰ بن عثمان بیان کرتے ہیں: داؤد نے ہمیں حدیث بیان کی، پھر اس کے بعد یحییٰ نے ”غریب“ حدیث ذکر کی ہے۔

۲۶۳۳- داؤد بن عجلان (ق) مکی بزاز

اس نے ابو عقال، ابراہیم بن ادہم کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، اس کے حوالے سے وہ روایت منقول ہے، جو بارش کے دوران طواف کرنے کی فضیلت کے بارے میں ہے، جب کہ اس سے محمد بن یحییٰ عدنی اور احمد بن عبدہ ضعی نے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے۔

۲۶۳۴- داؤد بن عطاء (ق) مدنی، ابوسلیمان

یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے غلاموں میں سے ایک ہے، ایک قول کے مطابق اس کا نام داؤد بن ابو عطاء ہے، اس نے زید بن اسلم اور صالح بن کیسان سے روایات نقل کی ہیں، اس سے اس کے استاد امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے (ان کے علاوہ) ابراہیم بن منذر اور عبد اللہ بن محمد ازرمی نے روایات نقل کی ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے، میں نے اسے دیکھا ہوا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے۔

شیخ ابن ابوعاصم اپنی کتاب ”السنہ“ میں تحریر کرتے ہیں: اسماعیل بن محمد نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اول من يصابحه الحق عمر، واول من ياخذ بيده فيدخله الجنة.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: جس شخص کے ساتھ حق تعالیٰ سب سے پہلے مصافحہ کرے گا وہ عمر ہے اور یہ وہ پہلا شخص ہے جس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔“
یہ روایت انتہائی منکر ہے۔

۲۶۳۵- داؤد بن عفان.

اس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک موضوع نسخہ نقل کیا ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ خراسان میں گھومنا پھرتا تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جھوٹی روایات بیان کرتا تھا، ہم نے اس کا نسخہ نوٹ کیا ہے جو عمار بن عبدالمجید نے اس کے حوالے سے نقل کیا تھا، کتابوں میں اس کا تذکرہ صرف تنقید کے طور پر کیا جاسکتا ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے یہ روایت منقول ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث کے طور پر اس نے نقل کی ہے:

من قبل غلاما لشهوة عذب في النار الف سنة.

”جو شخص کسی لڑکے کو شہوت کی وجہ سے بوسہ دے اسے جہنم میں ایک ہزار سال تک عذاب دیا جائے گا۔“

اس کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت میں مرفوع حدیث کے طور پر منقول ہے:

الامناء سبعة: اللوح، والقلم، واسرافيل، وميكائيل، وجبرائيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم، ومعاوية.

”سات امین ہیں: لوح، قلم، اسرافیل، میکائیل، جبرائیل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور معاویہ۔“

۲۶۳۶- داؤد بن علی ہاشمی (ت)

یہ منصور کا چچا ہے، یہ حجت نہیں ہے، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: مجھے یہ اُمید ہے یہ جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، اس نے ایک حدیث نقل کی ہے۔ عثمان بن سعید نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح نقل کیا ہے، ورنہ داؤد نامی راوی کے حوالے سے ابن عدی نے متعدد روایات نقل کی ہیں، اس نے اپنے والد کے حوالے سے دس سے زیادہ روایات نقل کی ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ ہے جو ابن ابویسلی نے داؤد بن علی کے حوالے سے نقل کی ہیں۔

محاملی کہتے ہیں: داؤد علم کلام سے ناواقف تھا، وراق کہتا ہے: داؤد نے یہ بات بیان کی ہے: جہاں تک لوح محفوظ کا تعلق ہے، تو وہ

مخلوق نہیں ہے لیکن جو چیز لوگوں کے درمیان ہے وہ مخلوق ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز اسی بات پر زیادہ دلالت کرتی ہے کہ وہ علم کلام سے ناواقف تھا، کیونکہ جمہور علماء نے اس بارے میں کوئی فرق نہیں کیا ہے کہ جو چیز لوح محفوظ میں ہے اور جو مصاحف میں تحریر ہے ان کے درمیان کوئی فرق ہے کیونکہ محدثین کے نزدیک حادث ہونا لازم ہوتا ہے اس لیے علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ ذات مقدسہ کے ساتھ جو چیز قائم ہے وہ مخلوق نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہے اور جو چیز ہماری طرف نازل ہوئی ہے وہ حادث ہے وہ لوگ یہ آیت تلاوت کرتے ہیں:

ما یا تہم من ذکر من ربہم محدث .

”جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نیا ذکر آتا ہے۔“

تو قرآن جس بھی صورت میں ہو اسے تلاوت کیا جائے، لکھا جائے یا سنا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور اس کا نازل ہونا مخلوق نہیں ہے۔

اس نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے:

صوموا عاشوراء ، وخالفوا فیہ الیہود ، صوموا قبلہ یوما وبعده یوما .

”عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور اس دن کے بارے میں یہودیوں کے برخلاف کرو، اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھو۔“

حسن بن حیی نے داؤد کے حوالے سے اس کی مانند روایت نقل کی ہے اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے:

بعثنی العباس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، وهو فی بیت خالتي میبونة ، فقام یصلی من اللیل ، فلما صلی الرکعتین قبل الفجر قال : اللهم انی اسألك رحمة من عندك تہدی بہا قلبی ... الحدیث بطولہ .

”حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا آپ اس وقت میری خالہ سیدہ میبونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے آپ رات کے وقت اٹھ کر نوافل ادا کرنے لگے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے دو رکعت ادا کر لیں، تو آپ نے یہ دعا پڑھی:

”اے اللہ! میں تیری بارگاہ کی طرف سے ملنے والی ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں، جس کے ذریعے تو میرے دل کو ہدایت پر ثابت قدم رکھے۔“

اس کے بعد طویل حدیث ہے، یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں: ”حضرت عباس نے مجھے بھیجا“ اور اس روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں:

اللہم انی اسألك الفوز عند القضاء ، ونزل الشهداء ، وعیش السعداء ، والنصر علی الاعداء ، اللهم

انی انزل بك حاجتی وان قصر رای، وضعف عملی.

”اے اللہ! میں تجھ سے (تقدیر کے) فیصلے کے وقت کامیابی کا، شہداء کے پڑاؤ کا، سعادت مند لوگوں کی طرح کی زندگی کا، دشمن کے خلاف مدد کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ! میں تیری مدد سے اپنی حاجت پوری کر سکتا ہوں، اگرچہ میری رائے چھوٹی ہے اور میرا عمل کمزور ہے۔“

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے طویل روایت کو دارمی کے حوالے سے محمد بن عمران سے نقل کیا ہے۔

اس راوی نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت بھی نقل کی ہے:

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بطیر فقال: اللہم ائتنی باحب خلقک الیک یا کل معی، فجاء علی فاکل معہ وابن شعیب لایعرف.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک (بھنا ہوا) پرندہ لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ! تو میرے پاس اس شخص کو لے آ جو تیرے نزدیک تیری مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہو، تاکہ وہ میرے ساتھ اسے کھائے، تو اسی دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ آگئے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اُسے کھایا۔“

اس راوی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ مرفوع حدیث بھی نقل کی ہے:

المؤمن خلق مفتونا تو ابا نسیا، فان ذکر ذکر.

”مؤمن کو ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ وہ آزمائش کا شکار ہوتا ہے، تو بہ کرنے والا ہوتا ہے اور بھول جانے والا ہوتا ہے، اگر اُسے یاد دلایا جائے تو اُسے یاد آجاتا ہے۔“

ابن عدی بیان کرتے ہیں: میرے نزدیک اس کی ان روایات میں کوئی حرج نہیں ہے جو اس نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا سے نقل کی ہیں۔

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں: یہ سفاح کے دور حکومت میں کوفہ کا گورنر ہاتھا، پھر مدینہ منورہ کا گورنر ہاتھا، یہ فصیح تھا، جب سفاح کی بیعت کی گئی اور وہ خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھا تو اُسے گھیر لیا گیا، تو اس نے چچا داؤد بن علی کو منبر پر آگے کیا، تاکہ وہ کلام کرے اور اس نے کلام کیا اور بلیغ کلام کیا اور لوگوں کے ساتھ وعدے وعید کیے۔

اس کا انتقال ادھیڑ عمری میں 133 ہجری میں ہوا۔

۲۶۳۷- داؤد بن علی اصہبانی ظاہری فقیہ ابوسلیمان

شیخ ابوالفتح ازدی کہتے ہیں: محدثین نے اسے ”مترک“ قرار دیا تھا، اسی طرح بیان کیا گیا ہے، اس کی پیدائش 200 ہجری میں ہوئی، اس نے سلیمان بن حرب، یعنی، مسدداً اسحاق بن راہویہ، ابو ثور سے احادیث کا سماع کیا اور کتابیں تصنیف کیں۔ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں یہ بات بیان کی ہے: یہ امام تھا، پرہیزگار تھا، زاہد تھا، مناسک ادا کرنے والا تھا، اس کی کتابوں میں بہت سی احادیث ہیں، لیکن اس سے روایات نقل کم کی گئی ہیں، اس سے اس کے بیٹے محمد نے روایت نقل کی ہے، یا زکریا ساجی نے اور ایک جماعت نے روایات

نقل کی ہیں۔ ابواسحاق کہتے ہیں: اس کی پیدائش 202 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس نے اسحاق اور ابو ثور سے علم حاصل کیا تھا، یہ زاہد تھا، لیکن اس نے تھوڑی روایات نقل کی ہیں، ابن حزم کہتے ہیں: یہ اصہبانی کے نام سے اس لیے معروف ہے، کیونکہ اس کی والدہ اصہبانیہ تھیں، ویسے یہ عراقی تھا، اس نے اٹھارہ ہزار صفحے تحریر کیے ہیں۔

ابواسحاق کہتے ہیں: ایک بات یہ بیان کی گئی ہے، اس کی محفل میں سبز چادروں والے چار سولوگ شریک ہوتے تھے، یہ امام شافعی کے متعصب حامیوں میں سے ایک تھا، اس نے ان کے مناقب میں ایک کتاب بھی تصنیف کی ہے۔

انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے: بغداد میں علم کی ریاست اس پر آ کر ختم ہوئی تھی، یہ اصل میں اصہبان کا رہنے والا تھا، لیکن اس کی پیدائش کوفہ میں ہوئی تھی اور نشوونما بغداد میں ہوئی اور اس کی قبر بھی وہیں ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: داؤد نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا، تو انہوں نے اسے منع کر دیا، انہوں نے یہ بتایا: محمد بن یحییٰ زہری نے اس کے معاملے کے بارے میں مجھے خط لکھا ہے کہ یہ اس گمان کا قائل ہے: قرآن حادث ہے، تو یہ میرے قریب نہ آئے، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا: اے ابو عبد اللہ! یہ تو اس بات کی نفی کرتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا: محمد بن یحییٰ اس سے زیادہ سچے ہیں۔

محمد بن ابراہیم نیشاپوری بیان کرتے ہیں: اسحاق بن راہویہ نے جب اپنے گھر میں داؤد بن علی کا کلام سنا، تو اس پر حملہ کر کے اس کی پٹائی کی اور اس کا انکار کیا۔

محمد بن حسین بیان کرتے ہیں: میں نے داؤد کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: قرآن حادث ہے اور میں جو قرآن کے الفاظ پڑھتا ہوں وہ مخلوق ہیں۔

مروزی بیان کرتے ہیں: داؤد اسحاق بن راہویہ کے پاس گیا اور وہاں اس نے ایسا کلام کیا، جس کے بارے میں دو آدمیوں نے گواہی بھی دی، اس نے یہ کہا: قرآن حادث ہے۔

سعید بن عمرو بردعی بیان کرتے ہیں: ہم امام ابو زرعة رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود تھے، عبدالرحمن بن خراش نے یہ کہا: داؤد کافر ہے، تو امام ابو زرعة رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ڈانٹا پھر امام ابو زرعة رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جس شخص کے پاس ایسا علم ہو، جو اسے بچائے بھی نہیں اور وہ اس پر اکتفاء بھی نہ کرے اور وہ شخص علم کلام کی طرف جائے، تو پھر تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، جہاں تک امام شافعی کا تعلق ہے، تو میرے علم کے مطابق انہوں نے اپنی کتابوں میں کہیں بھی اس طرح کی فضول باتیں ذکر نہیں کیں، جو بعد میں سامنے آئی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صرف دینداری کی وجہ سے اس سے بچاؤ کیا تھا، تم داؤد کا جائزہ لے لو، اگر وہ اس چیز پر اکتفاء کر لیتا ہے، جس پر اہل علم نے اکتفاء کیا ہے، تو میرے خیال ہے کہ وہ اہل بدعت کو زیادہ نقصان پہنچاتا، جتنا اس کے پاس بیان ہے اور علم ہے، لیکن اس نے زیادتی کی، یہ نیشاپور سے آیا تھا، اس نے محمد بن رافع، محمد بن یحییٰ، عمرو بن زرارہ، حسین بن منصور اور ایک جماعت کی طرف خط لکھا، اس چیز کے بارے میں جو اس نے یہاں نئی پیش کی تھی، تو میں نے اس کے انجام کی وجہ سے اسے چھپا دیا، پھر یہ بغداد آ گیا، اس نے صالح بن احمد کے ساتھ بات کی کہ وہ اپنے والد کی خدمت میں حاضری کے لیے اسے اجازت دلوائے، تو اس نے کہا: یہ وہ کتب ہے، جو محمد بن یحییٰ نے مجھے لکھا ہے،

جس میں یہ تحریر ہے: یہ اس بات کا قائل ہے قرآن حادث ہے اس لیے یہ میرے قریب نہ آئے۔
حسین بن اسماعیل محاملی بیان کرتے ہیں: داؤد علم کلام سے ناواقف تھا۔ داؤد وراق بیان کرتے ہیں: داؤد نے یہ بات بیان کی ہے
کہ جہاں تک اُس قرآن کا تعلق ہے کہ جو لوح محفوظ میں ہے تو وہ مخلوق نہیں ہے، لیکن جو قرآن لوگوں کے درمیان موجود ہے وہ مخلوق
ہے۔

محاملی کہتے ہیں: داؤد علم کلام سے ناواقف تھا وراق کہتا ہے: داؤد نے یہ بات بیان کی ہے: جہاں تک لوح محفوظ کا تعلق ہے تو وہ
مخلوق نہیں ہے لیکن جو چیز لوگوں کے درمیان ہے وہ مخلوق ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز اسی بات پر زیادہ دلالت کرتی ہے کہ وہ علم کلام سے ناواقف تھا، کیونکہ
جمہور علماء نے اس بارے میں کوئی فرق نہیں کیا ہے کہ جو چیز لوح محفوظ میں ہے اور جو مصاحف میں تحریر ہے ان کے درمیان کوئی فرق ہے
کیونکہ محدثین کے نزدیک حادث ہونا لازم ہوتا ہے اس لیے علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ ذات مقدسہ کے ساتھ جو چیز قائم ہے وہ مخلوق
نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہے اور جو چیز ہماری طرف نازل ہوئی ہے وہ حادث ہے وہ لوگ یہ آیت تلاوت
کرتے ہیں:

ما یا تیمہم من ذکر من ربہم محدث.

”جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نیا ذکر آتا ہے۔“

تو قرآن جس بھی صورت میں ہو اسے تلاوت کیا جائے لکھا جائے یا سنا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور اس کا نازل ہونا مخلوق
نہیں ہے۔*

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں:) قاضی محاملی بیان کرتے ہیں: میں نے داؤد کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اس کی
طرح عمدہ تو اضع کے ساتھ اور کسی مسلمان کو نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، داؤد کا انتقال رمضان کے مہینے میں 270 ہجری میں ہوا۔
۲۶۳۸- داؤد بن عمرو نضعی.

اس نے ابو حازم سے روایات نقل کی ہیں، ازدی کہتے ہیں: یہ کذاب ہے، ایک قول کے مطابق اس کا نام داؤد بن عمرو ہے، امام
احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، جیسا کہ ابن حزم نے اپنی کتاب ”المحلی“ میں نقل کیا ہے۔

۲۶۳۹- (صحیح) داؤد بن عمرو (م) نضعی بغدادی.

اس نے نافع بن عمر جمعی، حماد بن زید اور مخلوق سے روایات نقل کی ہیں، یہ صدوق تھا اور علم حدیث کا ماہر تھا، اس سے امام مسلم، ابن ناجیہ
بغوی اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی رکاب کو تھاما تھا، یہ روایت ابو حسن عطار نے نقل کی ہے کہ اس نے خود ایسا دیکھا تھا، امام

* یہی کلمات امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے داؤد بن علی ہاشمی کے ترجمہ میں تحریر کیے ہیں، منتخبہ، مترجم.

بغوی بیان کرتے ہیں: داؤد بن عمرو بن زہیر جو ثقہ اور مامون ہیں انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی۔

یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے داؤد بن عمرو ضعی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو وہ بولے: میں اس سے واقف نہیں ہوں یہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ میں نے کہا: اس نے شہر میں رہائش اختیار کی انہوں نے دریافت کیا: ہمارے شہر میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں؟ میں نے کہا: (خلیفہ) ابو جعفر کے شہر میں انہوں نے دریافت کیا: یہ کس کے حوالے سے احادیث بیان کرتا ہے؟ میں نے کہا: منصور بن اسود صاحب بن عمر اور نافع بن عمر کے حوالے سے تو انہوں نے کہا: یہ تو بہت بڑا شیخ ہے یہ کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ میں نے کہا: آل مسیب سے تو وہ بولے: یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود کو نیک ظاہر کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک صدقہ کرتا ہے اور دوسرا ہانس بیچتا ہے، میں اس سے واقف نہیں ہوں، کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس سے واقف ہو؟ میں نے کہا: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ سعدویہ نے یہ کہا ہے کہ یہ منحوس ہے پھر اس کے بعد کوئی بات نہ کی اور نہ ہی مزید تعارف کروایا ہے تو اس پر انہوں نے یہ کہا: سعدویہ اس شخص کے بارے میں زیادہ علم رکھتے ہوں گے، جنہوں نے اس کے ساتھ علم حدیث حاصل کیا، پھر مجھ تک یہ روایت پہنچی کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عبدالخالق بن منصور نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں کہ ابن جوزی نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور صرف یہ کہا ہے: امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے کوئی حدیث نقل نہیں کی اور یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ امام ابو زرعة رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے، میں یہ کہتا ہوں: اس کا انتقال 228 ہجری میں ہوا تھا۔

شیخ عبدالخالق بن بدران اور یوسف بن احمد نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ بیان نقل کیا ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع اهلہ.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں اس گھر کے رہنے والے بھوکے ہوتے ہیں۔“

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ابن طحلاء کے حوالے سے نقل کی ہے۔

۲۶۴۰- داؤد بن عمرو (د) دمشقی.

اس نے مکحول، ابوسلام اسود اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں اس سے یثیم، خالد بن عبداللہ اور اہل واسط نے روایات نقل کی ہیں یہ واسط کا گورنر تھا، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقہ“ قرار دیا ہے، عجل کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں: یہ اس حدیث کو نقل کرنے میں منفرد ہے۔

احسنوا اسماؤکم ”اپنے نام خوبصورت رکھو“۔

اور اس حدیث کو بھی:

اذا ارسلت کلبک (المعلم) و ذکرک اسم اللہ فکل، وان اکل منه.

”جب تم اپنے تربیت یافتہ کتے کو چھوڑو اور اس پر اللہ کا نام لے لو تو تم اسے کھا لو اگرچہ اس کتے نے خود بھی اس شکار میں سے کچھ کھا لیا ہو۔“

امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ابو ثعلبہ سے منقول حدیث کے طور پر نقل کی ہے اور یہ روایت منکر ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس شخص کی نقل کردہ احادیث مقارب ہوتی ہیں، امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ شیخ ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ صالح ہے۔

۲۶۲۱- داؤد بن ابی عوف (د، س، ق) ابو حجاج

اس نے ابو حازم اشجعی، عکرمہ اور ایک گروہ سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے دونوں سفیانوں، علی بن عابس اور متعدد افراد نے روایات نقل کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ صالح الحدیث ہے، جہاں تک ابن عدی کا تعلق ہے تو وہ یہ کہتے ہیں: میرے نزدیک یہ ایسا فرد نہیں ہے کہ اس سے استدلال کیا جائے، یہ شیعہ ہے اس کی نقل کردہ زیادہ تر روایات اہل بیت کے فضائل کے بارے میں ہیں۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو زر غفاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے:

یا علی من فارقنی فارق اللہ، ومن فارقک یا علی فارقنی۔

”اے علی! جو مجھ سے جدا ہوا وہ اللہ تعالیٰ سے لائق ہو گیا، اور جو تم سے جدا ہوا وہ مجھ سے لائق ہو گیا۔“

یہ روایت منکر ہے۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ عنہا کے حوالے سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت نقل کی ہے:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اما انک یا بن ابی طالب وشیععتک فی الجنة، وسیجی اقوام

ینتحلون حبک یمرقون من الاسلام، یقال لہم الرافضة: فان لقیتمہم فاقتلہم، فانہم مشرکون۔

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابن ابی طالب! جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو تم اور تمہارے شیعہ جنت میں ہوں گے اور

عقرب کچھ لوگ آئیں گے جو تم سے محبت کرنے کا دعویٰ کریں گے، یہ لوگ دین سے نکل جائیں گے اور انہیں رافضہ کہا

جائے گا اگر تم ان سے ملو تو تم ان سے جنگ کرنا، کیونکہ وہ مشرک ہوں گے۔“

تو اس میں خرابی کی جڑ تولید بن سلیمان ہے کیونکہ اس پر جھوٹا ہونے کا الزام ہے اس روایت کو ابو جروڈ زیاد بن منذر نے نقل کیا ہے

اور یہ ساقط ہے اس نے اسے ابو حجاج سے نقل کیا ہے۔

۲۶۲۲- داؤد بن ابوفرات (د، ت، ق)

یہ داؤد بن بکر بن ابوفرات اشجعی ہے جو ان کا آزاد کردہ غلام ہے، یہ مدینی شیخ ہے، اس نے ابن منذر صفوان بن سلیم اور دیگر حضرات

سے روایات نقل کی ہیں؛ جب کہ اس سے اسماعیل بن جعفر ابو ضمیرہ اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔
ابن ابوشیثمہ نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا ثقہ ہونا نقل کیا ہے؛ جب کہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے
لیکن یہ متین نہیں ہے؛ میں یہ کہتا ہوں: اس سے کتابوں میں روایات منقول ہیں؛
اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:
ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔

”جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کر دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔“

۲۶۴۳- (صحیح) داؤد بن ابوفرات (خ، ت، س، ق) کندی مروزی

(اس کی کنیت) ابو عمرو ہے؛ اس نے بصرہ میں رہائش اختیار کی تھی؛ اس نے ابن بربیدہ اور ابراہیم صائغ سے روایات نقل کی ہیں؛ جب
کہ اس سے ابن مہدی عفتان اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں؛ یحییٰ بن معین اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقہ“ قرار دیا ہے؛ اس کا
انتقال اور حماد بن سلمہ کا انتقال ایک ہی سال میں ہوا تھا؛ داؤد بن عمرو بن ابوفرات ہے۔

۲۶۴۴- داؤد بن فراہج

اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جب کہ اس نے شعبہ اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں؛ عباس نے یحییٰ کا یہ قول نقل کیا
ہے: اس سے شعبہ اور ابوغسان محمد بن مطرف نے روایات نقل کی ہیں؛ یہ ضعیف ہے۔

یحییٰ قطان کہتے ہیں: شعبہ نے داؤد بن فراہج کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یعقوب حضرمی کہتے ہیں: شعبہ نے داؤد کے حوالے سے
احادیث ہمیں بیان کی ہیں؛ اس کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی اور یہ غریب بھی ہو گیا تھا۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی منقول ہے: اس میں کوئی
حرج نہیں ہے؛ ابن مدینی نے یحییٰ القطان کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ”ثقہ“ ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: اس نے جتنی مقدار میں روایات نقل میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا؛ اس کے حوالے سے ایک روایت منقول
ہے جس میں کچھ منکر ہونا پایا جاتا ہے۔

ہشام بن عمار نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے؛ اس کی سند کے ساتھ؛ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مرفوع حدیث نقل
کی ہے:

ما حسن الله خلق رجل وخلقہ فتطعمہ النار.

”جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کی شکل و صورت اور اخلاق کو خوب صورت کر دے؛ تو پھر اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔“

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو یہ تغیر کا شکار ہو گیا تھا؛ ویسے یہ ”ثقہ“ اور ”صدوق“ ہے۔

۲۶۴۵- داؤد بن فضل حلبی

اس کی شناخت تقریباً نہیں ہو سکی؛ از دی کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے۔

۲۶۴۶- داؤد بن کثیر۔

اس نے بعض تابعین سے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے۔ (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ رفقہ کے رہنے والوں میں سے ہے اس نے ابن منکدر سے روایات نقل کی ہیں جب کہ اس سے اسحاق بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ حمانی نے روایات نقل کی ہیں ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ الثقات میں کیا ہے۔

۲۶۴۷- داؤد بن کردوس۔

یہ مجہول ہے اس کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے جو اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔

۲۶۴۸- داؤد بن ثنی

اس نے عمرو بن شعیب سے روایات نقل کی ہیں ازدی بیان کرتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت مستند نہیں ہے۔

۲۶۴۹- داؤد بن محبر (ق) بن قحزم، ابوسلیمان بصری

یہ صاحب عقل تھا اور کاش اس نے کوئی تصنیف نہ کی ہوتی اس نے شعبہ ہمام اور ایک جماعت سے، اس کے علاوہ مقاتل بن سلیمان سے روایات نقل کی ہیں جب کہ اس سے ابوامیہ حارث بن ابواسامہ اور ایک جماعت نے نقل کی ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ نہیں جانتا تھا کہ حدیث کیا چیز ہوتی ہے؟ ابن مدینی کہتے ہیں: اس کی حدیث رخصت ہو گئی تھی۔ امام ابو زرعة رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات یہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی حدیث رخصت ہو گئی تھی یہ ”ثقة“ نہیں ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے جہاں تک عباس دوری کا تعلق ہے تو انہوں نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ شخص حدیث کے حوالے سے معروف رہا، لیکن پھر اس نے حدیث کے علم کو ترک کر دیا اور کچھ معتزلیوں کی ہم نشینی اختیار کی ان لوگوں نے اسے خراب کر دیا ویسے یہ ”ثقة“ ہے۔

امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ایسا ثقة ہے جو ضعیف ہونے کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔

عبدالغنی بن سعید نے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: کتاب ”العقل“ کو میسرہ بن عبد ربہ نے تحریر کیا تھا پھر داؤد بن محبر نے اسے چوری کر لیا اور اس میں اپنی اسانید شامل کر دیں جو میسرہ کی اسانید نہیں تھیں پھر عبدالعزیز نے اسے چوری کر لیا پھر سلیمان بن عیسیٰ نے اسے چوری کر لیا جس طرح بھی انہوں نے کہا:

عبدالخالق بن سعید نے اسے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے:

ستفصیح مدینة یقال لها قزوين، من رابط فیها اربعین لیلة کان له فی الجنة عامود من ذهب،
وزمرده خضراء، علی یا قوتة حمراء، لها سبعون مصراع من ذهب، کل باب منها فیہ زوجة من

الحوار العین،

”عنقریب ایک شہر فتح ہوگا جس کا نام قزوین ہے جو شخص وہاں چالیس دن تک پہرہ داری کرے گا اسے جنت میں سونے کے بنے ہوئے ستون اور سبز زمر دلیں گے جو سرخ یا قوت پر ہوں گے اور ان کی سونے کی بنی ہوئی ستر کنڈیاں ہوں گی جن میں سے ہر ایک دروازے پر ایک حور عین بیوی کھڑی ہوگی۔“

امام ابن ماجہ نے اپنی ”سنن“ کو داغدار کیا ہے کہ اس موضوع حدیث کو اس میں شامل کر لیا ہے اس کا انتقال 206 ہجری میں ہوا۔

۲۶۵۰- داؤد بن محمد معین عین ثرمائی

اس نے احمد بن عبد الواحد کے حوالے سے ایک منکر روایت نقل کی ہے۔

۲۶۵۱- دواد بن مدرک (ق).

یہ منکر ہے اس کی شناخت حاصل نہیں ہو سکی اس کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے جو اس نے عروہ سے نقل کی ہے اس سے روایت نقل کرنے میں موسیٰ بن عبیدہ نامی راوی منفرد ہے ابن طلایہ کے جزء میں ایک عالی سند کے ساتھ اس کی نقل کردہ حدیث ہم تک پہنچی ہے (جس کے الفاظ یہ ہیں):

مسجدی خاتم مساجد الانبیاء

”میری مسجد انبیاء کی مساجد (کے سلسلے) کی آخری مسجد ہے۔“

۲۶۵۲- داؤد بن مفضل.

اس نے حماد بن سلمہ سے روایات نقل کی ہیں یہ ”صدوق“ ہے ازدی کہتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے۔

۲۶۵۳- داؤد بن منصور (س) نسائی.

اس نے ابراہیم بن طہمان سے روایات نقل کی ہیں یہ ”صدوق“ ہے یہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، میمنہ شامی کہتے ہیں: میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے: میں اس سے واقف ہوں میں نے دریافت کیا: یہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا: مجھے نہیں پتا لیکن انہوں نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ عقلی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت میں اس کے برخلاف نقل کیا گیا ہے پھر انہوں نے اس کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے جس کے ”مسند“ ہونے کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے اس روایت کو اس نے قیس بن ربیع کے حوالے سے نقل کیا ہے قیس نامی راوی قوی نہیں ہے جہاں تک داؤد نامی اس راوی کا تعلق ہے تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے اور اس کے حوالے سے ایک حدیث بھی نقل کی ہے امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے روایت نقل کی ہے۔

۲۶۵۴- داؤد بن نصیر (س) طائی.

(یہ مشہور صوفی داؤد طائی ہیں) یہ اکابر صوفیاء میں سے ایک ہیں اور کسی اختلاف کے بغیر یہ ”ثقة“ ہیں، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ا

نہیں ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

۲۶۵۵- داؤد بن وازع.

اس نے محمد بن منکدر سے روایات نقل کی ہیں، ازدی اور دیگر حضرات نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

۲۶۵۶- داؤد بن ولید.

یہ رصافہ میں ہوتا تھا، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو انہوں نے کہا: میرے نزدیک یہ کذاب ہے، البتہ ابن ابو حاتم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔

۲۶۵۷- داؤد بن یحییٰ افریقی.

اس نے عبد اللہ بن عمر بن غانم سے روایات نقل کی ہیں، ابن یونس کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایات موضوع ہوتی ہیں۔

۲۶۵۸- داؤد بن یزید (ت، ق) اودی کوفی، ابو یزید اعرج

اس نے اپنے والد سے (ان کے علاوہ) ابراہیم نخعی اور ابو اؤائل سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے شعبہ ابو نعیم، خلاد بن یحییٰ اور دیگر لوگوں نے روایات نقل کی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، سفیان ثوری کہتے ہیں: شعبہ نے داؤد بن یزید کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، ثوری اس پر حیرانگی کا اظہار کرتے تھے (یا شعبہ نے ان روایات پر حیرانگی کا اظہار کیا ہے)۔

فلاس کہتے ہیں: یحییٰ بن معین اور ابن مہدی اس کے حوالے سے احادیث روایت نہیں کرتے تھے۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ نہیں ہے، عباس دوری، عثمان اور ابن دورق نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یثیم بن خالد کہتے ہیں: میں نے شریک کو سنا، اس کے سامنے ابن ادریس کا ذکر کیا گیا اور اس بات کا ذکر کیا گیا کہ یہ نبیذ کو حرام قرار دیتا ہے، تو شریک نے کہا: یہ پاگلوں کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، خود بھی احمق ہے، اس کا باپ بھی احمق تھا، اس کا باپ یہاں عیسیٰ بن موسیٰ کے بچوں کو تعلیم دیا کرتا تھا۔

امام شععی نے اس کے چچا داؤد بن یزید سے کہا تھا: یہ اس وقت تک مرے گا نہیں، جب تک پاگل نہیں ہوگا اور واقعی ایسا ہوا کہ اس کا اس وقت تک انتقال نہیں ہوا، جب تک (پاگل پن کی وجہ سے) اس کے سر میں داغ نہیں لگائے گئے۔

ابراہیم بن بشر نے سفیان کے حوالے سے داؤد نامی اس راوی کے حوالے سے امام شععی کے حوالے سے حضرت ہرم بن حبش کا یہ بیان نقل کیا ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

عمرة فی رمضان کحجة معی.

”رمضان میں عمرہ کرنا، میرے ساتھ حج کرنے کی مانند ہے۔“

ایک اور سند کے ساتھ حضرت ہرم بن حبش کے حوالے سے یہ مرفوع حدیث منقول ہے:

عمدة فی رمضان کحجة معی .

”رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کی مانند ہے۔“

یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کا انتقال 551 ہجری میں ہوا۔

۲۶۵۹- داؤد بن یزید ثقفی

(اس کا اسم منسوب) بصری ہے۔

۲۶۶۰- داؤد صفار

اس نے سالم بن عبد اللہ سے روایات نقل کی ہیں (یہ اور سابقہ راوی) دونوں مجہول ہیں۔

خطیب بغدادی کہتے ہیں: جہاں تک ثقفی نامی (سابقہ راوی) کا تعلق ہے، تو اس نے عاصم بن بہدلہ اور حبیب معلم سے روایات

نقل کی ہیں۔

۲۶۶۱- داؤد سراج (س) ثقفی .

اس سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے، جب کہ اس سے قتادہ نے روایات نقل کی ہیں۔

۲۶۶۲- داؤد بصری .

اس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، از دی بیان کرتے ہیں: یہ متروک الحدیث ہے۔

۲۶۶۳- داؤد طفاوی (د) ابو بکر

(اس کا اسم منسوب) بصری ہے، یہ ابن راشد ہے، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، عمرو بن مرزوق اور دیگر حضرات نے اس سے روایات

نقل کی ہیں۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ عقلی بیان کرتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت جھوٹی ہوتی ہے، پھر انہوں

نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک طویل روایت نقل کی ہے، جو قرآن

کے بارے میں ہے اور یہ روایت ہے: کہ قرآن پڑھنے والے کے لیے اس کی قبر میں اس کا ہم نشین ہوگا اور ایسے شخص کی لحد اس کے لیے

چار سو برس کی مسافت جتنی وسیع ہو جائے گی، اس شخص کے لیے ریشم کا بُنا ہوا کچھوٹا بچھایا جائے گا، جس کے اندر مشک بھرا ہوا ہوگا اور اس کے

لیے نور سے بھرا ہوا چراغ رکھا جائے گا، جس کا چراغ اندان سونے کا ہوگا۔

۲۶۶۴- داؤد جواری .

یہ رافضیوں اور مجسمہ فرقوں کا سرغنہ ہے، اور جہنم کا کیرا ہے، ابو بکر بن ابو عون کہتے ہیں: میں نے یزید بن ہارون کو یہ کہتے ہوئے سنا

ہے: جواری اور مرہسی دونوں کافر ہیں، پھر یزید نے جواری کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا: ایک مرتبہ جواری نے واسط کا پل عبور کیا وہ پل

ٹوٹ گیا تو اس پل پر موجود ہر چیز ڈوب گئی، پھر اس دریا کے اندر سے ایک شیطان نکلا اور اس نے کہا کہ میں داؤد جواری ہوں۔

میں یہ کہتا ہوں: میرے علم کے مطابق اس سے کوئی روایت منقول نہیں ہے، جیسے بشر مرسی، ابواسحاق نظام، ابونذیل علاف، ثمامہ بن اشرس، ہشام بن حکم، رافضی مشہبی، ضرار بن عمرو، معمر ابو معتمر، عطار بصری، ہشام بن عمرو فوطی، ابو عیسیٰ الملقب بالحرود، ابوموسیٰ فراء (نے بھی کوئی روایت نقل نہیں کی) تو کیونکہ ان لوگوں نے کوئی حدیث روایت نہیں کی اس لیے میں نے ان کا تذکرہ کرنے کی زحمت نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے نجات عطا کی۔

(دبیس)

۲۶۶۵- دبیس بن سلام قصبانی۔

اس نے علی بن عاصم سے روایات نقل کی ہیں، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، جب کہ طستی نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

۲۶۶۶- دبیس ملائی

اس نے سفیان ثوری سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، ایک قول کے مطابق اس کا نام دبیس بن حمید ہے۔

(دجین)

۲۶۶۷- دجین، ابو عیصن بن ثابت یربوعی بصری۔

اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام اسلم اور ہشام بن عروہ سے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ احادیث کوئی چیز نہیں ہیں، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو زرعة رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ نہیں ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے یہ کہا ہے: یہ قوی نہیں ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں: ہمارے سامنے یحییٰ بن معین کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی ہے: انہوں نے یہ کہا ہے: دجین نامی راوی لائق اعتماد، لیکن یہ بات ان سے مستند طور پر منقول نہیں ہے، دجین سے ابن مبارک، کعب اور عبدالصمد نے روایات نقل کی ہیں اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس سے زیادہ علم رکھتے تھے کہ یہ لائق اعتماد لوگوں سے روایات نقل کریں۔

دجین، بنو یربوع سے تعلق رکھنے والا دیہاتی تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ابن مبارک اور مسلم نے اس سے احادیث کا سماع کیا

ہے۔

ابن مہدی کہتے ہیں: دجین نے ایک مرتبہ ہم سے کہا: عمر بن عبدالعزیز کے غلام نے مجھے حدیث بیان کی ہے۔ راوی کہتے ہیں: پھر لوگوں نے اسے ترک کر دیا، اس کے بعد لوگ اسے تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ اس نے یہ کہا: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام اسلم

نے حدیث بیان کی ہے۔

ابن عدی نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام اسلم کا یہ بیان نقل کیا ہے:

قلنا لعمر: مالك لا تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اخشى ان ازيد او انقص، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب على متعبدا فليتبوا مقعده من النار.

”ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: کیا وجہ ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا: مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں میں اس کے الفاظ میں کوئی کمی یا بیشی نہ کر دوں، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”جو شخص جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے، وہ جہنم میں اپنے مخصوص ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے تیار رہے۔“
یہ روایت وکیع اور ایک جماعت نے اس سے نقل کی ہے۔

۲۶۶۸- دحیبن عربی.

یہ ایک شیخ ہے، جس کے حوالے سے ابن مبارک نے روایات نقل کی ہیں، میرے خیال میں یہ گذشتہ والا راوی ہے، یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

۲۶۶۹- دحیبہ بنت علیہ (د، ت)

یہ سیدہ قیلہ بنت مخزوم رضی اللہ عنہا کی لے پالک تھی اور اس کی بہن کا نام صفیہ ہے، اس نے سیدہ قیلہ رضی اللہ عنہا سے روایات نقل کی ہیں، عبداللہ بن حسان غنبری کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایات نقل نہیں کی، اور اس نے بھی ایک طویل روایت نقل کی ہے۔

(دراج)

۲۶۷۰- دراج، ابوسح (عو) مصری.

یہ ابویثم عتواری کا شاگرد ہے، امام احمد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایات منکر ہوتی ہیں، انہوں نے اسے لین قرار دیا۔ عباس دوری نے یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عثمان بن سعید نے یحییٰ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ”ثقة“ ہے اور فصلک رازی نے یہ کہا ہے: یہ ”ثقة“ نہیں ہے اور نہ ہی اسے کوئی کرامت حاصل ہے (یعنی بزرگی حاصل ہے)۔ امام نسائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے۔ امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔ امام نسائی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا ہے: یہ قوی نہیں ہے۔ ابن عدی نے اس کے حوالے سے کچھ روایات نقل کی ہیں اور یہ بات بیان کی ہے کہ اس کی نقل کردہ زیادہ تر روایات کی متابعت نہیں کی گئی۔

احمد بن اسحاق نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے:

ان رجلا قال: طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رانى وآمن بى، ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بى ولم يرنى، فقال رجل: يا رسول الله ما طوبى! قال: شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام. ثياب اهل الجنة تخرج من اكمامها.

”ایک شخص نے عرض کی: اس شخص کی خوش نصیبی ہے جس نے آپ ﷺ کی زیارت کی اور آپ ﷺ پر ایمان لایا۔ تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اس شخص کی خوش نصیبی ہے جس نے میری زیارت کی اور مجھ پر ایمان لایا، پھر اس شخص کی خوش نصیبی ہے اور مزید خوش نصیبی ہے کہ جو مجھ پر ایمان لایا حالانکہ اس نے میری زیارت نہیں کی، ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ خوش نصیبی کیا ہوگی؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایک درخت ہے جس کی مسافت ایک سو سال کی مسافت جتنی ہے اور اہل جنت کے کپڑے اس کی شاخوں میں سے نکلیں گے۔“

ابن وہب نے عمرو بن حارث کے حوالے سے دراج سے ایک نسخہ نقل کیا ہے جس میں ابویشم کے حوالے سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ مرفوع حدیث نقل کی گئی ہے:

اصدق الرؤيا بالاسحار.

”سب سے زیادہ سچے خواب وہ ہوں گے جو سحری کے وقت دیکھے جائیں۔“

اسی سند کے ساتھ یہ روایت بھی منقول ہے:

اذكروا الله حتى يقال مجنون.

”اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کرو کہ یہاں تک کہ کہا جائے کہ یہ پاگل ہے۔“

اسی سند کے ساتھ یہ روایت بھی منقول ہے:

الجالس ثلاثة: سالم، وغانم، وشاجب

”مخپلیں تین قسم کی ہوتی ہیں: سلامتی والی، غنیمت حاصل کرنے والی اور گناہ لازم کرنے والی۔“

اسی سند کے ساتھ یہ بات بھی منقول ہے:

الشتاء ربيع المؤمن.

”موسم سرما مومن کی بہار ہے۔“

اسی سند کے ساتھ یہ بات بھی منقول ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فى يوم كان مقداره خمسين الف سنة " فقلت: فما اطول هذا؟ فقال: والذى نفسى بيده انه ليخفف عن المؤمن ... وذكر الحديث.

”ایک ایسا دن جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی، میں نے عرض کی: یہ تو کتنا زیادہ طویل ہے، تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ مومن کے لیے مختصر ہو جائے گا۔“

اس کے بعد انہوں نے پوری حدیث نقل کی ہے۔

ابن یونس کہتے ہیں: یہ مصر میں واعظ تھا، اس کا انتقال 126 ہجری میں ہوا۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا ہے: یہ ”متروک“ ہے۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

ان الارضین بین کل ارض والتی تلیہا مسیرة خمسمائة سنة. والعلیا منها علی ظہر حوت قد التقی طرفاہ فی السماء، وهو علی صخرة، والصخرة بیید ملک.

”کچھ زمینیں ہیں جن میں سے ہر ایک کا دوسری زمین سے فاصلہ پانچ سو سال کی مسافت جتنا ہے، اور ان میں سے جو سب سے اوپر ہے، وہ ایک مچھلی کی پشت پر ہے، جس کے دونوں سرے آسمان سے ملتے ہیں اور وہ ایک چٹان پر ہے اور وہ چٹان ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔“

ابن مندہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایات مشہور ہیں، یہ مصر کا رہنے والا ہے۔

(درباس، درست)

۲۶۷۱- درباس بن دجاجہ

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

۲۶۷۲- درست بن حمزہ

اس نے مطر وراق سے روایات نقل کی ہیں، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، ایک قول کے مطابق یہ درست بن زیاد ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: درست بن زیاد نے مطر سے روایات نقل کی ہیں، جن کی متابعت نہیں کی گئی۔

خلیفہ بن خیاط نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے:

ما من عبدین متحابین فی اللہ استقبل احدهما صاحبه فیتصفحان ویصلیان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا لم یفترقا حتی یغفر لهما.

”جب اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے دو بندے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔“

۲۶۷۳- درست بن زیاد (د) بصری قزاز

ایک قول کے مطابق اس کا لقب خزاز ہے، اس نے ابان بن طارق حمید بن جدعان اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں، جب

کہ اس سے نصر بن علی، مسدّد محمد بن ثنی اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ امام ابو زرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ وہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ احادیث قائم نہیں ہیں۔ ابن عدی کہتے ہیں: مجھے یہ امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ اور ابن حمزہ دونوں ضعیف ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا ہے: اہل بصرہ کا ایک تیسرا شیخ بھی ہے جس کا نام درست ہے، وہ ثقہ ہے، اس نے زہری سے روایات نقل کی ہیں جب کہ ابن ابوعروہ نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

درست نامی اس راوی نے یزید رقاشی کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقبل: مات فلان. قال: اليس كان معنا أنفا؟ قالوا: بلى. قال: سبحان الله كأنها اخذة على غضب، المحروم من حرم وصيته.

”ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتے تھے تو عرض کی جاتی تھی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا وہ کچھ دیر پہلے ہمارے پاس نہیں تھا، لوگوں نے عرض کی: جی ہاں! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سبحان اللہ! گویا کہ یہ ایسی پکڑ ہے جو غضب کے عالم میں ہوئی ہے، وہ شخص محروم ہے جو وصیت کرنے سے محروم رہا۔“

اس راوی کے حوالے سے ایک اور روایت بھی منقول ہے جو اس نے یزید رقاشی کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے

(جس کے یہ الفاظ ہیں:)

الشمس والقمر ثوران عقيران في النار.

”سورج اور چاند جہنم میں دو ذبح شدہ بیل کی حالت میں ہوں گے۔“

(درمک، دعامہ)

۲۶۷۴- درمک بن عمرو

اس نے ابواسحاق کے حوالے سے ایک منکر روایت نقل کی ہے، امام ابوحاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ مہول ہے۔ عقیلی کہتے ہیں: اس کی نقل

کردہ روایت کی متابعت نہیں کی گئی

۲۶۷۵- دعامہ

یہ قتادہ کا والد ہے، اس کے بیٹے کے علاوہ کسی نے اس سے روایت نقل نہیں کی اور یہ بات مستند نہیں ہے کہ اس نے اس سے روایت

نقل کی ہے۔

(دعبل)

۲۶۷۶- دعبل بن علی خزاعی

یہ شاعر ہے انتہا پسند ہے رافضی ہے، بغض رکھنے والا ہے بُرا بھلا کہنے والا ہے، یہ متوکل کے ڈر سے بھاگ گیا تھا اور تقریباً 90 سال تک زندہ رہا تھا اس کے حوالے سے امام مالک سے کچھ منکر روایات منقول ہیں۔

۲۶۷۷- دعبل (یا شاید) وغفل.

اس نے امام مالک سے روایات نقل کی ہیں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں اس کا مہمل طور پر تذکرہ ہے ابو عباس نباتی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ دعبل شاعر ہے، جس کا انتقال 240 ہجری کے بعد ہوا تھا اور یہ بزرگ ہو چکا تھا۔

۲۶۷۸- وغفل بن حنظلہ نسابہ

اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں نقل کی ہیں، جس کے بارے میں اس کے برخلاف نقل کیا گیا ہے، البتہ کسی نے اسے ضعیف قرار نہیں دیا ہے، ایک قول کے مطابق اسے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے لیکن یہ مستند طور پر ثابت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں اس سے واقف نہیں ہوں۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے مجہول ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس سے واقف نہیں ہے۔ اس کا اسم منسوب ذہلی شیبانی ہے، ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ کیا اسے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، انہوں نے فرمایا: جی نہیں! یہ کہاں سے صحابی ہو سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں یہ بات نقل کی ہے کہ اسحاق بن راہویہ نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے:

كان على النصارى صوم شهر رمضان، فولى عليهم ملك فمرض فقال: لئن شفاه الله ليزيدن عشرين، ثم كان عليهم ملك بعده فاكل اللحم فوجع فقال: لئن شفاه الله ليزيدن ثمانين ايام. ثم كان بعده ملك فقال: ما ندع من هذه الايام ان نتمها ونجعل صومنا في الربيع ففعل، فصارت خمسين يوما.

”پہلے عیسائیوں پر رمضان کے روزے فرض تھے پھر ایک بادشاہ ان کا حکمران بنا، وہ بیمار ہو گیا تو اس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اُسے شفا عطا کی تو وہ ان میں دس دنوں کا اضافہ کر دے گا، پھر ایک اور بادشاہ ان پر بنا، اس نے گوشت کھایا تو اسے تکلیف ہوگئی، اُس نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے شفاء عطا کی تو اس میں مزید آٹھ دنوں کا اضافہ کر دے گا، پھر اس کے بعد ایک اور بادشاہ بنا تو اس نے کہا کہ ہم ان دنوں کو پورا کریں گے اور ہم بہار آنے تک اپنے روزے رکھتے رہیں گے تو اس

نے ایسا ہی کیا تو یہ ان کے پچاس دن ہو گئے۔“

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت کی متابعت نہیں کی گئی اور نہ ہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا سماع معروف ہے۔ ابن سیرین کہتے ہیں: دغفل ایک عالم شخص تھا لیکن اس پر علم نسب میں مہارت کا غلبہ تھا۔

عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں: امیر معاویہ نے دغفل کی طرف پیغام بھیجا اور اس سے عربوں کے نسب کے بارے میں دریافت کیا، علم نجوم کے بارے میں بھی دریافت کیا اور عربی زبان و ادب کے بارے میں دریافت کیا اور قریش کے انساب کے بارے میں دریافت کیا تو دغفل نے ان کو اس کے بارے میں بتایا، کیونکہ وہ ان چیزوں کا عالم تھا تو امیر معاویہ نے کہا: اے دغفل! تم نے یہ سب باتیں کہاں سے یاد کی ہیں؟ تو اس نے جواب دیا: ایک ایسی زبان کے ذریعے جو سوال کرنے والی ہے، ایک ایسے دل کے ذریعے جو عقل رکھنے والا ہے، تو امیر معاویہ نے اسے یہ ہدایت کی کہ وہ یزید کو ان علوم کی تعلیم دے۔

(دفاع، دلہات)

۲۶۷۹- دفاع بن دغفل (ق).

اس نے عبدالحمید بن صفی سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، اس کی نقل کردہ روایت خضاب کے بارے میں ہے۔

۲۶۸۰- دلہات بن جبیر

اس نے ولید بن مسلم سے روایات نقل کی ہیں، ازدی کہتے ہیں: یہ انتہائی ضعیف ہے۔

(دلہم)

۲۶۸۱- دلہم بن اسود (د).

اس کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، یہ معروف نہیں ہے، اس نے اپنے باپ سے سماع کیا ہے، جب کہ اس سے صرف عبدالرحمن بن عیاش سمعی نے سماع کیا ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

۲۶۸۲- دلہم بن دہشم

اس نے ہشام بن عروہ سے روایات نقل کی ہیں، اس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے تاہم اسے ”متروک“ قرار نہیں دیا گیا۔ ازدی کہتے ہیں: محدثین نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔

۲۶۸۳- ولہم بن صالح (د، ت، ق) کندی، کوفی۔

اس نے امام شعمی اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں جب کہ اس سے وکج، ابو نعیم اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ میرے نزدیک عیسیٰ بن مسیب سے زیادہ محبوب ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں حرج نہیں ہے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔

(دلیل، دہشم)

۲۶۸۴- دلیل بن عبد الملک فزاری حلبی

اس نے سدی کے حوالے سے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے اس کے بیٹے عبد الملک نے ایک موضوع نسخہ نقل کیا ہے، جس کا کتابوں میں ذکر کرنا جائز نہیں ہے یہ بات امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔ (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ان میں یہ کہتا ہوں: ان میں سے ایک روایت یہ ہے: من اراد ان یسلک بالقضیب الباقوت الاحمر فلیسلک بحب علی رضی اللہ عنہ۔ ”جو شخص سرخ یا قوت کی چھڑی کو پکڑنا چاہتا ہو اسے علی سے محبت کو لازم پکڑنا چاہیے۔“

۲۶۸۵- دہشم بن جناح

اس نے شبابہ سے روایات نقل کی ہیں۔ ازدی کہتے ہیں: یہ کذاب ہے اس کی نقل کردہ احادیث کو نوٹ نہیں کیا جائے گا۔

۲۶۸۶- دہشم بن قران (ق)

اس نے یحییٰ بن ابوکثیر اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، ابوبکر بن عیاش، مروان بن معاویہ اور ایک جماعت نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ثقفہ“ نہیں ہے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی حدیث کو نوٹ نہیں کیا جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ابوبکر بن عیاش نے اس کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، پھر انہوں نے ایک کتاب تحریر کی سے جو یحییٰ بن ابوکثیر سے منقول روایات کے بارے میں ہے، لیکن پھر انہوں نے اسے ”متروک“ قرار دے دیا۔

جہاں تک ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے تو انہوں نے اس کا ذکر اثقات میں کر کے غلطی کی ہے، انہوں نے اس کا ذکر الضعفاء میں کیا ہے تو یہ ٹھیک کیا ہے۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ بنو حنیفہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے:

یاخذ ماء جدیداً للاذنین.

”آپ ﷺ (وضو کرتے ہوئے) کانوں کے لیے نئے سرے سے پانی لیتے تھے۔“

یہ روایت امام ابن ماجہ نے نقل کی ہے لیکن یہ روایت بیثم نامی راوی کی حالت کی وجہ سے اور نمران نامی راوی کے مجہول ہونے کی وجہ سے مستند نہیں ہے۔

(دوید، دیسم)

۲۶۸۷- دوید بصری.

اس نے اسماعیل بن ثوبان سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ لیسن ہے۔

۲۶۸۸- ویسم

یہ بنو سدوس سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ہے، یہ پتا نہیں چل سکا کہ یہ کون ہے؟ یہ اپنی نقل کردہ احادیث کی وجہ سے ہی شناخت کیا جا سکا ہے جو اس حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ سے حوالے سے نقل کی ہے:

ان اهل الصدقة یعتدون

”بے شک زکوٰۃ وصول کرنے والے ہم پر زیادتی کرتے ہیں۔“

ایوب سختیانی اس سے روایت نقل کرنے میں منفرد ہے۔

(دیلم)

۲۶۸۹- دیلم بن غزو ان (ق) بصری.

اس نے حکم بن حجل، ثابت اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے مسدّد عارم اور ہدبہ نے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن عدی نے اس کا تذکرہ الکامل میں کرتے ہوئے اس کو قوی قرار دیا ہے، انہوں نے اس کے حوالے سے چار غریب روایات نقل کی ہیں اور یہ کہا ہے: اس کی نقل کردہ روایات میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۲۶۹۰- دیلم بن فیروز.

ایک قول کے مطابق اس کا نام ابن مبروز جمیری ہے، اس کی نقل کردہ روایات مستند نہیں ہے، اس میں مجہول ہونا پایا جاتا ہے۔

۲۶۹۱- دیلم بن ہوشع ابو وہب حیسانی

اس نے ضحاک بن فیروز اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں جب کہ اس سے یزید بن ابو حصب نے روایات نقل کی ہیں، اس کا

شمار اہل مصر میں ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ سند میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔
 (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی نقل کردہ روایت یہ ہے:
 ”یا رسول اللہ! میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میری دو بیویاں سگی بہنیں ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم ان میں سے جسے
 چاہو طلاق دے دو اے فیروز!“۔
 جریر بن حازم، یحییٰ بن ایوب کے حوالے سے یزید سے اس روایت کو نقل کرنے میں منفرد ہے۔

(دینار)

۲۶۹۲- دینار، ابو سعید عقیصا

اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، اس کا شمار بنو تمیم کے آزاد شدہ غلاموں میں ہوتا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ
 قوی نہیں ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ متروک الحدیث ہے۔ سعدی کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ نہیں ہے۔
 ۲۶۹۳- دینار، ابو یحییٰ القتات۔

امام ابن ابوحاتم نے اس کا یہی نام بیان کیا ہے حالانکہ صحیح یہ ہے کہ اس کا نام عبدالرحمن ہے اور یہ ضعیف الحدیث ہے۔
 اس کا ذکر کنیت سے متعلق باب میں آئے گا۔

۲۶۹۴- دینار، ابو عمر (ق)۔

اس نے محمد بن حنفیہ سے روایات نقل کی ہیں، ازدی کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے، یہ بشر بن غالب اسدی کے آزاد کردہ غلاموں میں
 سے ایک ہے۔

ابن ابوحاتم کہتے ہیں: اس نے حضرت زید بن ارقم، محمد بن حنفیہ، مسلم بطنین سے روایات نقل کی ہیں جب کہ اس سے اسماعیل بن
 سلمان اور سفیان ثوری نے روایات نقل کی ہیں۔ وکیع کہتے ہیں: یہ ابو عمر بزار ہے اور مشہور نہیں ہے۔ ایک اور قول کے مطابق اس کا نام
 دینار بن عمر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔ امام ابوحاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ مشہور نہیں ہے۔
 ایک قول کے مطابق یہ مختاری گروہ سے تعلق رکھتا تھا اور مختار بن عبید کا سگ بھائی تھا، جو کذاب ہے۔

۲۶۹۵- دینار ابو میکیس حبشی

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، شخص ہلاکت کا شکار ہونے والا ہے اور اس پر تہمت بھی عائد کی گئی
 ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے موضوع روایات نقل کی ہیں۔ ابن عدی کہتے ہیں: یہ
 ضعیف ہے اس کی حدیث رخصت ہو گئی تھی۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں: احمد بن محمد بن غالب باہلی غلام خلیل نے، اس کے علاوہ حمدون بن

احمد سنسار نے، محمد بن موسیٰ بربری نے اور ابن ناجیہ نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے 240 ہجری کے زمانے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔ ابن عدی کہتے ہیں: اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے اس کے بعد انہوں نے پرندے سے متعلق روایت نقل کی ہے۔

عبداللہ بن ناجیہ کہتے ہیں: میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے خادم دینار کوسنا، یہ کالے رنگ کا مالک ہے اس نے کہا: میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے پھر اس نے مرفوع حدیث نقل کی:

من حبس طعاما اربعین یوما ثم اخرجہ و تصدق بہ لم یقبل منه.

”جو شخص چالیس دن تک کھانا روک رکھے اور پھر اسے نکال دے اور صدقہ کر دے تو یہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔“
ابن عدی کہتے ہیں: محمد بن احمد نے دینار کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے مالک حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مجھے حدیث بیان کی پھر اس نے مرفوع حدیث کے طور پر یہ بات نقل کی ہے:

الشعر فی الانف امان من الجذام.

”ناک میں موجود بال جذام سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہیں۔“

اسی سند کے ساتھ یہ بات بھی منقول ہے:

یقول تعالیٰ: الشیب علی البؤمن من نوری، وانا اکرم من ان احرق نوری بناری.

”اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے: مؤمن کا سفید بال میرے نور کی وجہ سے ہے اور میں اس سے بلند و برتر ہوں کہ میں اپنے نور کو اپنی آگ کے ذریعہ جلا دوں۔“

اسی سند کے ساتھ یہ بات بھی منقول ہے:

من اتی فی دبرہ سبع مرات حول اللہ شہوتہ من قبلہ الی دبرہ.

”جو شخص سات مرتبہ پچھلی شرم گاہ میں برافعل کروائے تو اللہ تعالیٰ اس کی شہوت کو اس کے آگے سے اس کی پچھلی شرم گاہ کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔“

اسی سند کے ساتھ یہ بات بھی منقول ہے:

قل سبحان اللہ وبحمدہ سبعین مرة یغفر لك ذنوب سبعین سنة.

”70 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھو تمہارے ستر سالوں کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔“

اسی سند کے ساتھ یہ بات بھی منقول ہے:

اذا اتی الرجل اہلہ احتسابا لم یتفرقا حتی یغفر لہما، وان کانا عشارین.

”جب کوئی شخص ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کی

مغفرت ہو جاتی ہے؛ اگرچہ وہ ٹیکس وصول کرنے والے ہوں۔“

والاعزب العفیف اذا اجنب خلق الله من جنابته طيرا اخضر یسبح، و ثوابه للاعزب. ومن اغتسل

من حلال اعطى الف قصر من در واعطى ثواب الف شهيد بكل قطرة.

”اور جب کوئی پاک دامن کنوارہ شخص جنسی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جنابت کے قطروں کے ذریعے ایک سبز رنگ کا پرندہ پیدا کرتا ہے جو بیج پڑھتا رہتا ہے اور اس کا ثواب اس کنوارے شخص کو ملتا ہے اور جو شخص حلال طور پر (صحبت کرنے کے بعد) غسل کرتا ہے تو اسے موتیوں سے بنے ہوئے ایک ہزار محل دیئے جائیں گے اور اسے ایک ہزار شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا جو ہر ایک قطرے کے عوض میں ہوگا۔“

قفاف نے ہم سے کہا: میں نے دینار کے حوالے سے دو سو پچاس احادیث یاد کی تھیں۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو یہ اسی قسم کی تھیں تو اس کا حساب یہی ہوگا کہ اس نے اس کے حوالے سے بیس ہزار روایات نقل کیں؛ جو سب جھوٹی تھیں۔

۲۶۹۶- دینار، ابو ہارون.

اس نے میمون بن سباز سے روایت نقل کی ہیں؛ یہ پتا نہیں چل سکا کہ یہ کون ہے؟

۲۶۹۷- دینار، ابو کثیر

اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایات نقل کی ہیں؛ یہ مجہول ہے۔

۲۶۹۸- دینار (و، ت)

اس نے اپنے آقا عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں؛ اس سے صرف اس کے بیٹے عیسیٰ بن دینار نے روایات نقل کی

ہیں؛ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

﴿حرف الذال﴾

(ذاکر، ذر)

۲۶۹۹- ذاکر بن موسیٰ بن شیبہ عسقلانی.

ازدی کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، اس نے رواد بن جراح کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے:
لان یربی احدکم جرد وکلب بعد سنة خمسين ومائة خیر من ان یربی ولدا لصلبه
”ایک سو پچاس سال گزرنے کے بعد آدمی کا اپنے کتے کے پلے کی پرورش کرنا اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ
اپنے سگے بیٹے کی پرورش کرے۔“

یہ روایت مستند سند کے ساتھ منقول ہے۔ (امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: یہ روایت جھوٹی ہے۔

۲۷۰۰- (صح) ذر بن عبد اللہ (م، ع) ہمدانی

یہ تابعی ہے اور ثقہ ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ پہلا شخص ہے جس نے ارجاء (کے عقیدے) کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ ازدی بیان کرتے ہیں: محدثین نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے، یہ مرجئی تھا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ مرجئی تھا۔ مغیرہ کہتے ہیں: ذر نامی اس راوی نے ابراہیم نخعی کو سلام کیا تو انہوں نے اسے سلام کا جواب نہیں دیا۔ (راوی کہتے ہیں: یعنی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا ارجاء کا عقیدہ تھا۔

ابو مختار طائی بیان کرتے ہیں: ذر نے ابو ختری کے ساتھ طائی کے سامنے سعید بن جبیر کی شکایت کی اس نے کہا: میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا اور پھر انہوں نے اس کے بارے میں کلام کیا تو سعید بولے: یہ شخص روزانہ ایک گناہ کرتا ہے اللہ کی قسم! میں اس کے ساتھ کبھی بات نہیں کروں گا۔ یحییٰ بن معین اور امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ذر نامی راوی ثقہ ہے، ابو ختری نے سعید سے اس کے بارے میں کلام کیا تو سعید بولے: یہ شخص روزانہ نیا گناہ کرتا ہے اللہ کی قسم! میں اس کے ساتھ کبھی بات نہیں کروں گا۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں: ذر، ثقہ ہے۔

۲۷۰۱- ذواد بن علیہ (ت، ق) ابو منذر حارثی کوفی

اس نے لیث بن ابوسلم اور مطرف بن طریف سے روایات نقل کی ہیں جب کہ اس سے سعید بن منصور، جبارہ بن مغلس اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ متین نہیں ہے، اس کی

حدیث رخصت ہوگئی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی بعض احادیث میں اس کے برخلاف نقل کیا گیا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے۔ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے اور عبادت کا تعلق ہے تو اس حوالے سے اس کے کیا کہنے۔ ابن نمیر کہتے ہیں: یہ صالح اور ”صدوق“ ہے ایک جماعت نے اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابا هريرة، اشكنب درد؟ قلت: لا. قال: صل فان في الصلاة شفاء.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (فارسی میں) ارشاد فرمایا ہے: اے ابو ہریرہ! کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی: جی نہیں! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نماز ادا کرو کیونکہ نماز میں شفاء ہے۔“

اس روایت کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ”مسند“ میں نقل کیا ہے تاہم زیادہ مستند روایت وہ ہے جسے محاربی نے لیث کے حوالے سے مجاہد کے حوالے سے مرسل روایت کے طور پر نقل کیا ہے اور روایت (کے متن میں استعمال ہونے والے فارسی الفاظ سے مراد ہے): کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟

(ذویب)

۲۷۰۲- ذویب بن عباد.

اس نے عکرمہ کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے اور اس سے روایت نقل کرنے والا شخص بھی مجہول ہے۔

۲۷۰۳- ذویب بن عمامہ سہمی

اس نے امام مالک اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے اسے ضعیف قرار دیا ہے لیکن اس بارے میں شدت نہیں کی اس نے اپنی سند کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے:

افتتحت امر القرى بالسيف، والمدینة بالقرآن.

”میں نے ام القرئ (یعنی مکہ) کو تلوار کے ذریعے فتح کیا اور مدینہ کو قرآن کے ذریعے فتح کیا۔“

یہ منکر روایت ہے اور ان روایات میں شامل ہے جنہیں نقل کرنے میں ذویب نامی راوی منفرد ہے۔

(ذوالنون، ذہیل، ذیال)

۲۷۰۴- ذوالنون مصری (مشہور صوفی بزرگ)

یہ صوفی اور عارف ہیں۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: انہوں نے امام مالک کے حوالے سے ایسی روایات نقل کی ہیں جن میں

غور و فکر کی گنجائش ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا نام ثوبان بن ابراہیم تھا اور ایک قول کے مطابق فیض بن احمد تھا۔ اور ایک قول کے مطابق ان کی کنیت ابو الفیض اور ایک قول کے مطابق ابو الفیاض ہے۔

محمد بن یوسف کندی نے مصر کے مولیوں کی تاریخ میں یہ بات نقل کی ہے ان میں سے ایک ذوالنون بن ابراہیم تمیمی ہے جو قریش کے آزاد کردہ غلام ہیں ان کے والد حبشی تھے۔ ابن یونس کہتے ہیں: یہ عالم تھے، فصیح تھے، دانش ور تھے، یہ نوبہ کے رہنے والے تھے۔ ان کا انتقال 245 ہجری میں ہوا ان کے والد نوبی تھے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں کہ انہیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور اذیتیں دی گئیں، کیونکہ ان کے پاس ایسا علم تھا جو لوگوں کے ذہنوں سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔

مصر میں یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے احوال کی ترتیب اور اولیاء کے مقامات کے بارے میں کلام کیا، تو جاہل لوگوں نے یہ کہا: کہ یہ بے دین ہیں۔

سلمی نے یہ بات نقل کی ہے: جب ان کا انتقال ہوا تو پرندوں نے ان کے جنازے کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا۔

۲۷۰۵۔ ذہیل بن عوف (ق) طہوی۔

انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، سلیمان بن عبد اللہ طہوری کے علاوہ اور کسی نے ان سے روایات نقل نہیں کی، ان سے صرف ایک روایت منقول ہے۔

۲۷۰۶۔ ذیال بن عبید بن حنظلہ

اس نے اپنے دادا سے روایات نقل کی ہیں، ازدی کہتے ہیں: اس میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ثقفہ“

ہے۔

حرف الرءاء

(راشد)

۲۷۰۷- راشد بن جندل (ت، م) یا فعی، مصری۔

اس نے حبیب بن اوس سے حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ یزید بن ابوجیب کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایات نقل نہیں کی۔

۲۷۰۸- راشد بن داؤد (س) صنعانی دمشقی۔

اس نے ابواساء رجبی اور ابواشعث سے روایات نقل کی ہیں جب کہ اس سے یحییٰ بن حمزہ ہبشم بن حمید اور متعدد افراد نے روایات نقل کی ہیں۔ دحیم اور یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہما نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔ امام دارقطنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

۲۷۰۹- راشد بن سعد (عو) حمصی۔

یہ صفین میں شریک ہوئے انہوں نے حضرت سعد، حضرت ثوبان، حضرت عوف بن مالک اور ایک مخلوق سے روایات نقل کی ہیں جب کہ ان سے زبیدی، ثور، معاویہ بن صالح اور متعدد افراد نے روایات نقل کی ہیں۔ یحییٰ بن معین، امام ابو حاتم رضی اللہ عنہما اور ابن سعد نے انہیں ”ثقة“ قرار دیا ہے۔ امام احمد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ان میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف ابن حزم کی رائے منفرد ہے وہ یہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔ امام دارقطنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ان کا اعتبار کیا جائے گا ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک قول کے مطابق ان کا انتقال 108 ہجری میں ہوا۔

۲۷۱۰- (صح) راشد بن کیسان (م، د، ت، ق)۔

انہوں نے میمون بن مهران، عبدالرحمن بن ابولیلیٰ اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں جب کہ اس سے حماد بن زید، سفیان ثوری، ابو نعیم اور ایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ صالح الحدیث ہے، ابن حبان رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب الثقات میں یہ بات بیان کی ہے: یہ بعض اوقات غلطی کرتا تھا اس کی کنیت ابو فرارہ ہے۔ امام ابو زرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ابو فرارہ کی نقل کردہ احادیث مستند نہیں ہوتیں ان کے صاحبزادے نے ان سے اسی طرح سنا ہے اور انہوں نے اس کا تذکرہ راشد نامی راویوں کے حالات میں کیا ہے۔ یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ ہے۔ امام دارقطنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ اور سمجھا رہے اس کا ذکر برائی کے ساتھ

نہیں کیا جائے گا۔

۲۷۱۱- راشد ابو سریہ یمامی۔

اس نے خالد بن معدان سے، جب کہ اس سے عکرمہ بن عمار نے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

۲۷۱۲- راشد بن معبد

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں۔ ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس نے موضوع روایات نقل کی ہیں۔ یحییٰ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔ ابو موسیٰ مدینی کہتے ہیں: محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ سہل کفشل کہتے ہیں: عامر بن جامع نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے:

کنا نصلی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لحفنا۔

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہم اپنے لحافوں میں ہی نماز ادا کر لیتے تھے۔“

(امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں کہ یزید بن ہارون اور ابو نعیم نے بھی اس سے روایات نقل کی ہیں، اس کا شمار اہل

واسط میں ہوتا ہے۔

۲۷۱۳- راشد، ابو سلمہ کوفی۔

اس نے ابو سلمہ بن عبدالرحمن سے روایات نقل کی ہیں۔ ازدی کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔

۲۷۱۴- راشد ابو الکیمیت۔

ایک قول کے مطابق اس کی کنیت ابو مکیث ہے اور اسم منسوب کوفی ہے، اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی زیارت کی ہے، یہ صرف ایک حدیث کے حوالے سے معروف ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں: جریر نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام لگایا کرتا تھا۔

۲۷۱۵- راشد، ابو محمد (ق) حمانی۔

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ، سیدہ معاذہ عدویہ رضی اللہ عنہا اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں، ایک قول کے مطابق اس کا نام راشد بن نجیح ہے، اس سے حماد بن زید ابو نعیم اور عبدالوہاب ثقفی نے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ صالح الحدیث ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الثقات میں یہ تحریر کیا ہے: یہ بعض اوقات غلطی کرتا تھا جب کہ دیگر حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ قرآن مجید کے رسم الخط کا بڑا عالم تھا۔

ایک سند کے ساتھ راشد نامی اس راوی کا یہ قول منقول ہے:

اتیت عبد الله بن الحارث بن نوفل فسألته عن الاسم الاعظم، فقال: حدثنا ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا اله الا الله الحليم العظيم.. وذكر الحديث.
 ”میں‘ عبداللہ بن حارث کی خدمت میں حاضر ہوا‘ میں نے ان سے اسم اعظم کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے:
 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت یہ پڑھا کرتے تھے:
 ”اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے‘ جو برباد ہے اور عظمت والا ہے۔“
 اس کے بعد راوی نے پوری حدیث ذکر کی ہے۔

۲۷۱۶- راشد، ابوسمرہ عطاری

یہ ابویحییٰ بن ابوسمرہ کا دادا ہے‘ سعید بن سلام عطاری نے اس کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے جو قنادہ سے منقول ہے‘ بعض حضرات نے اسے وہی قرار دیا ہے جب کہ میرے نزدیک خرابی کی جڑ سعید نامی راوی ہے۔
 ۲۷۱۷- راشد، (ق)

اس نے حضرت وابصہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے:
 رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاتہ اذا رکع لو صب علی ظہرہ ماء لا استقر.
 ”میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نماز میں جب رکوع کرتے تھے تو یوں ہوتا تھا کہ اگر آپ کی پشت پر پانی ڈالا جائے تو ایک جگہ ٹھہرا رہے گا۔“
 طلحہ بن زید رقی جو ایک وہی راوی ہے اس کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایت نقل نہیں کی۔

۲۷۱۸- راشد

اس نے سائب بن خباب سے، جب کہ اس کے بیٹے عبدالملک نے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے اسی طرح درج ذیل راوی بھی مجہول ہے۔

۲۷۱۹- راشد بن حفص

۲۷۲۰- راشد

یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا مؤذن تھا اور عوف اعرابی نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۲۷۲۱- راشد

یہ خیر بن حمر عینی کا غلام ہے اس نے تبع سے جب کہ اس سے اس کے غلام خیر نے روایات نقل کی ہیں یہ (اور سابقہ راوی) دونوں مجہول ہیں۔

(رافع، رباح)

۲۷۲۲- رافع بن اسید بن ظہیر انصاری

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں، میرے علم کے مطابق عبد الحمید کے والد جعفر بن عبد اللہ کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایت نقل نہیں کی اس سے زمین کو کرائے پر دینے کی ممانعت کے بارے میں روایت منقول ہے۔

۲۷۲۳- رافع بن سلمان (یا شاید) ابن سالم

اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ محمد بن ابراہیم تمیمی نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

۲۷۲۴- رافع بن سلمہ

اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، یہ (اور سابقہ راوی) دونوں مجہول ہیں۔

۲۷۲۵- رباح بن صالح

اس نے عبید اللہ بن ابورافع سے روایات نقل کی ہیں، جو ان کے والد سے منقول ہیں، یہ راوی مجہول ہے۔

۲۷۲۶- رباح بن عبید اللہ بن عمر عمری

اس نے سہیل بن ابوصالح اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، امام احمد رضی اللہ عنہ اور امام دارقطنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے۔ ابن حبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: جب یہ کسی روایت کو نقل کرنے میں منفرد ہو تو اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔

احمد بن اسحاق نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے:

بئس الشعب جباد - مرتین او ثلاثا قالوا: بم ذاك يا رسول الله؟ قال: تخرج منه الدابة فتصرخ

ثلاث صرخات فيسبعها من بين الخافقين.

”سب سے بُری گھاٹی جباد ہے، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین مرتبہ ارشاد فرمائی تو لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس میں سے ایک جانور نکلتا ہے اور وہ تین مرتبہ چیخ مارتا ہے جسے دونوں انق کے درمیان کی ہر مخلوق سنے گی (سوائے جن وانس کے)۔“

اس روایت کو نقل کرنے میں ہشام نامی راوی منفرد ہے۔

۲۷۲۷- رباح بن عثمان

اس نے اسماعیل بن عیاش سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

۲۷۲۸- رباح بن ابو معروف (م، س) مکی

اس نے مجاہد عطاء سے، جب کہ اس سے ابوعلیٰ حنفی، ابو نعیم اور ایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔ یحییٰ بن معین اور امام نسائی رحمہم اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا ہے: یہ قوی نہیں ہے۔ امام ابو زرہ رحمہم اللہ اور امام ابو حاتم رحمہم اللہ کہتے ہیں: یہ صالح ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں: میں نے اس کے حوالے سے کوئی منکر روایت نہیں پائی ہے۔

۲۷۲۹- رباح نوبلی

اس نے سیدہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا سے روایات نقل کی ہیں، بعض محدثین نے اسے لین قرار دیا ہے، یہ پتا نہیں چل سکا کہ یہ کون ہے۔

(ربیع)

۲۷۳۰- ربیع بن عبد الرحمن (د، ق) بن حضرت ابو سعید خدری

اس نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا سے روایات نقل کی ہیں۔ امام احمد رحمہم اللہ کہتے ہیں: یہ معروف نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمہم اللہ کہتے ہیں: امام بخاری رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں: مجھے یہ امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن عدی نے اس کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے جو وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے بارے میں ہے اور یہ روایت نقل کی ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تھی اور تین دوسری روایات نقل کی ہیں۔

۲۷۳۱- ربیع بن نوفل کوفی

اس نے امام شعبی سے جب کہ اس سے ایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں، یہ ایک کم درجے کا صالح شخص ہے۔ ازدی بیان کرتے ہیں: یہ اتنا قوی نہیں ہے۔

(ربیع)

۲۷۳۲- ربیع بن اسماعیل، ابو عاصم

اس نے جعدی سے روایات نقل کی ہیں جو جعدہ بن ہبیرہ کی اولاد میں سے ہے، جب کہ اس سے مکیر بن اسود اور محمد بن اسماعیل حمسی نے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابو حاتم رحمہم اللہ کہتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے۔

۲۷۳۳- ربیع بن بدر (ت، ق) ابو العلاء تمیمی بصری، علیہ

اس نے ابو زبیر اور ثابت سے، جب کہ اس سے علی بن حجر، داؤد بن رشید اور دیگر افراد نے روایات نقل کی ہیں۔ یحییٰ بن معین رحمہم اللہ

کہتے ہیں: یہ کوئی شے نہیں ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کہتے ہیں: یہ ضعیف ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ زیادہ تر روایات میں اس کی متابعت نہیں کی گئی۔

اس کے مشائخ میں سے ابن عون نے اس سے روایات نقل کی ہیں، ایک قول کے مطابق ہشام بن عمار جب دجیم پر ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتے تو یہ کہتے تھے: ربیع بن بدر نے ہمیں حدیث بیان کی ہے، اس سال جس سال دجیم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے:

القرآن شافع مشفع، وما حل مصدق.

”قرآن ایک ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی اور ایک ایسا بحث کرنے والا ہے جس کی بات کی تصدیق کی جائے گی۔“

یہ روایات عبداللہ نامی راوی نے اعمش کے حوالے سے موقوف روایت کے طور پر نقل کی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اس سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مانند ایک اور روایت بھی نقل کی ہے۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مبغض بنی امیة وبنی حنیفة وثقیف.
”جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت آپ بنو امیہ، بنو حنیفہ اور ثقیف قبیلے سے ناراض تھے۔“
اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ مرفوع حدیث بھی نقل کی ہے:

ما من یوم الا ینزل من برکات الجنة فی الفرات.
”روزانہ جنت کی برکات دریائے فرات میں نازل ہوتی ہیں۔“

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے:

ان اللہ لا یھتک ستر عبد فیہ مثقال حبة من خیر.

”بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کسی بندے کی پردہ دری نہیں کرتا جس کے اندر رائی کے دانے جتنی بھلائی موجود ہو۔“

۲۷۳۴- ربیع بن برہ

اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایات نقل کی ہیں۔ عقلی کہتے ہیں: یہ قدریہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا داعی تھا، اس سے کوئی مسند روایت منقول نہیں ہے۔

۲۷۳۵- ربیع بن حیطان.

ایک قول کے مطابق (اس کے باپ کا نام) حظیان ہے، اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابو زرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دمشق ہے۔ عمر بن عبد الواحد نے اس سے روایات نقل کی ہیں، ایک قول کے مطابق (اس کے باپ کا نام) حیظان ہے۔

۲۷۳۶- ربیع بن حبیب (ق) عبسی مولا، ہم کوئی۔

اس نے نوفل بن عبد الملک اور دیگر حضرات سے، جب کہ اس سے وکیع اور عبید اللہ بن موسیٰ نے روایات نقل کی ہیں۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقفہ“ قرار دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے۔ امام ابو زرعة رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ شیعہ ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کے حوالے سے منکر روایات منقول ہیں۔ اس سے ایک روایت سنن ابن ماجہ میں بھی منقول ہے جو دودھ دینے والی بکری کو ذبح کرنے کی ممانعت کے بارے میں ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہیں۔

۲۷۳۷- ربیع بن حبیب بصری

اسے ”متروک“ قرار نہیں دیا جائے گا (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ ابوسلمہ حنفی بصری ہے، جس نے حسن (بصری) محمد (بن سیرین) اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے بہز بن اسد اور یحییٰ القطان نے روایات نقل کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، علی بن مدینی نے اسے ”ثقفہ“ قرار دیا ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ اسے ”متروک“ قرار نہیں دیا گیا، تو اس رائے کو اس کے حق میں جرح شمار نہیں کیا جائے گا۔

۲۷۳۸- ربیع بن خلف۔

اس نے شعبہ سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

۲۷۳۹- الربیع بن زیاد الہمدانی۔

یہ بکریاں کوفہ لاکر بیچا کرتا تھا، اس نے اعمش اور ان کے طبقے کے افراد سے سماع کیا ہے، جب کہ اس سے اصرم بن حوشب اور محمد بن عبید اسدی نے روایات نقل کی ہیں، میں نے اس کے بارے میں کسی کی تضعیف نہیں دیکھی ہے اور یہ جائز الحدیث ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں: اس کے حوالے سے ایسی روایات منقول ہیں جو یحییٰ بن سعید اور دیگر اہل مدینہ سے منقول ہیں، لیکن ان روایات میں اس کی متابعت نہیں کی گئی۔

۲۷۴۰- ربیع بن سعد حنفی

یہ کوئی ہے، اس کی شناخت تقریباً نہیں ہو سکی، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”انواع“ (یعنی صحیح ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ میں) امام ابو یعلیٰ کے حوالے سے ان کی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

”جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے

ہوئے سناہے۔

یہ روایت امام ابو یعلیٰ نے اپنی ”مسند“ میں بھی نقل کی ہے اس راوی سے یہ روایت وکیع نے نقل کی ہے۔

۲۷۴۱- ربیع بن سلیم کوفی

اس نے ابو عمر جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کا غلام تھا اس کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے:

من اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذرہ، ومن کف غضبه کف اللہ عنه عذابه.

”جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول کر لیتا ہے اور جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنے عذاب کو روک لیتا ہے۔“

یہ روایت اس سے زید بن حباب نے نقل کی ہے اور یہ مسند ابن ابی شیبہ میں ہے۔ ازدی بیان کرتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے۔ یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ شیخ ہے۔

۲۷۴۲- ربیع بن سلیمان ازدی بصری خلقانی

اس نے صادم سے روایات نقل کی ہیں یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے۔

۲۷۴۳- ربیع بن سہل.

اس نے ہشام بن عروہ سے روایات نقل کی ہیں۔ یحییٰ کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ امام دارقطنی رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس کی حدیث میں اس کے برخلاف نقل کیا گیا ہے۔

یہ ربیع بن ساحل بن دکین بن ربیع بن عمیلہ بن فزاری ہے۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ علی بن ربیعہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

سمعت علیا علی منبرکم هذا، وهو يقول: عهد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق.

”میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تم لوگوں کی اس منبر پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ

تمہارے ساتھ صرف کوئی مؤمن ہی محبت رکھے گا اور کوئی منافق ہی تم سے بغض رکھے گا۔“

۲۷۴۴- ربیع بن صبیح (ت، ق) بصری.

اس نے حسن بصری رضی اللہ عنہ اور مجاہد سے، جب کہ اس سے ابن مہدی آدم اور علی بن جعد نے روایات نقل کی ہیں قطان اس سے راضی نہیں تھے۔ امام شافعی کہتے ہیں: یہ ایک ایسا شخص تھا جو بہت زیادہ جہاد میں شرکت کرنے والا تھا۔ ابو ولید کہتے ہیں: یہ تدلیس نہیں کرتا تھا اس کے بارے میں کسی نے کلام نہیں کیا ربیع اس پر فوقیت رکھتا ہے۔

امام احمد رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات نے یہ کہا ہے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علی بن مدینی کہتے ہیں: ہمارے نزدیک یہ صالح ہے لیکن

قوی نہیں ہے۔ یحییٰ بن معین اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔ شعبہ کہتے ہیں: یہ مسلمانوں کے سرداروں میں سے ایک ہے۔ امام رامہرمزی کہتے ہیں: بصرہ میں یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے تصنیف کی ابواب بندی کی وہ ربیع بن صبیح ہے پھر سعید بن ابو عمرو ہے اس راوی نے یزید رقاشی کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے:

ان للشيطان كحلا ولعوقا ونشوقا، فلعوقه الكذب، ونشوقه الغضب، وكحله النوم.

”شیطان کا ایک سرمہ ہے ایک چائنا ہے اور ایک سوگھانے کی چیز ہے تو اس کا چائنا جھوٹ بولنا ہے اس کا سوگھانے کی چیز غصہ کرنا ہے اس کا سرمہ نیند ہے۔“

اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے:

اکثر الحيض خسة عشر.

”حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دن ہے۔“

بشر بن عمر بیان کرتے ہیں: میں شعبہ کے پاس آیا تو وہ یہ کہہ رہے تھے: تم لوگ میرے حوالے سے روایات نقل کرتے ہو جو میں نے کبھی بیان ہی نہیں کی ہوتی ہیں، تو تم میں سے جس شخص نے مجھے سنا کہ میں نے ربیع بن صبیح پر تنقید کی، تو اللہ کی قسم! میں اس وقت تک تمہارے سامنے کوئی حدیث بیان نہیں کروں گا جب تک تم اس کے پاس جا کر اپنی کہی ہوئی بات کو جھٹلاتے نہیں ہو، چونکہ ربیع میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ وہ جس بھی شخص میں ان میں سے ایک بھی ہو تو اس کو اس کی وجہ سے سردار بنایا جائے گا۔ شعبہ کہتے ہیں: ربیع بن صبیح اس مرتبے تک پہنچے تھے جس مرتبے تک احف بھی نہیں پہنچے تھے۔

ابن مدینی کہتے ہیں: میں نے بڑی کوشش کی کہ یحییٰ مجھے ربیع کے حوالے سے منقول کوئی حدیث سنادیں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔

فلاس بیان کرتے ہیں: میں نے عفان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: ربیع کی نقل کردہ تمام روایات مقلوب ہیں۔

۲۷۴۵- ربیع بن عبد اللہ بن خطاف بصری احدب.

یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے واہی قرار دیا ہے اس نے حسن اور محمد بن سیرین کے حوالے سے منقطع روایات نقل کی ہیں۔ یحییٰ القطان کہتے ہیں: تم اس سے کوئی چیز روایت نہ کرو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عبد الرحمن بن مہدی کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ”ثقة“ ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے۔

۲۷۴۶- ربیع بن لوط (س)، کوئی.

اس نے حضرت براء رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات سے، جب کہ اس سے شعبہ، ابن عیینہ اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، جس شخص نے اسے جھوٹا کہا ہے اس نے غلطی کی ہے۔ سستی نے اپنے ”ذیل“ میں یہ بات تحریر کی ہے کہ اس کی سند اس پائے کی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ربیع بن لوط کے بارے میں کہی تھی۔

۲۷۲- ربیع بن مالک

اس نے خولہ سے، جب کہ اس سے حجاج بن ارطاة نے روایات نقل کی ہیں۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ انتہائی منکر الحدیث ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ احادیث ثابت نہیں ہے۔

۲۷۳- ربیع بن محمود ماردینی

یہ دجال ہے، مفتری ہے، اس نے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور لمبی عمر کا دعویٰ کیا تھا اور یہ پانچ سو ستانوے ہجری کی بات ہے۔
وادیشی نے سلفی کے بارے میں دو اشعار مجھے سنائے تھے اور اپنے ان الفاظ کے ذریعے ان دونوں کو بختہ کیا۔
رتن آٹھواں آدمی ہے، ماردینی نواں آدمی ہے، ربیع بن محمود اور وہ پھیلنے والا ہے۔

۲۷۴- ربیع بن مطرق

مروان بن معاویہ نے اس سے احادیث نقل کی ہیں، یحییٰ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔ ابن جوزی نے اس کا ذکر کیا ہے، شاید یہ نصر بن
مطرق ابو لبہ تھا، جس کا نام تصحیف کے طور پر ذکر کر دیا گیا ہے۔

۲۷۵- ربیع بن یحییٰ اششانی

اس نے شعبہ اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، یہ ”صدوق“ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔ امام
ابوحاتم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ناپسند کرنے کے باوجود یہ کہا ہے: یہ ”ثقة“ ہے اور مثبت ہے، جہاں تک امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے تو وہ یہ کہتے
ہیں کہ یہ ضعیف ہے اور بہت زیادہ غلطیاں کرتا تھا۔ اس نے ثوری کے حوالے سے منکر روایت نقل کی ہے جو محمد بن منکدر کے حوالے سے
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کی گئی ہے اور دو نمازیں ایک ساتھ ادا کرنے کے بارے میں ہے، بعض حافظان حدیث نے یہ کہا ہے کہ اس نے
اتنے اتنے ہزار احادیث کو ضائع کیا ہے۔

اس کا انتقال 224 ہجری میں ہوا۔

۲۷۶- ربیع بن یحییٰ بن مقسم مدائنی

اس کی شناخت پتا نہیں چل سکی۔ خطیب کہتے ہیں: اس نے شعبہ کے حوالے سے احادیث نقل کی ہیں اور اس سے امام ابوحاتم رحمۃ اللہ علیہ
نے روایات نقل کی ہیں، شاید یہ پہلے والا راوی ہی ہے۔

۲۷۷- ربیع غطفانی

یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں اس سے واقف نہیں ہوں، ابن عدی کہتے ہیں: یہ مجہول ہے اور اس کا اسم منسوب انہوں نے بیان
نہیں کیا۔

(ربیعہ)

۲۷۵۳- ربیعہ بن ربیعہ .

یہ ایک شیخ ہے جس کے حوالے سے ولید بن مسلم نے روایات نقل کی ہیں یہ معروف نہیں ہے۔

۲۷۵۴- ربیعہ بن سیف (د، ت، س) معافری مصری .

یہ تابعی ہے اس نے ابو عبد الرحمن حلبی اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے لیث بن سعد، ضمام بن اسماعیل اور مفضل بن فضالہ نے روایات نقل کی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن یونس کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایات منکر ہیں۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ صالح ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ہم ربیعہ کے حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے سماع سے واقف نہیں ہیں۔

حافظ عبد الحق ازدی نے اسے اس روایت کے حوالے سے ضعیف قرار دیا ہے جو اس نے نقل کی ہے:

یا فاطمة ابلغت معهم الكداء ؟ قال : لا . قال : لو بلغت معهم الكداء ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد ابيك .

”اے فاطمہ! کیا تم ان لوگوں کے ساتھ کداء (قبرستان) تک گئی تھیں؟ تو انہوں نے عرض کی: جی نہیں! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم ان لوگوں کے ساتھ کداء تک گئی ہو تیں تو اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوتیں جب تک تمہارے باپ کا دادا اس میں داخل نہ ہوتا۔“

انہوں نے یہ کہا ہے: یہ ضعیف الحدیث ہے اور اس سے منکر روایات منقول ہیں۔

ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس روایت میں ربیعہ کی متابعت نہیں کی گئی اور اس کی نقل کردہ روایات میں منکر ہونا پایا جاتا ہے جہاں تک امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے تو انہوں نے کتاب التمییز میں اس کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے اور یہ کہا ہے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کا انتقال تقریباً 120 ہجری کے آس پاس ہوا تھا۔

۲۷۵۵- ربیعہ (بن عبد اللہ یا شاید) عبد الرحمن بن حصن غنوی

یہ تابعی ہے اور اس میں مجہول ہونا پایا جاتا ہے اس نے اپنی دادی سے روایات نقل کی ہیں جن کا نام بنت نبہان تھا۔ یہ دونوں معروف نہیں ہیں۔ ان کے حوالے سے صرف وہ روایت منقول ہے جو ابو عاصم نے اس کے حوالے سے نقل کی ہے جو یوم روس کے دن خطبہ دینے کے بارے میں ہے۔ البتہ سراء نامی خاتون سے سانپ کو مارنے کے بارے میں بھی حدیث منقول ہے اور یہ خاتون مجہول ہے اس کا نام ساکنہ بنت جعد تھا۔

۲۷۵۶۔ (صح) ربیعہ بن ابوعبدالرحمن (ع) فروخ مدنی فقیہ

یہ مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے اور فقیہ ہے یہ ربیعہ الرائے کے نام سے معروف ہے اور منکر ربیعہ کی آل کے آزاد کردہ غلام ہیں ان کی کنیت ابو عثمان ہے ایک قول کے مطابق ابوعبدالرحمن ہے انہوں نے حضرت سائب بن یزید، حضرت انس اور سعید بن مسیب سے احادیث کا سماع کیا ہے جب کہ ان سے شعبہ امام مالک اور ابو زمرہ نے سماع کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے اسے ”ثقفہ“ قرار دیا ہے۔ ابو عمرو کہتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق یہ آخری عمر میں تغیر کا شکار ہو گئے تھے۔ میں نے ان کا تذکرہ صرف اس لیے کیا ہے کیونکہ ابوحاتم بن حبان نے ان کا تذکرہ ”الضعفاء“ کے ”ذیل“ میں کیا ہے اور ابوعباس نباتی نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تمام کتابوں کے مصنفین نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔

سوار بن عبداللہ قاضی کہتے ہیں: میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو ربیعہ رائے سے زیادہ بڑا عالم ہو تو ان سے دریافت کیا گیا: حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن سیرین بھی نہیں؟ انہوں نے کہا: حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن سیرین بھی نہیں۔
عبدالعزیز ماشون کہتے ہیں: اللہ کی قسم! میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو ربیعہ سے زیادہ سنت کا محافظ ہو۔
(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: ان کا انتقال 136 ہجری میں ہوا تھا۔)

۲۷۵۷۔ ربیعہ بن عثمان (م، س، ق)۔

اس نے نافع، ابن منکر اور متعدد افراد سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے ابن مبارک اور جعفر بن عون نے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقفہ“ قرار دیا ہے۔ امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ اتنا قوی نہیں ہے ابوحاتم کہتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ربیعہ بن عبداللہ بن ہدیر تہمی مدنی ہے۔

۲۷۵۸۔ ربیعہ بن کلثوم (م، س) بن جبر بصری

اس نے اپنے والد اور حسن سے، جب کہ اس سے یحییٰ القطان، عفان اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقفہ“ قرار دیا ہے ابوحاتم کہتے ہیں: یہ صالح ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے ابن عدی نے اس کا ذکر ”الکامل“ میں کیا ہے اور یہ کہا ہے: اس سے تھوڑی سی روایات منقول ہیں۔

۲۷۵۹۔ ربیعہ بن محمد، ابوقضاء طائی۔

اس نے ذوالنون مصری سے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے جو زجانی کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے انہوں نے یہ کہا ہے: اس نے (درج ذیل روایت) ذوالنون مصری کے حوالے سے ان کی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے:

انقض کو کب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انظروا، فمن انقض فی دارہ فهو الخلیفۃ بعدی، فنظرنا فاذا هو فی منزل علی. فقال جباعۃ: قد غوی محمد فی حب علی، فنزلت: والنجم اذا ہوی ما ضل صاحبکم وما غوی

”ایک مرتبہ ایک ستارہ ٹوٹا، تو نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس بات کا جائزہ لو کہ یہ ٹوٹ کر کس کے گھر میں گرا ہے؟ (یہ جس کے گھر میں گرا ہوگا) میرے بعد خلیفہ وہ ہوگا، جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں گرا تھا، اس پر کچھ لوگوں نے کہا: حضرت محمد ﷺ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں خود رفته ہو چکے ہیں تو اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی:

”ستارے کی قسم ہے، جب وہ نیچے کی طرف آیا، تمہارے ”آقا“ نہ تو گمراہ ہوئے اور نہ ہی بھٹکے۔“

۲۷۶۰- ربیعہ بن نابغہ

اس نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قربانی کے بارے میں ایک روایت نقل کی ہے جو مستند نہیں ہے یہ بات امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔

۲۷۶۱- ربیعہ بن ناجد (ق)

اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، اس کی شناخت تقریباً نہیں ہو سکی۔ ابوصادق نے اس سے ایک منکر روایت نقل کی ہے۔ جس میں یہ الفاظ ہیں:

علی اخی ودارثی ”علی میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔“

(رتن، رجاء)

۲۷۶۲- رتن ہندی

آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ رتن کیا چیز ہے؟ یہ بلاشبہ ایک دھوکے باز بڈھا ہے جو 600 ہجری کے بعد نمودار ہوا اور اس نے صحابی ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ صحابہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن اس نے اللہ اور اُس کے رسول کے بارے میں جرات کا مظاہرہ کیا، میں نے اس کے بارے میں ایک رسالہ تحریر کیا ہے، ایک قول کے مطابق اس کا انتقال 632 ہجری میں ہوا، یہ تو جتنا جھوٹا تھا سوتھا، لیکن لوگوں نے بہت سی جھوٹی اور ناممکن باتیں بھی اس کی طرف منسوب کی ہیں۔

۲۷۶۳- رجاء بن حارث.

اس نے مجاہد سے روایات نقل کی ہیں، یہ ابوسعید بن عمیر ہے، یحییٰ بن معین اور دیگر حضرات نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، فضل سینانی اور ابولید عدنی نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۲۷۶۴- رجاء بن ابور رجاء ہاملی

اس نے مجن بن ادرع سے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں مدینہ منورہ اور دجال کا تذکرہ ہے۔ عبداللہ بن شقیق کے علاوہ اور کسی

نے اس سے روایت نقل نہیں کی ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

۲۷۶۵- رجاء بن سہل صاعانی.

اس نے اسماعیل بن علیہ سے روایات نقل کی ہیں، ازدی کہتے ہیں: یہ حدیث چوری کرتا تھا، خطیب کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ ہے۔

۲۷۶۶- رجاء بن صبیح (ت) ابو یحییٰ

یہ کبازیے کا کام کرتا تھا، اس نے ابن سیرین اور یحییٰ بن ابو کثیر سے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے یہ کہا ہے: یہ قوی نہیں ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ ”الثقات“ میں کیا ہے، اس کے حوالے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ”جامع“ میں ایک حدیث منقول ہے اور وہ حدیث یہ ہے:

الرکن والمقام یا قوتان. ”رکن اور مقام دو یا قوت ہیں۔“

۲۷۶۷- رجاء بن ابو عطاء مصری

اس نے واہب معافری سے روایات نقل کی ہیں، یہ کم درجے کا صالح شخص ہے، حاکم کہتے ہیں: مصری (یعنی یہ راوی) موضوع روایات نقل کرنے والا شخص ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس نے موضوع روایات نقل کی ہیں، پھر انہوں نے اس کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے جو ہم تک اہل مصر کی مسلسل سند کے ساتھ پہنچی ہے۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

من اطعم اخاه المسلم حتی یشبعه، وسقاه من الماء حتی یرویہ بعده اللہ من النار سبع خنادق ما بین کل خندق مسیرة خسبائة عام.

”جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے یہاں تک کہ اُسے سیر کر دے اور اُسے پانی پلائے یہاں تک کہ اُسے سیراب کر دے تو اللہ تعالیٰ اُسے جہنم سے سات خندقوں جتنا دُور کر دے گا، جن میں سے ہر دو خندقوں کے درمیان پانچ سو برس کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔“

یہ حدیث غریب اور منکر ہے جسے نقل کرنے میں ادریس نامی راوی منفرد ہے جو ایک صوفی تھا۔

۲۷۶۸- رجاء انصاری (د، ق).

اس کے حوالے سے دو حدیثیں منقول ہیں، جو ابن شداد اور ایک دوسرے شخص سے منقول ہیں، اعمش کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایت نقل نہیں کی۔

(رجال، رحمہ)

۲۷۶۹- رجال بن سالم

اس نے عطاء سے روایت نقل کی ہے یہ پتا نہیں چل سکا کہ یہ کون ہے؟ لیکن اس کی نقل کردہ روایت منکر ہے جو اس نے عطاء کے حوالے سے نبی اکرم ﷺ کے اس فرمان کے طور پر نقل کی ہے:

الابدال من الموالي، ولا يبغض الموالي الا منافق. "ابدال کا تعلق موالی سے ہوگا اور موالیوں سے کوئی منافق ہی بغض رکھے گا۔"

۲۷۷۰- رحمہ بن مصعب واسطی

اس نے عثمان بن سعد سے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

رایت عمر یقبل الحجر.

"میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔"

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ روایت نقل کی ہے (کہ وہ اس بات کے قائل ہیں): جو شخص رات کے وقت عرفہ میں وقوف کر لے وہ حج کو پالیتا ہے، یہ روایت امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔

(رداد، روثح)

۲۷۷۱- رداد لیشی (د)

ابوسلمہ کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایت نقل نہیں کی اور اس نے اپنے والد عبدالرحمن سے صلہ رحمی کے بارے میں روایت نقل کی ہے۔

۲۷۷۲- روثح بن عطیہ

اس نے ابراہیم بن ابوعبیدہ سے روایت نقل کی ہے ابو حاتم نے اسے "ثقة" قرار دیا ہے جب کہ دیگر حضرات نے اسے تھوڑا سا کمزور قرار دیا ہے۔

(رزق)

۲۷۷۳- رزق اللہ بن اسود

اس نے ثابت بنانی سے روایت نقل کی ہے، عقیلی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت منکر ہے (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: لیکن اس کا متن درست ہے اور وہ یہ ہے: ”بچہ فراش والے کو ملے گا“ یہ روایت بکر بن محمد نے اس سے نقل کی ہے۔

۲۷۷۴- رزق اللہ بن سلام طبری.

اس نے سفیان بن عیینہ سے منکر سند والی ایک روایت نقل کی ہے، جس کا متن یہ ہے: حضرت اُسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: قرأت البارحة فغشيني كالغمامة.. الحدیث.

”گذشتہ رات میں قرأت کر رہا تھا کہ مجھ پر بادل کی طرح کی کوئی چیز چھا گئی۔“

۲۷۷۵- رزق اللہ بن موسیٰ (س، ق) ابو بکر بغدادی.

اس نے ابن عیینہ اور خالد طحان سے، جب کہ اس سے امام نسائی، امام ابن ماجہ، ابن صاعد اور محاملی نے روایات نقل کی ہیں، خطیب نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے لیکن انہیں وہم ہوا ہے، اس نے ایک حدیث مرفوع روایت کے طور پر نقل کی ہے جو اس نے یحییٰ القطان سے نقل کی ہے اور اسی وجہ سے عقیلی نے یہ کہا ہے: اس کی نقل کردہ روایت میں وہم پایا جاتا ہے۔

(رزیق)

۲۷۷۶- رزیق اعمیٰ

اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، ازدی کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے۔

۲۷۷۷- رزیق بن سعید (د) مدنی.

اس نے ابو حازم سلمہ سے، جب کہ اس سے صرف موسیٰ بن یعقوب نے ایک حدیث روایت کی ہے۔

۲۷۷۸- رزیق ابو عبد اللہ البہانی.

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ اور ان کی مانند افراد سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت ہے، اس سے ارطاة بن منذر، اسماعیل بن عیاش اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں، امام ابو زرعة رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔

۲۷۷۹- رزین بن شعیب

ابن حزم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

(رزین)

۲۷۸۰- رزین بن سلیمان احمری

اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، جب کہ اس سے علقمہ بن مرثد نے روایت نقل کی ہے، اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔ ایک قول کے مطابق اس کا نام سلیمان بن رزین ہے۔

۲۷۸۱- رزین بن عقبہ

اس نے حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، شاید یہ ابن عمارہ ہے، اس سے نجدہ بن مبارک کوفی نے روایات نقل کی ہیں۔ یہ پتا نہیں چل سکا کہ یہ کون ہے؟

۲۷۸۲- رزین کوفی اعمی

یہ ”متروک“ ہے اور اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، یہ بات ازدی نے بیان کی ہے، حبیب بن ابوثابت نے اس سے روایت نقل کی ہے، پھر ازدی نے اس کے حوالے سے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث کے طور پر منقول ہے:

من فارقنی فارق اللہ، ومن فارق علیا فقد فارقنی، ومن تولاه فقد تولانی.. الحدیث.
 ”جو شخص مجھ سے لاتعلق ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے لاتعلق ہو گیا اور جو شخص علی سے لاتعلق ہو، وہ مجھ سے لاتعلق ہو گیا، جس نے اُس سے نسبت رکھی، اُس نے مجھ سے نسبت رکھی“

(رشدین)

۲۷۸۳- رشدین بن سعد (ت، ق) مہری مصری

اس نے زہرہ بن معبد اور یونس بن یزید سے، جب کہ اس سے تنبیہ ابو کریب، عیسیٰ بن مخرود اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں، امام احمد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ اس بات کی پروا نہیں کرتا کہ یہ کس سے روایت نقل کر رہا ہے، البتہ وعظ و نصیحت سے متعلق روایات اس سے نقل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے: مجھے یہ امید ہے کہ یہ صالح الحدیث ہے۔ یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے، امام ابو زرعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، جو زجانی کہتے ہیں: اس کے پاس بہت سی منکر احادیث ہیں۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ نیک اور عبادت گزار شخص تھا لیکن اس کا حافظہ خراب تھا اور یہ قابلِ اعتماد نہیں

ہے۔

ابو یوسف رقی بیان کرتے ہیں: جب تم بقیہ کو یہ کہتے ہوئے سنو: ابو جحجہ مہری نے ہمیں حدیث بیان کی ہے تو یہ بات جان لو کہ وہ رشدین بن سعد ہوگا۔ تمبیہ کہتے ہیں: رشدین کے ہاتھ میں جو بھی چیز رکھی گئی وہ انہوں نے پڑھ دی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے:

لکل شیء قیامة وقیامة المسجد لا واللہ، ویلی واللہ.

”ہر چیز کا ایک کوڑا ہوتا ہے اور مسجد کا کوڑا یہ ہے کہ وہاں یہ کہا جائے: جی نہیں! اللہ کی قسم! جی ہاں! اللہ کی قسم!“

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے:

الذی یتخطی رقاب الناس یوم الجمعة یتخذ جسرا الی جہنم.

”وہ شخص جو جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جاتا ہے، وہ جہنم کی طرف جانے والے پل پر چڑھتا ہے۔“

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے:

لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاعل والمفعول بہ، وانا منہم بری

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے اور جس کے ساتھ یہ کیا گیا (اُن دونوں پر) لعنت کی ہے اور میں ان لوگوں سے بری

الذمہ ہوں۔“

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے:

لو لم ابعث فیکم لبعث عمر نبیا.

”اگر مجھے تمہارے درمیان مبعوث نہ کیا جاتا، تو عمر کو نبی بنا کر مبعوث کیا جاتا۔“

ابن عدی کہتے ہیں: رشدین نے اس حدیث کا متن اُلٹ لیا ہے، حدیث کا اصل متن یہ ہے:

لو کان بعدی نبی لکان عمر.

”اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔“

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت مرفوع حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

یبعث اللہ الاسلام یوم القیامة علی صورة الرجل علیہ رداؤہ، ولا یکمل الرجل الا بردائه، فیاتی

الرب عزوجل فیقول: یا رب، منک خرجت، والیک اعود، فشفعنی الیوم فیمن تشبث الی. فیقول: قد

شفعتک.. الحدیث.

”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسلام کو ایک مرد کی شکل میں اُٹھائے گا، جس پر اُس کی چادر ہوگی، ویسے آدمی اپنی چادر کے

ذریعے ہی مکمل ہوتا ہے، اسلام پروردگار کی بارگاہ میں آئے گا اور یہ عرض کرے گا: اے میرے پروردگار! میں تیری طرف

سے نکلا تھا اور تیری طرف لوٹ آیا ہوں تو تو آج اُن لوگوں کے بارے میں میری شفاعت قبول کر لے؛ جنہوں نے مجھے مضبوطی سے اختیار کیا، تو پروردگار فرمائے گا: میں نے تمہاری شفاعت قبول کی۔“
یہ روایت ابن عدی نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے نقل کی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت مرفوع حدیث کے طور پر نقل کی ہے:
ان اللہ یبغض الشیخ الغریب.

”بے شک اللہ تعالیٰ غریب بوڑھے کو ناپسند کرتا ہے۔“

رشدین نے اس کی وضاحت کی ہے: یعنی وہ شخص جو سیاہ خضاب لگاتا ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت مرفوع حدیث کے طور پر نقل کی ہے:
لا تبکیں الا احد رجلین، فاجر مکمل فجورہ، او بار مکمل برہ.

”تم دو میں سے کسی ایک پر ہی رونا، ایک وہ گنہگار جس کا گناہ مکمل ہو اور ایک وہ نیکو کار جس کی نیکیاں مکمل ہوں۔“

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے:

الاکل باصبع اکل الملوك فلا تفعله، ولا تاکل باصبعین، فانه اکل الشیطان، وکل بثلاث.

”ایک انگلی سے کھانا بادشاہوں کے کھانے کا طریقہ ہے، تم ایسا نہ کرنا اور تم دو انگلیوں سے بھی نہ کھانا، کیونکہ یہ شیطان کا کھانے کا طریقہ ہے، تم تین انگلیوں سے کھانا۔“

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے:

من اتى کاهنا فصدقه فقد برء مما انزل علی محمد، ومن اتاه غیر مصدق لم تقبل له صلاة اربعین یوما

”جو شخص کاہن کے پاس جائے اور اُس کی تصدیق کرے تو وہ اُس چیز سے لعلق ہو جاتا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو شخص کاہن کے پاس جائے لیکن اُس کی تصدیق نہ کرے تو اُس کی چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔“

امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب ”الضعفاء“ میں تعلیق کے طور پر اس راوی کے حوالے سے اُس کی سند کے ساتھ حضرت عمرو بن جوح رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

لا یجد العبد صریح الایمان حتی یحب لله، ویبغض لله، فاذا احب لله وابغض لله فقد استحق الولاية من الله. قال: وان اولیائی من عبادى واحبائى من خلقى الذین یذکرون بذاکری، واذکر بذاکرهم.

”بندہ اُس وقت تک صحیح ایمان کو نہیں پاسکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض نہیں رکھتا، جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولایت کا مستحق ہو جاتا ہے“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: بے شک میرے بندوں میں سے میرے دوست اور میری مخلوق میں سے میرے محبوب لوگ وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں اُن کا ذکر کرتا ہوں۔“

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان نقل کیا ہے:

الغسل يوم الجمعة مثل الغسل من الجنابة.
”جمعہ کے دن جو غسل کیا جاتا ہے وہ غسل جنابت کی مانند ہوگا۔“

اس راوی کا انتقال 188 ہجری میں ہوا۔

۲۷۸۴- رشیدین بن کریب (ت، ق)

یہ (یعنی اس راوی کا باپ کریب) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا غلام ہے، اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں، اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی بھی زیارت کی ہے۔ عیسیٰ بن یونس، ابن بزیل اور ایک جماعت نے اس سے روایات نقل کی ہیں، امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے، ابن مدینی اور ایک جماعت نے یہ کہا ہے: یہ ضعیف ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے، اس کے بھائی محمد کے بارے میں بھی غور و فکر کی گنجائش ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے:

لا تصل علی قبر ولا الی قبر.

”قبر پر یا قبر کی طرف رُخ کر کے نماز ادا نہ کرو۔“

حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مستند طور پر منقول ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے قبر پر نماز ادا کی تھی۔

(رشید)

۲۷۸۵- رشید بن ابراہیم

اس نے حسن بصری رحمہ اللہ سے روایات نقل کی ہیں۔

۲۷۸۶- رشید زبری

اس نے ثابت سے روایات نقل کی ہیں۔ یہ دونوں (یعنی یہ اور سابقہ راوی) مجہول ہیں۔

۲۷۸۷- رشید ہجری

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔ جو زبانی کہتے ہیں: یہ کذاب ہے اور ثقہ نہیں ہے، امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ قوی

مترجم عرض پرداز ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ کو شاید اس کا مفہوم سمجھنے میں وہم ہوا ہے، کیونکہ جس روایت میں قبر پر نماز ادا کرنے کی ممانعت ہے اس سے مراد عین قبر کے اوپر نماز ادا کرنا ہے، اور جس روایت میں قبر پر نماز ادا کرنے کا ذکر ہے، اس سے مراد قبر کے پاس قبر میں مدفون شخص کی نماز جنازہ ادا کرنا ہے، واللہ اعلم، روشن غمی عنہ

نہیں ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: محدثین نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے، عباس دوری نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: شععی نے رشید ہجری، حبہ عربی اور اصغ بن نباتہ کو دیکھا ہے، وہ انہیں کسی چیز کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ حبیب بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ بیان کرتے ہوئے سنا:

”دابۃ الارض اپنے منہ کے ذریعے کھائے گا اور سرین کے ذریعہ باتیں کرے گا۔“

اس پر رشید ہجری نے کہا: میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ ”دابۃ“ آپ ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُس پر رشید ناراضگی کا اظہار کیا۔

زکریا بن ابوزائدہ بیان کرتے ہیں: میں نے امام شععی سے کہا: کیا وجہ ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں پر اعتراضات کرتے ہیں حالانکہ آپ نے اُن حضرات سے ہی علم حاصل کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا: کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا: حارث اور صعصعہ کی، انہوں نے فرمایا: جہاں تک صعصعہ کا تعلق ہے تو وہ ایک خطیب تھا، میں نے اُس سے خطابت کا فن سیکھا جہاں تک حارث کا تعلق ہے تو میں نے اُس سے حساب سیکھا باقی رہ گیا رشید ہجری تو میں تمہیں اُس کے بارے میں بتاتا ہوں، ایک شخص نے مجھ سے کہا: تم ہمارے ساتھ اُس کے پاس چلو، جب ہم وہاں گئے اور اُس نے مجھے دیکھا تو اُس نے ایک شخص سے اشارے میں کہا: اور تیس کا عدد بنا کر دکھایا، وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ ہم میں سے ہے، پھر اُس نے بتایا: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہم لوگ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ہم نے کہا: آپ ہمیں امیر المؤمنین کے پاس لے چلیں، انہوں نے فرمایا: اُن کا تو انتقال ہو گیا ہے، ہم نے کہا: جی نہیں! بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اس وقت بھی یہ بات جانتے ہیں کہ چادر کے اندر کیا ہے؟ امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر تمہیں اس بات کا علم ہے تو پھر تم اندر اُن کے پاس چلے جاؤ، لیکن وہاں ہجوم نہ کرنا۔ (یہ واقعہ سننے کے بعد) امام شععی نے کہا: میں نے ایسے شخص سے کیا علم حاصل کیا ہوگا۔

ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: رشید ہجری، کوئی تھا اور رجعت پر ایمان رکھتا تھا، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں: امام شععی نے یہ بات بیان کی ہے: ایک مرتبہ میں رشید کے پاس گیا تو اُس نے بتایا: ایک مرتبہ میں حج کے لیے روانہ ہونے لگا تو میں نے سوچا: مجھے پہلے امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضری دینی چاہیے، میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر آیا، میں نے ایک شخص سے کہا: تم امیر المؤمنین سے میرے لیے اندر آنے کی اجازت مانگو، تو اُس شخص نے کہا: کیا اُن کا انتقال نہیں ہو چکا ہے؟ میں نے کہا: وہ تمہارے درمیان فوت ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی قسم! وہ اس وقت بھی زندہ انسانوں کی طرح سانس لے رہے ہیں، تو اُس شخص نے کہا: اگر تم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز سے واقف ہو تو اندر چلے جاؤ! میں اندر امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا جو آگے چل کر رونما ہوں گی۔ اس پر امام شععی نے رشید ہجری سے کہا: اگر تو تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر لعنت کرے! اس بات کی اطلاع زیاد تک پہنچی تو اُس نے رشید ہجری کو بلوایا، اُس کی زبان کٹا دی اور اُسے عمرو بن حریث کے گھر کے دروازے پر مصلوب کر دیا۔

۲۷۸۸- رشید، ابو موہوب کلابی.

اس نے حیان بن ابوسلمہ سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

(رضراض، رفاعہ)

۲۷۸۹- رضراض

اس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایات نقل کی ہیں ازدی کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے۔

۲۷۹۰- رفاعہ ہاشمی

یہ زید بن عبداللہ بن مسعود ادیب ہے یہ انتہائی جھوٹا اور انتہائی شریعتاً اس نے چالیس احادیث کی اسانید ایجاد کیں، جنہیں ابن ودعان نے اُس سے چوری کر لیا اور خود اُن کا دعویٰ کر دیا۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے:

العلم الذی لا یعمل بہ کالکنز الذی لا ینفق منه، اتعب صاحبہ نفسہ فی جمعه، ثم لم یصل الی نفعہ.

”وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ ایسے خزانے کی مانند ہے جس میں سے خرچ نہ کیا جائے وہ اپنے آپ کو جمع کرنے کی مشقت کا شکار کرتا ہے لیکن اُس کے فائدے تک نہیں پہنچتا“۔

اس روایت کو ایجاد کرنے کا الزام زید نامی اس راوی پر ہے۔

۲۷۹۱- رفاعہ بن ہریر بن عبدالرحمن بن رافع بن خدیج

ابن ابوفدیک نے اس سے سماع کیا ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے اسے ”واہی“ قرار دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے

ہیں: اس میں غور و فکر کی گنجائش ہے، اس نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا سے کچھ چیزیں روایت کی ہیں۔

(رفدہ، رفع)

۲۷۹۲- رفدہ بن قضاہ

اس نے ثابت بن عجلان سے روایات نقل کی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ حدیث کی متابعت نہیں کی گئی، (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: یہ دمشق ہے، ابو مسہر بیان کرتے ہیں: یہ قبیلے کا غلام ہے، اُن کی مراد غسان قبیلہ ہے، اُنہوں نے یہ فرمایا ہے: اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے، (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: اس کے حوالے سے ایک جھوٹی روایت منقول ہے جو اُس شخص کو قتل کرنے کے بارے میں ہے، جس نے اپنی بہن کے ساتھ زنا کیا تھا۔

۲۷۹۳- (صح) رفیع ابو العالیہ (ع) ریاحی

اس کے تفصیلی حالات ابن عدی کی کتاب ”الکامل“ میں منقول ہیں یہ ”ثقة“ ہے امام شافعی کا اس کے بارے میں یہ کہنا: ابو العالیہ ریاحی کی حدیث ریاح (ہوا) ہے اس سے مراد اس کی نقل کردہ صرف وہ حدیث ہے جو اس نے (نماز کے دوران) قبضہ لگانے کے بارے میں ”مرسل“ طور پر روایت کی ہے اور امام شافعی اس بات کے قائل ہیں: مرسل روایت حجت نہیں ہوتی، لیکن جب ابو العالیہ کسی روایت کو ”مسند“ کے طور پر نقل کرے تو وہ حجت ہوگی۔

(رکن، رکین)

۲۷۹۴- رکن شامی.

اس نے کھول اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، عبداللہ بن مبارک نے اسے واہی قرار دیا ہے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے۔ اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے:

قلت: يارسول الله يتوضا الرجل للصلاة ثم يقبل اهله ويلاعها ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا.
”میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ایک شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور پھر اپنی بیوی کا بوسہ لے لیتا ہے اور اُس کے ساتھ خوش فعلی کرتا ہے تو کیا اُس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جی نہیں!“
اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے:

ذراری المسلمین تحت العرش، شافع ومشفع، ومن لم يبلغ اثنتي عشرة سنة، ومن بلغ ثلاث عشرة سنة فعليه وله.

”کسنی میں فوت ہونے والے مسلمانوں کے بچے عرش کے نیچے ہوں گے، وہ شفاعت کریں گے اور اُن کی شفاعت قبول ہوگی یہ وہ بچہ ہے جو بارہ سال کی عمر تک نہ پہنچا ہو، لیکن جب بارہ سال کا ہو جائے تو اُس پر احکام لاگو ہوں گے اور اُسے اجر و ثواب حاصل ہوگا۔“

اس راوی کا انتقال تقریباً 160 ہجری میں ہوا۔

۲۷۹۵- رکین بن عبد الاعلی

سفیان ثوری نے اس سے احادیث روایت کی ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور جریر رضی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اس نے تمیم بن حذلم سے احادیث کا سماع کیا ہے، جریر بن عبد الحمید کہتے ہیں: یہ اُن افراد میں شامل نہیں ہے جن سے حدیث کو حاصل کیا جائے کیونکہ یہ غفلت کا شکار تھا اور سرکاری عہدے پر فائز تھا۔

(ریح)

۲۷۹۶- ریح بن ہلال

اس نے عبد اللہ بن بریدہ سے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے پھر امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے: میرے علم کے مطابق ابو تمیلہ کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایت نقل نہیں کی ہے ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ مشہور راویوں سے منکر روایات نقل کرنے میں منفرد ہے۔

۲۷۹۷- ریح

اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں اس کی شناخت پتا نہیں چل سکی اس کی حدیث اس سے مستلم بن سعید نے روایت کی ہے: ”جب مال نے فوذاقی دولت سمجھا جانے لگے“
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ روایت غریب ہے اور ہم اس راوی کو صرف اسی حوالے سے جانتے ہیں۔

(رواد)

۲۷۹۸- رواد بن جراح عسقلانی (ق)، ابو عصام۔

اس نے خلید بن علی رحمۃ اللہ علیہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اور متعدد افراد سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے اسحاق یحییٰ بن معین ابو بکر بن ابی شیبہ اور عباس ترققی نے روایات نقل کی ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ سنت کا عالم تھا لیکن اس نے سفیان کے حوالے سے منکر احادیث بیان کی ہیں یحییٰ بن معین کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس نے منکر روایات کے علاوہ احادیث نقل کی ہیں امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کا محل صدق ہے لیکن اس کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے ابن عدی کا کہنا ہے: اس کی نقل کردہ زیادہ تر روایات میں لوگوں نے اس کی متابعت نہیں کی ہے اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے:

من اجتنب اربعا دخل الجنة: الدماء، والاموال، والفروج، والاشربة.

”جو شخص چار چیزوں سے اجتناب کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا: خون (یعنی قتل)، حرام اموال، شرمگاہ اور مشروبات۔“

اسی سند کے ساتھ یہ مرفوع حدیث بھی منقول ہے:

المرأة اذا صلت خمسها، وصامت شهرها، واحصنت فرجها، واطاعت زوجها دخلت الجنة.

”جو عورت پانچ نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے، وہ جنت میں داخل ہوگی۔“

ذاکر عسقلانی جو خود ثقہ نہیں ہے اُس نے اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے کہ جب فلاں سال ہوگا تو یوں اور یوں ہو جائے گا۔
یہ روایت عبدالغفار ربلی نے اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے۔
اس روایت کا کچھ حصہ عباس ترقمی نے اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث کے طور پر نقل کیا ہے:

خير كم في البائتين كل خفيف الحاذ. قالوا: وما خفيف الحاذ؟ قال: من لا اهل له، ولا ولد.
”دو سو سال گزرنے کے بعد تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہوگا جس کا بوجھ کم ہو لوگوں نے عرض کی: بوجھ کم ہونے سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے بیوی بچے نہ ہوں۔“
ایک اور سند کے ساتھ یہ روایت منقول ہے:

اذا كان سنة خمسين ومائة فلان يربى احدكم جبر و كلب خير من ان يربى ولدا.
”جب 150 ہجری ہو جائے گی تو اُس وقت آدمی کا کتے کے پلے کو پالنا اس سے زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ اپنی اولاد کو پالے“
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: رواد (نامی اس راوی) نے سفیان سے روایات نقل کی ہیں یہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا اور مستند نہیں رہا۔
اس کی زیادہ تر احادیث مستند نہیں ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے معاویہ بن صالح نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ”ثقہ“ اور مامون ہے عباس دوری نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس نے سفیان کے حوالے سے منقول حدیث میں غلطی کی ہے یعنی یہ روایت: ”جب کوئی عورت پانچ نمازیں ادا کرے“۔
(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اور اس حدیث میں بھی غلطی کی ہے ”تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا بوجھ ہلکا ہو“۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ منکر ہے اور یہ ”ثقہ“ راویوں کی حدیث سے متابعت نہیں رکھتی میرے سامنے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اس روایت کا آغاز یوں ہوا: ایک شخص رواد کے پاس آیا اور اُس نے یہ بات اس کے سامنے ذکر کی رواد کو یہ بات اچھی لگی اُس نے اسے نوٹ کر لیا اور بعد میں اسے حدیث کے طور پر بیان کر دیا وہ یہ سمجھا کہ شاید اُس نے اس کا بھی سماع کیا ہے۔

(رؤبہ)

۲۷۹۹- رؤبہ بن رویبہ

اس نے حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ سے ایک منکر روایت نقل کی ہے جسے بعض ضعیف راویوں نے اس سے روایت کیا ہے رؤبہ نامی اس راوی کی شناخت نہیں ہو سکی۔

۲۸۰۰- روئے بن عجاج شاعر۔

اس نے اپنے والد سے، اور اس سے علاء بن اسلم اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ القطان کہتے ہیں: یہ شخص جھوٹ بیان نہیں کرتا۔

ابو حاتم بھستانی، ابراہیم بن عرعہ اور دیگر حضرات نے اس راوی کے حوالے سے اس کے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ شعر سنایا:

ایک اور سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ بیان منقول ہے:

کانا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر وحاد یحدو:

طاف الخیالان فهاجا سقبا خیال تکنی وخیال تکتبا

قامت تریک خشية ان تصرما ساقا بخنداة وکعبا ادما

والنبي صلی اللہ علیہ وسلم لا ینکر ذلك.

”ایک مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے ایک حدی پڑھنے والے نے یہ شعر پڑھنے شروع کیے۔

ترجمہ: دو خیالات نے چکر لگایا یعنی دو خیالات آئے گھومے اور مانند پڑ گئے ایک خیال چھپ گیا اور دوسرا چھپنے کو ہے قبل اس کے کہ منقطع ہوئے مکمل عورت تک لے گئے اور بلند ہوئے اور بچوں کے دودھ والے دانتوں کی طرح گر گئے۔

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں کیا۔“

ابن شہبہ کہتے ہیں: یہ غلطی ہے، کیونکہ یہ عجاج نامی شاعر کے اشعار ہیں اور اس کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: روئے ثقہ نہیں ہے۔

(روح)

۲۸۰۱- روح بن اسلم بابلی۔

اس نے حماد بن سلمہ اور ہمام سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے دارمی اور حمید بن زنجویہ نے روایات نقل کی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: محدثین نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: حدیث نقل کرنے میں یہ کمزور ہے، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ اتنے پائے کا نہیں ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، عفان کہتے ہیں: یہ کذاب ہے، لیکن ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ ”الثقات“ میں کیا ہے۔ ابن مدینی کہتے ہیں: اس کی حدیث رخصت ہو گئی تھی، یعنی ضائع ہو گئی تھی۔ محمد بن عثمان بن ابوشیبہ نے اس کی اسی طرح وضاحت کی ہے۔

۲۸۰۲- روح بن جناح.

یہ ولید بن عبد الملک کا غلام ہے، اس نے مجاہد اور شہر سے، جب کہ اس سے ولید بن مسلم اور ابن شعیب نے روایات نقل کی ہیں، وحیم نے اسے ”ثقفہ“ قرار دیا ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے یہ کہا ہے: یہ قوی نہیں ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ مروان کا بھائی ہے، ان دونوں کی حدیث کو نوٹ کیا جائے گا لیکن ان دونوں سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ امام ابو احمد حاکم کہتے ہیں: بیت المعمور کے بارے میں اس کی نقل کردہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابوعلیٰ نیشاپوری کہتے ہیں: اس کے معاملے میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے:

فی الساء الدنيا بيت يقال له البيت المعمور حبال الكعبة. وفي الساء الرابعة نهر يقال له الحيوان يدخله جبريل كل يوم، فينغس فيه ثم يخرج فينتفض انتفاضة يخرج منها سبعون الف قطرة، يخلق الله من كل قطرة ملكا يؤمرون ان ياتوا البيت المعمور فيطوفون به، فلا يعودون اليه ابدا، يولى عليهم احدهم يؤمر ان يقف بهم من الساء موقفا يسبحون الله الي يوم القيامة.

”آسمان دنیا پر ایک گھر ہے جس کا نام بیت المعمور ہے، یہ خانہ کعبہ کے عین اوپر ہے اور چوتھے آسمان پر ایک نہر ہے، جس کا نام ”حیوان“ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ اُس میں داخل ہوتے ہیں، اُس میں ڈبکی لگاتے ہیں پھر باہر نکل کر اپنے جسم کو جھاڑتے ہیں تو اُن کے جسم سے ستر ہزار قطرے نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن میں سے ہر ایک قطرے کے ذریعے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اور ان سب فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ بیت المعمور جا کر اُس کا طواف کریں اور پھر انہیں دوبارہ کبھی اُس کے طواف کا موقع نہیں ملتا، اُن میں سے ایک فرشتے کو ان کا نگران مقرر کیا جاتا ہے جو انہیں ساتھ لے کر آسمان میں ایک جگہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ فرشتے قیامت تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔“

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے:

فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد.

”ایک فقیہ، شیطان کے لیے ایک ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔“

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ ابن ابولیلی کا یہ بیان نقل کیا ہے:

رايت عمر بال فسمح ذكره في التراب ثم توضحا ثم التفت الي فقال: هكذا علمنا.

”میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب کرنے کے بعد، مٹی کے ذریعے اپنی شرمگاہ کو صاف کیا اور پھر وضو کر لیا، پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے: ہمیں اسی طرح تعلیم دی گئی ہے۔“

۲۸۰۳- روح بن حاتم بزاز، بغدادی

اس نے ہشیم اور اسماعیل بن عیاش سے، جب کہ اس سے ابن ابودنیا، ابویعلیٰ اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ ابراہیم

بن عبد اللہ نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ کوئی چیز نہیں ہے۔

۲۸۰۴- روح بن صلاح مصری۔

اس کو ابن سیابہ کہا جاتا ہے، ابن عدی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اس کی کنیت ابو حارث ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ ”اشقات“ میں کیا ہے، حاکم کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ اور مامون ہے، اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے:

”رشک دو طرح کے آدمیوں پر کیا جاسکتا ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن (کا علم) عطا کیا ہو اور وہ اُس کے ساتھ مصروف رہے، وہ اُس کے حلال کو حلال قرار دے اور اُس کے حرام کو حرام قرار دے، اور دوسرا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور وہ اُس مال کے ذریعے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر عمل کرے تو (رشک کرنے والا شخص) یہ آرزو کرے کہ وہ اُس کی مانند ہو جائے اور جس شخص میں چار خوبیاں ہوں تو اُسے کوئی نقصان نہ ہوگا خواہ اُس کے پاس دنیا کی اور کوئی بھی چیز نہ ہو: اچھے اخلاق، پاکدامنی، گفتگو کرتے ہوئے سچ بولنا اور امانت کی حفاظت کرنا“۔

روح کا انتقال 233 ہجری میں ہوا۔

۲۸۰۵- (صحیح) روح بن عبادہ (ع) قیسی۔

یہ ”ثقة“ اور مشہور ہے اور اہل بصرہ کے علماء میں سے ”حافظ الحدیث“ ہے، اس نے حسین معلم، ابن عون اور ایک مخلوق سے احادیث روایت کی ہیں، جب کہ اس سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، عبد بن حمید، ابو بکر صاعانی اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔ کدیبی نے ابن مدینی کا یہ قول نقل کیا ہے: میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ روح سے ایک لاکھ سے زیادہ احادیث منقول ہیں، البتہ میں نے اُس سے دس ہزار احادیث نوٹ کی ہیں۔ یحییٰ بن معین اور دیگر حضرات یہ کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے۔ تواریخی نے کسی دلیل کے بغیر اس کے بارے میں کلام کیا ہے، ابن مدینی بیان کرتے ہیں: عبد الرحمن نے روح بن عبادہ کا تذکرہ کیا تو میں نے کہا: آپ ایسا نہ کریں کیونکہ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات لے کر (پھیلا دیں گے) تو انہوں نے کہا: میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، پھر وہ اندر گئے اور انہوں نے ازسرنو وضو کیا کیونکہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ غیبت کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ عبد الرحمن نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ راوی اسناد میں وہم کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ کوئی نقصان دہ بات نہیں ہے۔ یعقوب بن شیبہ نے محمد بن عمر کے حوالے سے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ تواریخی جس نے بیس سے زیادہ جھوٹے مشائخ سے احادیث روایت کی ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں روح کے حوالے سے حدیث روایت نہیں کروں گا، تو یعقوب بن شیبہ نے یہ بات بیان کی: میں نے عفان کو سنا ہے کہ وہ روح بن عبادہ کے معاملے سے راضی نہیں تھے، پھر اُن کے حوالے سے یہ روایت مجھ تک پہنچی کہ انہوں نے روح کو قوی قرار دیا ہے۔ احمد بن فرات کہتے ہیں: بیس آدمیوں نے روح پر تنقید کی ہے لیکن اس کے بارے میں اُن لوگوں کا قول نافذ نہیں ہوگا۔

کتانی نے ابوحاتم کا یہ قول نقل کیا ہے: اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب: آزادی کا بیان اور کتاب ”الکلی“ میں یہ کہا ہے: روح قوی نہیں ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: جی ہاں! عبدالرحمن بن مہدی اس سے زیادہ قوی ہے، لیکن یہ صدوق اور علم حدیث کا ماہر ہے، یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں: روح اُن افراد میں سے ایک تھے جو روایات سن کر حاصل کر لیتے تھے لیکن وہ صاحب مروت شریف اور صدوق تھے اور بہت زیادہ روایات نقل کرنے والے شخص تھے۔ علی بن مدینی کہتے ہیں: روح جب سے جوان ہوئے اُس کے بعد سے مسلسل علم حدیث کی خدمت میں مصروف رہے۔ علی بیان کرتے ہیں: ابن مہدی نے روح پر تنقید کی ہے اور اُنہیں اُن روایات کے حوالے سے منکر قرار دیا ہے جو روایات اُنہوں نے ابن ابوزب کے حوالے سے زہری سے مسائل کے طور پر نقل کی ہیں؛ جب میں معن کے پاس آیا تو اُنہوں نے وہ نکال کر مجھے دکھائیں اور بولے: یہ روایات تمہارے بصری کے پاس ہیں جو اس نے ہمارے ساتھ سنی ہیں تو میں عبدالرحمن کے پاس آیا اور اُنہیں اس بارے میں بتایا تو میرا خیال ہے کہ اُنہوں نے یہ کہا کہ اس نے اُسے میرے لیے حلال قرار دے دیا ہے۔ یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں: میں نے عفان کو سنا کہ وہ روح بن عبادہ کے معاملے سے راضی نہیں تھے، ابو عبیدہ آجری بیان کرتے ہیں: میں نے امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: تواریخی نے روح کی زیادہ سے زیادہ نو سو روایات کو منکر قرار دیا ہے جو اُنہوں نے امام مالک کے حوالے سے سماع کے طور پر روایت کی ہیں۔ روح کا انتقال 205 ہجری میں ہوا۔

۲۸۰۶- روح بن عبدالمکریم

اس نے حماد بن سلمہ سے روایات نقل کی ہیں؛ امام ابوحاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: محدثین نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔

۲۸۰۷- روح بن عبید

محمد بن ربیعہ کلابی نے اس سے احادیث روایت کی ہیں؛ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے۔

۲۸۰۸- روح بن عبدالواحد

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے:

طلب العلم فريضة على كل مسلم.

”علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔“

یہ روایت عقیلی نے محمد بن احمد انطاکی کے حوالے سے اس راوی سے نقل کی ہے اور یہ کہا ہے: اس بارے میں اس کی متابعت نہیں کی

گئی۔

۲۸۰۹- روح بن عطاء بن ابی ميمونه

اس نے اپنے والد اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایات نقل کی ہیں؛ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے؛ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے؛ اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة تسليمه قبالة وجهه.
 ”نبی اکرم ﷺ نماز (کے آخر) میں سامنے کی طرف ایک ہی مرتبہ سلام کرتے تھے۔“
 ابن عدی نے اس کے حوالے سے چند روایات نقل کی ہیں اور یہ کہا ہے: میں اس کی روایات میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

۲۸۱۰- روح بن عیینہ طائی

اس نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

۲۸۱۱- روح (بن عنینہ) اموی

اس نے اپنے والد سے، جب کہ اس سے صرف اس کے بیٹے عبدالکریم نے روایات نقل کی ہیں۔

۲۸۱۲- روح بن غطفیف

یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ نے اسے واہی قرار دیا ہے، امام نسائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے، اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے:

تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدر.

” (اگر جسم یا کپڑے پر) ایک درہم کی مقدار جتنا خون لگا ہو تو نماز کو ڈھرایا جائے گا۔“

اس راوی سے اس روایت کو نقل کرنے میں قاسم بن مالک مزنی منفرد ہے۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت بھی نقل کی ہے:

لا يعاد المريض الا بعد ثلاث.

”بیمار کی عیادت تین دن بعد ہی کی جائے گی۔“

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: روح بن غطفیف کا شمار اہل جزیرہ میں ہوتا ہے۔

۲۸۱۳- روح بن فضل

اس نے حماد بن سلمہ سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ مجہول ہے، امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حدیث کے حوالے سے یہ معروف ہے۔

۲۸۱۴- روح بن مسافر ابو بشر، بصری

یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس کی حدیث کو نوٹ نہیں کیا جائے گا، ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا ہے: یہ ”ثقفہ“ نہیں ہے، اور ایک مرتبہ یہ کہا ہے: یہ ضعیف ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: عبداللہ بن مبارک نے اسے ”متروک“ قرار دیا ہے، جو زبانی کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے، امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کہا ہے۔

روح نے ابواسحاق کے حوالے سے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے:

كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد البياض، كثير الشعر، يضرِب شعرة منكبيه.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت انتہائی سفید تھی اور آپ کے بال بہت زیادہ تھے آپ کے بال کندھوں تک آتے تھے۔“

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ مرفوع روایت نقل کی ہے:

الايان يمان، والحكمة يمانية، وجهال اهل اليمن ارق افئدة والين قلوبا.

”ایمان یمنی ہے، دانائی بھی یمنی ہے اور اہل یمن کے جاہل لوگ بھی سب سے زیادہ نرم دل اور حساس ہوتے ہیں۔“

اس روایت میں لفظ ”جاہل لوگ“ منکر ہے اس کی نقل کردہ مصیبتوں میں سے ایک وہ روایت ہے جو اس نے اپنی سند کے ساتھ

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مرفوع حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

لما اسرى بي ما سمعت شيئا احلى من كلام ربي. فقلت: يا رب، اتخذت ابراهيم خليلا، وكلمت موسى (تكليما) الحديث بطوله.

”جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے اپنے پروردگار کے کلام سے زیادہ عمدہ اور کوئی آواز نہیں سنی میں نے عرض کی: اے

میرے پروردگار! تو نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا۔“ (اس کے بعد طویل حدیث ہے)

۲۸۱۵- روح بن مسیب کلبی بصری

اس نے ثابت اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، ابن عدی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ احادیث محفوظ نہیں ہیں، یحییٰ بن

معین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ کم درجے کا صالح شخص ہے، ابن حبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ راویوں سے موضوع روایات نقل کرتا ہے تو اس

سے روایت کرنا جائز نہیں ہے، اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے:

مهنة احداكن في بيتها تدرِك بها عمل المجاهدين في سبيل الله.

”عورت گھر کے کام کاج کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے عمل (کے اجر و ثواب) تک پہنچ جاتی ہے۔“

(رياح، ريحان)

۲۸۱۶- رباح بن صالح

یہ مجہول ہے۔

۲۸۱۷- رباح بن عمرو قیسی

یہ ایک بُرا آدمی ہے، یہ بات امام ابوداؤد نے بیان کی ہے۔

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: یہ کوفہ کے بدعتی صوفیوں میں سے ایک ہے، اس نے مالک بن دینار سے اور اس

سے روح بن عبدالمؤمن نے روایات نقل کی ہیں، امام ابو زرعة رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے، ابو عبیدہ آجری بیان کرتے ہیں: میں نے امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے: یہ ابو حسیب، حیان جریری اور ان کے ساتھ چوتھی راہبہ یہ زندقہ ہیں۔

۲۸۱۸- ریحان بن سعید (د، س) ناجی

اس نے عباد بن منصور سے روایات نقل کی ہیں، یہ ”صدوق“ ہے، یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ حجت نہیں ہے، ابو عبیدہ کہتے ہیں: میں نے امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ گویا اس سے راضی نہیں تھے، امام نسائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک قول کے مطابق اس کا انتقال 203 ہجری میں ہوا، ایک جماعت نے اس سے روایات نقل کی ہیں، جن میں امام ابوبکر بن ابوشیبہ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔

۲۸۱۹- ریحان بن یزید (د، ت).

اس نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے، اور اس سے سعد بن ابراہیم نے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے، جہاں تک یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو انہوں نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، اس کی نقل کردہ حدیث یہ ہے:

لا تحل الصدقة لغني ولا لذی مرة سوی.

”خوشحال شخص اور کام کرنے کی صلاحیت رکھنے والے صحت مند شخص کیلئے صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔“

حرف الزای ﴿﴾

(زاذان)

۲۸۲۰- (صح) زاذان ابو عمر (م، عمو) کندی مولا ہم کوفی

ایک قول کے مطابق یہ ”جابیہ“ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خطبے میں شریک ہوئے تھے باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس نے حضرت عمرؓ حضرت علیؓ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور متعدد افراد سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے عمرو بن مرہؓ محمد بن جوادہ اور ایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں شعبہ بیان کرتے ہیں: میں نے حکم سے دریافت کیا: کیا وجہ ہے کہ آپ نے زاذان سے استفادہ نہیں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا: وہ بہت زیادہ کلام کرتے تھے۔ یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ”ثقفہ“ ہیں، ابن عدی نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب ”الکامل“ میں کیا ہے اور یہ بات کہی ہے: اس کی نقل کردہ احادیث میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شعبہ بیان کرتے ہیں: میں نے سلمہ بن کہیل سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے: ابو یحییٰ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ابو احمد حاکم کہتے ہیں: یہ محدثین کے نزدیک متین نہیں ہے ابن جوادہ بیان کرتے ہیں: زاذان کھر دراکپڑا فروخت کرتا تھا اور جب کوئی شخص اس کے پاس آتا تو یہ اسے دونوں کناروں میں سے بڑا حصہ دکھاتا تھا اور اس کے ساتھ ایک ہی بولی طے کرتا تھا پھر ابن عدی نے یہ بات بیان کی ہے: زاذان نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کی تھی۔

۲۸۲۱- زاذان، ابو یحییٰ (د، ت، ق) القتات.

ایک قول کے مطابق اس کا نام عبدالرحمن اور ایک قول کے مطابق یزید ہے اس کا ذکر کنیت سے متعلق باب میں آئے گا۔

(زافر)

۲۸۲۲- زافر بن سلیمان (ت، ق) قوہستانی.

اس نے ”رے“ (تہران) میں رہائش اختیار کی تھی پھر یہ بغداد منتقل ہو گیا اس نے لیث بن ابوسلیم ابن جریج اور ایک گروہ سے روایات نقل کی ہیں جب کہ اس سے یحییٰ بن معین ابن عرفہ اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اور یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ نے اسے ”ثقفہ“ قرار دیا ہے یہ قوہیہ کپڑے بغداد لایا کرتا تھا امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس سے مرسل روایات منقول ہیں

اور یہ وہم کا شکار ہوتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”یہ ثقہ“ اور صالح ہے، ابن عدی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ زیادہ تر روایات کی متابعت نہیں کی گئی، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے: یہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا تھا اور بہت زیادہ وہم کا شکار ہوتا تھا، اگرچہ یہ سچا تھا، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

لما احتلمت ائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته، فقال لی: لا تدخل علی النساء. قال: فما اتی علی یوم کان اشد منه.

”جب مجھے احتلام ہوا تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس بارے میں بتایا تو آپ نے مجھ سے فرمایا: اب تم خواتین کے پاس (گھر کے اندر) نہیں جاؤ گے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میرے لیے اُس سے زیادہ تکلیف دہ دن اور کوئی نہیں آیا۔“

یہ روایت ذکر کر کے علاوہ اور کسی نے امام مالک سے نقل نہیں کی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے:

اذا انزل اللہ عاھة صرفت عن عمار المساجد.

”جب اللہ تعالیٰ کوئی آفت نازل کرتا ہے، تو وہ آفت، مساجد کو آباد کرنے والوں سے پھیر دی جاتی ہے۔“

یہ روایت اس راوی سے محمد بن یحییٰ بن ریان نے نقل کی ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں: یہ اتنے پائے کا نہیں ہے، اس سے ایک منکر حدیث منقول ہے جو اس نے امام مالک سے نقل کی ہے، ذکر کیا ساجی بیان کرتے ہیں: یہ بکثرت وہم کا شکار ہوتا ہے۔

(زائل، زاہر)

۲۸۲۳۔ زائل بن زیاد طائی۔

علی بن محمد اسی نے اس سے حکایت نقل کی ہے اور یہ یہوں ہے۔

۲۸۲۴۔ زاہر بن طاہر ابو القاسم شحامی۔

یہ نیشاپور کی مسند ہے، اس کا سماع مستند ہے، لیکن اس میں نماز کے حوالے سے خلل پایا جاتا تھا، اس لیے بہت سے حافظان حدیث نے احتیاط کے پیش نظر اس سے روایت کو ترک کر دیا، جب کہ دیگر حضرات نے سختی اور شدت کی وجہ سے ایسا کیا۔

(زائدہ)

۲۸۲۵۔ زائدہ بن سلیم

اس نے عمران بن عمیر سے روایت نقل کی ہے، یہ مجہول ہے۔

۲۸۲۶- زائدہ

اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت نقل کی ہے، امام ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ حدیث منکر ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس کی حدیث کی متابعت نہیں کی گئی۔ (امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: یہ حضرت عثمان بن عفان کے غلاموں میں سے ایک ہے۔

۲۸۲۷- زائدہ بن ابورقاد (س) ابو معاذ

اس نے زیاد نمیری سے روایات نقل کی ہیں، یہ ضعیف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے، یہ بصری ہے اس سے ایسی روایات منقول ہیں، جو اس نے ثابت اور ایک جماعت سے نقل کی ہیں۔ اس سے محمد بن ابوبکر مکرمی اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے؟ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لام عطية: اذا خففت فاشمى ولا تنهكى، فانه اسنى للوجه، واحظى عند الزوج.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: جب تم ختنہ کرو تو ذرا بلند کرو خوب جھکا کر ختنہ نہ کرو، کیونکہ یہ چہرے کو زیادہ صاف کرتا ہے اور شوہر کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔“

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک کا یہ بیان نقل کیا ہے:

كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل رجب يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان.

”جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت رکھ دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔“

زیاد نامی راوی بھی ضعیف ہے۔

(زبان)

۲۸۲۸- زبان بن سلمان

اس نے ایک مرسل حدیث نقل کی ہے، میرے علم کے مطابق ابن جریج کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایت نقل نہیں کی۔

۲۸۲۹- زبان بن فائد (د، ت، ق).

اس نے سہل بن معاذ کے حوالے سے ان کے والد سے روایت نقل کی ہے، جب کہ اس سے لیث رشدین بن سعد اور ایک جماعت

نے روایات نقل کی ہیں۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی احادیث منکر ہیں، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ صالح ہے، ابن یونس کہتے ہیں: یہ مصر کا سرکاری الہکار بنا تھا اور وہاں کا عادل ترین حکمران تھا، اس کا انتقال 155 ہجری میں ہوا۔

(زبرقان)

۲۸۳۰- زبرقان بن عبداللہ (د) ضمری۔

اس نے اپنے والد کے چچا حضرت عمرو بن اُمیہ ضمری رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے صرف کلیب بن صبح نے روایات نقل کی ہیں۔

۲۸۳۱- زبرقان بن عبداللہ عبدی، ابوالورقاء کوفی

اس نے کعب بن عبداللہ سے، جب کہ اس سے اسرائیل اور سفیان نے روایات نقل کی ہیں، یہ حدیث میں وہم کا شکار ہوتا ہے، عقیلی نے اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی حدیث میں وہم پایا جاتا ہے۔

(زبید)

۲۸۳۲- (صح) زبید بن حارث (ع) یامی،

یہ ”ثقة“ تابعین میں سے ایک ہے، اس میں تھوڑا سا تشبیح پایا جاتا ہے، قطان کہتے ہیں: یہ ثابت ہے، کئی حضرات نے یہ کہا ہے: ”یہ ثقة“ ہے، ابواسحاق جوزجانی نے اپنے عام اسلوب کے مطابق اس جیسے دیگر حضرات کے ساتھ اس کا ذکر یوں کیا ہے: اہل کوفہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے مذہبی نظریات کی تعریف نہیں کی گئی، یہ کوفہ کے محدثین کے سردار ہیں، جیسے ابواسحاق، منصور، زبید الیامی، اعمش اور دیگر حضرات، جو ان کے معاصرین میں سے ہیں، لوگوں نے حدیث بیان کرنے میں ان کی سچائی کی وجہ سے ان سے روایات نوٹ کیں، لیکن جب یہ کسی روایت کو ”مرسل“ کے طور پر نقل کریں، تو لوگوں نے اس بارے میں توقف کیا۔

(زبیر)

۲۸۳۳- (صح) زبیر بن بکار (ق)

یہ امام ہے، صاحب نسب ہیں اور مکہ کا قاضی ہے، ”ثقة“ اور علم کے ماہرین میں سے ایک ہے، اس کے بارے میں احمد بن علی سلیمانی کے اس قول کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے اس کا شمار ان لوگوں میں کیا ہے جو احادیث ایجاد کرتے تھے اور ایک مرتبہ

انہوں نے یہ کہا ہے: یہ منکر الحدیث ہے۔

۲۸۳۲- زبیر بن جنادہ (ت): بحری کوفی۔

اس نے ابن بریدہ اور عطاء سے، جب کہ اس سے حرمی بن عمارہ اور ابوتیملہ نے روایات نقل کی ہیں، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ ”الثقات“ میں کیا ہے، اور اس شخص نے غلطی کی، جس نے یہ کہا: اس میں مجہول ہونا پایا جاتا ہے، اگر ابن جوزی نے اس کا تذکرہ نہ کیا ہوتا تو میں بھی اس کا ذکر نہ کرتا۔ ابو حاتم کہتے ہیں: یہ بزرگ ہے لیکن مشہور نہیں ہے۔

۲۸۳۵- زبیر بن حبیب بن ثابت بن عبد اللہ بن زبیر اسدی

اس نے بعض تابعین سے روایات نقل کی ہیں، یہ مدنی ہے، اس میں کمزوری پائی جاتی ہے، ابن عدی نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ابن کاسب اور معن نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۲۸۳۶- زبیر بن خربوذ

عثمان غطفانی نے اس سے احادیث روایت کی ہیں، ازدی کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے اور مجہول ہے۔

۲۸۳۷- زبیر بن خریق (د)، جزری

اس نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے محمد بن مسلمہ حرانی نے روایات نقل کی ہیں، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے، اس سے ایک روایت منقول ہے جو اس نے عطاء کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے اور وہ تیمم کے ہمراہ پٹی پر مسح کرنے کے بارے میں ہے۔

۲۸۳۸- زبیر بن زبیر جہضمی

اس نے ایک شخص کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، جب کہ اس سے سعید بن زید نے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

۲۸۳۹- زبیر بن سعید (د، ت، ق) بن سلیمان بن سعید بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب ہاشمی

اس نے مدائن میں رہائش اختیار کی، اس نے عبد اللہ بن علی قاسم اور ایک جماعت سے، جب کہ اس سے عبد اللہ بن مبارک ابو عاصم اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں، عباس دوزی نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ”ثقة“ ہے، انہوں نے ایک اور مقام پر یہ کہا ہے: یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں: یہ ضعیف ہے اور طلاقِ بتہ سے متعلق حدیث کے حوالے سے معروف ہے۔ عبد اللہ بن مبارک نے اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت مرفوع حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

ان الرجل لیتکلم بالکلمة یضحک بها جلساءه ینزل بها ابعده الثریا.

”بعض اوقات آدمی ایک بات کہتا ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوؤں کو ہنساتا ہے، لیکن وہ اس بات کی وجہ سے

(جہنم میں) اُس سے زیادہ گہرائی میں گرے گا جتنا (زمین سے) ثریا ستارہ دُور ہے۔
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس میں کمزوری پائی جاتی ہے، امام ابو زرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ بزرگ ہے۔

۲۸۴۰- زبیر بن سلیم (ق)

یہ ایک بزرگ ہے، جس کی شناخت نہیں ہو سکی، ابن لہیعہ کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایت نقل نہیں کی، اس کی نقل کردہ حدیث شبِ برات میں (اللہ تعالیٰ کے آسمانِ دنیا کی طرف) نزول کے بارے میں ہے۔

۲۸۴۱- زبیر بن شعشاع

اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے گدھے کا گوشت مباح ہونے کے بارے میں روایت نقل کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ روایت درست نہیں ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مستند طور پر یہ حدیث منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر اس (یعنی گدھے کے گوشت) سے منع کر دیا تھا۔ عبدالصمد تنوری نے طلحہ بن حسین کے حوالے سے اس راوی کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔

۲۸۴۲- زبیر بن عبداللہ، ابویحییٰ

اس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے، انہوں نے اس کا تذکرہ ”الذیل“ میں کیا ہے۔

۲۸۴۳- زبیر بن عبداللہ مدنی

اس نے سفیان بن سلیم سے روایات نقل کی ہیں، یہ اتنے پائے کا نہیں ہے، عقدی اور موسیٰ زمعی نے اس سے روایات نقل کی ہیں، ابن عدی نے اس کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ مرفوع حدیث نقل کی ہے:

المدینة ترتبها مؤمنة.

”مدینہ منورہ کی مٹی مؤمن ہے۔“

ابن عدی کہتے ہیں: یہ ابن روہیمہ کے نام سے معروف ہے، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی حدیث کو نوٹ کیا جائے گا۔

۲۸۴۴- زبیر بن عبدالرحمن بن زبیر بن باطا قرظی مدنی

یہ صحابہ کرام کی اولاد میں سے ہے، اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے صرف مسور بن رفاعہ نے روایت نقل کی ہے، اس کے حوالے سے حدیثِ عمیلہ ”موطا“ میں منقول ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اُسے ”مرسل“ کے طور پر نقل کیا اور اپنے والد کا ذکر نہیں کیا۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ ”الثقات“ میں کیا ہے۔

۲۸۴۵- زبیر بن عبید (ق)

اس نے نافع سے روایات نقل کی ہیں؛ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا غلام نہیں (بلکہ کوئی اور) ہے؛ ابو عاصم نبیل کے والد اس سے روایت نقل کرنے میں منفرد ہیں۔

۲۸۴۶- زبیر بن عثمان (د) بن عبداللہ بن سراقہ

یہ صرف اُس حدیث کے حوالے سے منکر ہے؛ جو اس نے محمد بن عبدالرحمن کے حوالے سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

ایاکم والقسامۃ ”تم لوگ قسامت سے بچ کر رہنا“۔

موسیٰ بن یعقوب زمعی اس سے روایت نقل کرنے میں منفرد ہے؛ اور اس میں مجہول ہونا پایا جاتا ہے۔

۲۸۴۷- زبیر بن عروہ بن زبیر بن عوام

ابن ابوحاتم نے اس کا تذکرہ کیا ہے؛ یہ مجہول ہے۔

۲۸۴۸- زبیر بن عدی کوفی (ع)

یہ ”رے“ (تہران) کا قاضی تھا؛ اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سماع کیا ہے۔ یحییٰ بن معین؛ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور عجلی نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے؛ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ ثقہ؛ لیکن ”مقارب الحدیث“ ہے۔

۲۸۴۹- زبیر بن عیسیٰ

یہ حمیدی کبیر کا والد ہے؛ اس نے ہشام بن عروہ سے روایات نقل کی ہیں؛ عقلی بیان کرتے ہیں: اس کی نقل کردہ حدیث محفوظ نہیں ہے۔

۲۸۵۰- زبیر بن منذر (ق) ساعدی

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں؛ اس کی شناخت تقریباً نہیں ہو سکی۔

۲۸۵۱- زبیر بن ولید (د) شامی

اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایات نقل کی ہیں؛ شرح بن عبید اس سے روایت کرنے میں منفرد ہے۔

۲۸۵۲- زبیر، (س)

یہ محمد بن زبیر کا والد ہے؛ اس نے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے نذرماننے کے بارے میں روایت نقل کی ہے؛ اس کا بیٹا اس سے روایت کرنے میں منفرد ہے۔

(زحر، زربی)

۲۸۵۳- زحر بن حصن

اس نے اپنے دادا سے، جب کہ اس سے ابوسلمین طائی نے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔

۲۸۵۴- زربی

یہ اناروں کا سوداگر تھا، سوید بن سعید نے اس سے حدیث روایت کی ہے، ازدی کہتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے۔

۲۸۵۵- زربی ابو عبد اللہ (ت، ق)

اس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس کی حدیث میں غور و فکر کی گنجائش ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس سے منکر روایات منقول ہیں، یہ ہشام بن حسان کی مسجد میں امامت کرتا تھا اور ایک قول کے مطابق وہاں اذان دیتا تھا۔ امام مسلم رحمہ اللہ اور ابوسلمہ تبوزکی نے اس سے روایات نقل کی ہیں، اس سے ایک روایت منقول ہے جو اس نے ابن سیرین کے حوالے سے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

الشاة من دو اب الجنة.

”بکبری جنت کے جانوروں میں سے ایک ہے۔“

(زرارہ)

۲۸۵۶- زرارہ بن اعین کوفی،

یہ حمران کا بھائی ہے اور رافضی ہے، عقیلی نے کتاب ”الضعفاء“ میں اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

یا علی، لا یغسلنی احد غیرک.

”اے علی! تمہارے علاوہ کوئی اور مجھے غسل نہ دے۔“

عقیلی نے اپنی سند کے ساتھ ابن سہاک کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں حج کے لیے گیا تو قادسیہ کے مقام پر میری ملاقات زرارہ بن اعین سے ہوئی، وہ بولے: مجھے آپ سے ایک اہم کام ہے، میں نے دریافت کیا: وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا: جب آپ کی ملاقات امام جعفر صادق سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام پیش کیجئے گا اور ان سے یہ پوچھئے گا کہ وہ مجھے بتائیں کہ میں جہنمی ہوں یا جنتی ہوں؟ میں نے ان کی اس بات پر اعتراض کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا: وہ یہ بات جانتے ہیں، اور وہ مسلسل میرے سامنے اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ میں

نے اُن کی بات کو تسلیم کر لیا؛ جب میری ملاقات امام جعفر صادق سے ہوئی اور میں نے اُن سے اس بارے میں ذکر کیا تو اُنہوں نے مجھے جواب دیا: وہ جہنمی ہے۔ امام جعفر صادق کے اس جواب پر مجھے کچھ الجھن ہوئی، میں نے دریافت کیا: آپ کو کیسے پتا چلا؟ اُنہوں نے فرمایا: جو شخص میرے بارے میں اس بات کے علم کا دعویٰ دے، وہ جہنمی ہوگا۔ جب میں واپس آیا اور زرارہ کی مجھ سے ملاقات ہوئی، تو میں نے اُنہیں بتایا کہ امام جعفر صادق نے مجھے یہ جواب دیا تھا کہ وہ جہنمی ہے تو زرارہ نے کہا: اُنہوں نے تمہیں گھما بھرا کر جواب دیا ہے میں نے دریافت کیا: گھما کر جواب دینے سے مراد کیا ہے؟ تو زرارہ نے کہا: اُنہوں نے تمہارے ساتھ ”تقیہ“ کیا ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: زرارہ نے تھوڑی روایات نقل کی ہیں، ابن ابوحاتم نے اس کے حالات میں صرف یہی بات بیان کی ہے کہ اس نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایات نقل کی ہیں اور سفیان ثوری نے یہ کہا ہے: اس نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا بھی نہیں ہے۔

۲۸۵۷- زرارہ بن ابوحلال عتکی۔

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، جب کہ اس سے روح بن عبادہ نے روایات نقل کی ہیں، اور (اس کی حالت) مستور ہے۔

۲۸۵۸- زرارہ

اس نے اعمال کے فضائل کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے، اگر تو یہ زرارہ بن ابی اوفی نہیں ہے، تو پھر یہ معروف نہیں ہے۔

۲۸۵۹- زرارہ (س)

اس نے قتادہ سے روایت نقل کی ہے، اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔

(زرزور)

۲۸۶۰- زرزور مخزومی

اس نے ابن عیینہ سے حکایت نقل کی ہے، اس کا پتا نہیں چل سکا کہ یہ کون ہے؟

۲۸۶۱- زرزور

یہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی اولاد کا غلام ہے، ابن عیینہ نے اس سے روایت نقل کی ہے اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقیہ“ قرار دیا ہے۔

(زرعہ)

۲۸۶۲- زرعه بن ابراہیم

اس نے عطاء سے روایت نقل کی ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے۔

۲۸۶۳- زرعه بن عبداللہ

یہ بقیہ کے مشائخ میں سے ایک ہے، ازدی بیان کرتے ہیں: یہ مجہول ہے۔

۲۸۶۴- زرعه بن عبدالرحمن زبیدی

یہ بقیہ کا استاد ہے اور ”متروک“ ہے اور (اس کی نقل کردہ) روایت جھوٹی ہے۔

۲۸۶۵- زرعه بن عبدالرحمن

یہ معمر تیمی کا غلام ہے، اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔

(زریق)

۲۸۶۶- زریق بن محمد کوفی

اس نے حماد بن زید سے روایات نقل کی ہیں، امیر بن ماکولانے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

(زفر)

۲۸۶۷- زفر بن اوس (س) بن حدشان

یہ مالک بن اوس کا بھائی ہے، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایت نقل نہیں کی۔

۲۸۶۸- زفر بن قیس ہمدانی

ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے، نباتی نے اسی طرح نقل کیا ہے۔

۲۸۶۹- زفر بن محمد فہری مدنی

عثمان بن عبدالرحمن حرانی نے اس سے حدیث روایت کی ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی حدیث کونوٹ کیا جائے گا۔
(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: اس میں مجہول ہونا پایا جاتا ہے۔)

۲۸۷۰- زفر بن ہذیل عنبری (امام زفر رضی اللہ عنہ)

یہ فقہاء اور عبادت گزاروں میں سے ایک ہیں، یہ صدوق ہیں، یحییٰ بن معین اور دیگر کئی حضرات نے انہیں ”ثقة“ قرار دیا ہے، ابن سعد کہتے ہیں: یہ حدیث میں کوئی چیز نہیں تھے۔ (امام ذہبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: ان کا انتقال 158 ہجری میں 48 برس کی عمر میں ہوا۔)

۲۸۷۱- زفر بن وشمیہ (د) بن مالک بن اوس بن حدثان نصری

یہ اہل شام میں سے ہیں، انہوں نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مسجد میں شعر سنانے اور حدود قائم کرنے کی ممانعت سے متعلق حدیث روایت کی ہے، عبدالحق نے اسے یعنی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، ابن قطان بیان کرتے ہیں: اس حدیث کی علت یہ ہے کہ زفر نامی راوی کی حالت مجہول ہے، محمد بن عبد اللہ شعیشی اس سے روایت کرنے میں منفر د ہے۔
(امام ذہبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: یحییٰ بن معین اور دحیم نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔)

(زکار، زکریا)

۲۸۷۲- زکار بن علی

اس سے اس کے بیٹے ربیعہ نے روایت نقل کی ہے، یہ مجہول ہے۔

۲۸۷۳- (صحیح) زکریا بن اسحاق (ع) مکی

یہ عمرو کا شاگرد ہے اور ثقہ، حجت اور مشہور ہے۔ یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ قدریہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ثقہ ہے۔

۲۸۷۴- زکریا بن ایوب

شبابہ نے ہمیں اس کے حوالے سے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے، احمد بن علی خراز نے اس کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

من تطیر رجع کافرا

”جو شخص فال نکالے وہ کافر ہو کر واپس آتا ہے“

۱۔ امام ذہبی رضی اللہ عنہ نے اپنی مشہور تصنیف ”سیر اعلام النبلاء“ میں امام زفر رضی اللہ عنہ کے تفصیلی حالات ذکر کیے ہیں اور آغاز میں انہیں فقیہ، مجتہد اور عالم ربانی قرار دیا ہے اور یہ بات بیان کی ہے: ان کی پیدائش 110 ہجری میں ہوئی اور انہوں نے امام ابوحنیفہ کے علاوہ اعمش، اسماعیل بن ابی خالد، محمد بن اسحاق، حجاج بن ارطاة اور ان کے طبقے کے افراد سے روایات نقل کی ہیں۔ امام ذہبی رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی ہے: یہ فقہ کے سمندر تھے اور اپنے وقت کے دانشور ترین شخص تھے، انہوں نے امام ابوحنیفہ سے علم فقہ حاصل کیا اور ان کا شمار ان کے اکابر تلامذہ میں ہوتا ہے، یہ ان افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے علم اور عمل کو جمع کیا اور یہ حدیث کے درایتی پہلو پر زیادہ توجہ دیتے تھے اور متقن تھے۔ مترجم

۲۸۷۵- زکریا بن بدر

ابن ابو حاتم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، یہ مجہول ہے۔

۲۸۷۶- زکریا بن حکیم حطلی کوفی ابو یحییٰ

اس نے حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، علی بن مدینی کہتے ہیں: یہ ہلاکت کا شکار ہونے والا ہے، یہ یحییٰ بن حکیم کا بیٹا ہے۔ عثمان بن سعید کہتے ہیں: میں نے یحییٰ بن سعید سے زکریا بن یحییٰ کوفی کی، شععی کے حوالے سے نقل کردہ روایات کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے کہا: وہ کوئی چیز نہیں ہے۔

ابن عدی نے اسی طرح ذکر کیا ہے، پھر انہوں نے عباس دوری کے حوالے سے یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: زکریا بن حکیم جسے

”حطلی“ کہا جاتا ہے، اُسے ”بدی“ بھی کہا جاتا ہے، اُس کی نقل کردہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

ابو علی نے ان کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا ہے: زکریا بن حکیم ”ثقة“ نہیں ہے۔

ابن دورق نے اُن کے حوالے سے جو روایت نقل کی ہے، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے۔

امام ابن حبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: زکریا بن حکیم حطلی ”بدی“، جسے ”بدن“ بھی کہا گیا ہے، اس نے مثبت راویوں کے حوالے سے ایسی

روایات نقل کی ہیں، جو اُن سے منقول روایات سے مشابہت نہیں رکھتی ہیں، یہاں تک کہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے معتمد روایات ہیں۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من آذى المسلمين في طرفهم اصابته لعنتهم.

”جو مسلمانوں کو ان کے راستے کے حوالے سے تکلیف دے، ان کی لعنت اس تک پہنچے گی“

امام نسائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ نہیں ہے، امام دارقطنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے

۲۸۷۷- زکریا بن دوید (بن محمد بن اشعث بن قیس) کندی

یہ کذاب ہے۔ اس نے امام مالک، ثوری اور دیگر اکابرین سے سماع کا دعویٰ کیا اور یہ بات بیان کی، اُس کی عمر 130 سال ہے یہ

260 ہجری کے بعد کی بات ہے۔

امام ابن حبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ حمید طویل کے حوالے سے جھوٹی روایات بیان کرتا ہے، اس کی کنیت ابو احمد ہے، یہ شام میں گھومتا

پھرتا رہا اور حدیثیں بیان کرتا رہا، یہ کہتا تھا: اس کی عمر 135 سال ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من داوم على صلاة الضحى كنت انا وهو في الجنة في ذورق من نور في بحر من نور حتى يزور الله.

”جو شخص چاشت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرے گا، میں اور وہ جنت میں، نور کے سمندر میں نور کی چھوٹی کشتی پر ہونگے، یہاں

تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کرے گا“
اسی کی سند کے ساتھ یہ روایت بھی منقول ہے
انتما و ذریعای فی الدنیا و (فی) الآخرة، وانا و انتما نسر ح فی الجنة.
قاله لابی بکر و عمر.. الحدیث.

”تم دونوں دنیا اور آخرت میں میرے وزیر ہو، میں اور تم دونوں (ہم اکٹھے) جنت میں آرام کریں گے“
راوی کہتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرمائی تھی۔

یہ دونوں روایات احمد بن محمد بن موسیٰ بن معدان نے ”حران“ میں ہمیں بیان کی تھیں، زکریا بن دوید کے حوالے سے ایک نسخہ منقول ہے، جسے ہم نے نوٹ کیا، وہ سارے کا سارا جھوٹی روایات پر مشتمل ہے، جنہیں ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔

۲۸۷۸- (صح) زکریا بن ابوزائدہ (ع)

یہ امام شعی کا شاگرد ہے، یہ صدوق اور مشہور حافظ ہے۔

اس سے شعبہ، یحییٰ قطان اور ابو نعیم نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ ہے، اس کی نقل کردہ حدیث بیٹھی (یعنی قابل قبول) ہوتی ہے۔ یہ اسماعیل بن ابوخالد سے کافی قریب ہے۔

یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: یہ صالح ہے۔

ابوزرعہ بیان کرتے ہیں: یہ کم تر درجے کا صالح شخص ہے، اور امام شعی کے حوالے سے روایات نقل کرنے میں بکثرت ”تدلیس“ کرتا ہے۔

امام ابو حاتم رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: یہ ”لین الحدیث“ ہے اور ”تدلیس“ کرتا ہے۔ امام ابوداؤد رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ ہے، لیکن ”تدلیس“ کرتا ہے۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: ابواسحاق کے حوالے سے، زکریا اور اسرائیل کی نقل کردہ روایات کمزور ہوتی ہیں، ان دونوں نے ابواسحاق سے آخری عمر میں سماع کیا تھا۔

یہ روایت بیان کی گئی ہے: اس کا انتقال 149 ہجری میں ہو۔

۲۸۷۹- زکریا بن زید مدنی

یہ واقدی کا استاد ہے، یہ مجہول ہے۔

۲۸۸۰- زکریا بن صہیب .

اس نے ابوصالح سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

۲۸۸۱- زکریا بن صمصامہ

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ زر (بن حیش) کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے:
 قرأت القرآن کله علی علی، فلما بلغت والذین آمنوا وعلوا الصالحات فی روضات الجنات بکی
 حتی ارتفع نحبیه، ثم رفع راسه الی السماء، ثم قال: یا زر، امن علی دعائی.
 ثم قال: اللهم انی اسالك اخبات المحبتین، واخلاص الموقنین، ومرافقة الابرار، واستحقاق حقائق
 الایمان.. الحدیث بطولہ. ثم قال: یا زر، اذا ختمت فادع بهذا، فان حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم
 امرنی ان ادعو بہن عند ختم القرآن.

میں نے پورا قرآن حضرت علیؑ کے سامنے تلاوت کیا، جب میں اس آیت پر پہنچا:
 ”وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت کے باغات میں ہونگے“
 تو حضرت علیؑ نے لگ پڑے یہاں تک کہ ان کی ہچکیوں کی آواز آنے لگی، پھر انہوں نے اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف
 دیکھا اور بولے: اے زر! میری دعا پر آمین کہو، پھر انہوں نے یہ دعا کی: اے اللہ میں تجھ سے عاجزی کرنے والوں کی عاجزی
 کا یقین رکھنے والوں کے اخلاص کا، نیک لوگوں کے ساتھ کا، اور ایمان کے حقائق کا حقدار ہونے کا سوال کرتا ہوں“
 اس کے بعد راوی نے طویل روایت نقل کی ہے، جس میں آگے چل کر یہ الفاظ ہیں: حضرت علیؑ نے فرمایا: اے زر! جب
 تم قرآن ختم کرو، تو یہ دعا مانگو، کیونکہ میرے محبوب (نبی اکرم ﷺ) نے مجھے یہ حکم دیا تھا، کہ جب میں قرآن ختم کروں، تو
 ان کلمات کے ذریعے دعا مانگا کروں۔
 یہ روایت حمادی نے نقل کی ہے

۲۸۸۲- زکریا بن عبداللہ بن یزید صہبانی

اس نے یحییٰ حمادی سے روایات نقل کی ہیں، ازدی کہتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے۔

۲۸۸۳- زکریا بن عبداللہ

یہ شیخ ہے۔ اس نے ابوعلیٰ حنفی سے روایات نقل کی ہیں۔
 یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔

۲۸۸۴- زکریا بن عبدالرحمن برجمی

ازدی نے اسے ”دین“ قرار دیا ہے

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہؓ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:
 الصلاة علی نور علی الصراط. ومن صلی علی یوم الجمعة ثمانین مرة غفرت له ذنوب ثمانین

عاماً.

”مجھ پر درود بھیجا پل صراط پر نور ہوگا اور جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود بھیجے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے“

۲۸۸۵- زکریا بن ابو عبیدہ

اس نے بہز بن حکیم سے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی ہے۔ عقیلی نے اسے ”لین“ قرار دیا ہے، انہوں نے اس راوی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ بہز کے دادا کے حوالے سے، ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

لا یرحمہ اللہ من لا یرحمہ الناس

”اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا“

یہ روایت دوسری ”قوی“ سند کے ساتھ منقول ہے، جسے احمد بن عبدالمؤمن نے زکریا بن ابو عبیدہ ناجی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

۲۸۸۶- زکریا بن عطیہ

اس نے عثمان بن عطاء خراسانی سے روایات نقل کی ہیں امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے۔

۲۸۸۷- زکریا بن عیسیٰ

اس نے زہری سے روایات نقل کی ہیں اس سے عمر بن ابوبکر مؤملی سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے۔

۲۸۸۸- زکریا بن ابومریم

یہ شیخ ہے، اس نے شمیم سے روایات نقل کی ہیں، نسائی کہتے ہیں: یہ ”قوی“ نہیں ہے۔

عبدالرحمن بن مہدی کہتے ہیں: ہم نے شعبہ کے سامنے اس کا ذکر کیا، تو انہوں نے چیخ ماری۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے:

ان بین شفیر جہنم الی قعرھا سبعین خریفا من صحرة تھوی . فقیل له: تحت ذلك من شيء؟ قال:

نعم غی و آثام

”جہنم کے کنارے سے لے کر اس کے گڑھے (کے آخری حد) تک اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا کوئی پتھر ستر برس تک گرتا رہے (تو

وہاں تک پہنچے گا)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی: کیا اس کے نیچے کوئی چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جی ہاں! غی اور آثام ہیں (یہ دو کنویں ہیں جن سے دوزخیوں کے لیے پیپ نکلتی ہے)

۲۸۸۹- زکریا بن منظور بن عقبہ بن ثعلبہ قرظی

اس نے ہشام بن عروہ اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔
 ایک جماعت نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”یہ ثقہ“ نہیں ہے۔
 امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”یہ متروک“ ہے اور اس کا ذکر دوبارہ آئے گا، کیونکہ منظور نامی شخص اس کا دادا ہے۔

۲۸۹۰- زکریا بن یحییٰ کنذی

اس نے شععی سے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے۔
 (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ شخص نابینا تھا۔

۲۸۹۱- زکریا بن یحییٰ (د، س، ق) بن عمارہ

اس نے ثابت سے روایات نقل کی ہیں، اس کی نقل کردہ حدیث (روایت کرنا) جائز ہے، تاہم اس سے استدلال کرنے کے بارے
 میں اختلاف پایا جاتا ہے، ابن جوزی نے اسی طرح بیان کیا ہے، ویسے یہ شخص سچا ہے۔
 اس نے ابن معین، ابن مدینی، فلاس سے روایات نقل کی ہیں۔
 امام ابوزرعہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو ان کی رائے اس کے بارے میں اچھی تھی، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے
 ہیں: یہ شیخ ہے

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”الشقات“ میں تحریر کرتے ہیں: اس کا انتقال 189 ہجری میں ہوا۔

۲۸۹۲- زکریا بن یحییٰ بدی

اس نے عکرمہ سے روایات نقل کی ہیں، اس کا ذکر (زکریا) بن حکیم (کے حالات کے تحت) گزر چکا ہے۔
 ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”یہ ثقہ“ نہیں ہے، یہ ”زکریا السمسار“ ہے۔

۲۸۹۳- زکریا بن یحییٰ کسائی کوفی

عبداللہ بن احمد کہتے ہیں: میں نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا، تو وہ بولے: یہ ایک برا شخص ہے، جو بری
 روایات بیان کرتا ہے۔ میں نے کہا: مجھے تو اس نے یہ کہا ہے: کہ آپ نے اس کے حوالے سے روایات نوٹ کی ہیں، تو یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ
 نے چہرہ پھیر لیا اور اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر یہ کہا: کہ وہ نہ تو کبھی اُس کے پاس گئے ہیں، اور نہ ہی انہوں نے اس کے حوالے سے روایات
 نوٹ کی ہیں۔

یحییٰ نے یہ بھی بتایا: یہ شخص اس بات کا اہل ہے کہ اس کیلئے کنواں کھودا جائے، اور اسے اس میں ڈال دیا جائے۔
 ابو یعلیٰ موصلی بیان کرتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے:

رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیید علی رضی اللہ عنہ وهو یقول: اللہ ولیی، وانا ولیک، ومعاد من عادک، ومسالم من سالمک.

”میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا، آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، آپ ﷺ نے یہ فرمایا: اللہ تعالیٰ میرا ولی ہے اور میں تمہارا ولی ہوں اور میں اس سے دشمنی رکھوں گا، جو تم سے دشمنی رکھے گا اور اس سے ٹھیک رہوں گا، جو تم سے ٹھیک رہے گا“

(اس روایت کی سند میں) علی بن القاسم کو فی وہ شخص ہے، جس کے حوالے سے زکریا اور دیگر راویوں نے روایات نقل کی ہیں، جب کہ معلیٰ وہ راوی ہے جس نے دس سے کم مرفوع روایات نقل کی ہیں۔

عقیلی بیان کرتے ہیں: زاذان بیان کرتے ہیں

قال علی لابی مسعود: انت البحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین؟ قال: او لیس کذاک؟ قال: اقبل المائدة او بعدها؟ قال: لا ادری.

قال: لا دریت! انه من کذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعمدا فلیتبتوا مقعدہ من النار. ”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ کہا: کیا آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے موزوں پر مسح کیا تھا، انہوں نے دریافت کیا: کیا ایسا نہیں ہے؟ انہوں نے دریافت کیا: کیا یہ سورہ مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے یا بعد کی بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا: مجھے نہیں معلوم، انہوں نے کہا: آپ کو معلوم نہیں ہے، کہ جو شخص نبی اکرم ﷺ کی طرف جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوب کرتا ہے، اسے جہنم میں اپنے ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے تیار رہنا چاہیے“ عقیلی کہتے ہیں: یہ روایت جھوٹی ہے

(امام زہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ بات نبی اکرم ﷺ سے مستند طور پر ثابت ہے کہ آپ نے سورہ مائدہ نازل ہونے کے بعد مسح کیا تھا، جیسا کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

محمد بن عثمان بیان کرتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے:

مکتوب علی باب الجنة محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی.

”جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے: محمد اللہ کے رسول ہیں، میں نے علی کے ذریعے ان کی تائید کی ہے“

حافظ ابو نعیم بیان کرتے ہیں: اس کے بعد انہوں نے حسب سابق روایت نقل کی ہے، تاہم اس کے الفاظ یہ ہیں:

علی باب الجنة: لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ، علی اخو رسول اللہ قبل ان یخلق السموات بالفی عام.

”جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے: اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی، آسمانوں اور زمین کی تخلیق

سے دو ہزار سال پہلے اللہ کے رسول کے بھائی تھے“
 خطیب نے حسن نامی اس راوی کے حالات میں ابو نعیم کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔
 کسائی نے ابن فضیل اور ایک جماعت کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ
 ”متروک“ ہے۔

۲۸۹۴۔ زکریا بن یحییٰ بن اسد مروزی

یہ ابن عیینہ کا شاگرد ہے، ابوالحسین ابن المنادی کہتے ہیں: ابو یحییٰ زکرویہ جس نے خبر واحد نقل کی ہے جو اس نے ہمارے سامنے ربیع
 الثانی 270 ہجری میں سفیان کے حوالے سے نقل کی تھی۔
 امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
 ابوالفتح ازدی کہتے ہیں: اس کا لقب ”جو ذابہ“ ہے۔ انہوں نے اسی طرح بیان کیا، اور اگر ازدی نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب
 ”الضعفاء“ میں نہ کیا ہوتا تو میں بھی اس کا ذکر نہ کرتا۔ پھر انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی بلکہ یہ کہا ہے: اس نے یہ بات
 بیان کی ہے کہ اس نے سفیان بن عیینہ سے سماع کیا ہے۔

۲۸۹۵۔ زکریا بن یحییٰ مصری، ابو یحییٰ الوقار۔

اس نے ابن وہب اور اس کے بعد کے افراد کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔
 ابن عدی کہتے ہیں: یہ احادیث ایجاد کرتا تھا، صالح جزرہ نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے
 صالح کہتے ہیں: زکریا الوقار نے ہمیں حدیث بیان کی جو بڑے کذابوں میں سے ایک ہے۔
 ابن یونس کہتے ہیں: یہ فقیہ تھا۔ اس کا ایک حلقہ تھا، یہ 80 برس تک زندہ رہا۔
 یہ بات بھی بیان کی گئی ہے: یہ صالح، عبادت گزار اور فقیہ تھا، قرآن (کے مخلوق ہونے یا نہ ہونے کی بحث) کے زمانے میں یہ مصر
 چھوڑ کر مغربی (افریقہ) کے شہر طرابلس چلا گیا تھا۔
 ابن یونس اور دیگر حضرات نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔
 عقیلی بیان کرتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے
 طور پر نقل کی ہے:

اذا اسررت بقراءتی فأقرء وامعی، واذا جهرت فلا یقرامعی احد.

”جب میں (نماز کے دوران) پست آواز میں تلاوت کروں، تو تم بھی میرے پیچھے تلاوت کر لیا کرو، اور جب میں (نماز کے
 دوران) بلند آواز میں تلاوت کروں، تو کوئی میرے ساتھ تلاوت نہ کرے“

جب ابوطاہر بن سرح تک یہ روایت پہنچی، تو وہ غصے میں آگئے، انہوں نے بشر بن بکر کی تحریر نکالی، تو یہ روایت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے

حوالے سے یحییٰ بن ابوکثیر کے حوالے سے، یا شاید امام اوزاعی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے (مرسل روایت کے طور پر) منقول تھی یہ شک حلوانی کو ہے۔

حلوانی بیان کرتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے: اس کے بعد انہوں نے حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کی ملاقات سے متعلق روایت ذکر کی۔

حلوانی کہتے ہیں: میں نے ابن وہب کی اصل میں یہ روایت دیکھی ہے، سفیان ثوری کہتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی“

تاہم یہ روایت دوسری سند کے ساتھ مستند طور پر منقول ہے۔

ابن عدی بیان کرتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے:

ان رجلا قال: یا رسول اللہ، وقعت علی اہلی فی رمضان نہارا. قال: فجر ظہرک فلا یفجرن بطنک.

”ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے رمضان میں دن کے وقت (روزے کے دوران) اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لی

ہے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری پشت نے گناہ کیا ہے، لیکن تمہارا پیٹ ہرگز گناہ نہ کرے“

مرادی کے علاوہ سند کے ساتھ بھی یہ روایت منقول ہے اور کہمس بن معمر نامی راوی نے یہ الفاظ نقل کئے ہیں:

إذا اراد اللہ بعبد هو انا انفق مالہ فی الطین.

”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو رسوا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کے مال کو مٹی میں (یعنی تعمیرات میں) خرچ کرواتا ہے“

عباس بصری نامی راوی ”صدوق“ ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے:

كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء، ولواءه ابيض، مكتوب فيه: لا اله الا الله محمد رسول الله.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سیاہ تھا اور چھوٹا جھنڈا سفید تھا، جس میں لا اله الا الله محمد رسول الله لکھا ہوا تھا“۔

ابن عدی کہتے ہیں: میں نے مصر کے مشائخ کو دیکھا کہ وہ عبادت گزار، اجتہاد اور فضیلت کے حوالے سے ابو یحییٰ (نامی اس راوی) کی تعریف کرتے تھے۔ اس کے حوالے سے بہت سی روایات منقول ہیں جن میں سے بعض مستقیم بھی ہیں۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس کا انتقال 254 ہجری میں ہوا۔

۲۸۹۶- زکریا بن یحییٰ (ق) بن منظور بن ثعلبہ بن ابوما لک قرظی مدنی.

ابن عدی نے اس کا یہی نام بیان کیا ہے۔

عباس دوری، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے، اور کئی مرتبہ انہوں نے یہ کہا ہے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے

انہوں نے یہ بات بھی بیان کی ہے لوگ کہتے ہیں: یہ طفیلی ہے جب کہ معاویہ بن صالح نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ”ثقة“ نہیں ہے احمد بن محمد بن حرز اور ابو داؤد نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ضعیف ہے۔ امام ابو زرعة رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ وہابی الحدیث ہے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے۔ خطیب بغدادی کہتے ہیں: یہ زکریا بن منظور بن عقبہ بن ثعلبہ بن ابوما لک قرظی ابو یحییٰ ہے۔

آگے چل کر انہوں نے یہ کہا: اس نے محمد حسن بن زبالہ، عتیق زبیری، ابراہیم بن منذر، حمیدی اور اسحاق بن ابواسرائیل سے روایات نقل کی ہیں اس نے بغداد میں رہائش اختیار کی تھی۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے:

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا یغنی حذر من قدر، و الدعاء ینفع مما نزل، و ما لم ینزل
”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: بچاؤ تقدیر سے نہیں بچا سکتا اور دعا اس چیز کے بارے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہوگئی ہے اور اس چیز کے بارے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل نہیں ہوئی۔“

عباس دوری، یحییٰ کا یہ قول نقل کرتے ہیں: زکریا بن منظور قاضی کے عہدے پر فائز ہوا تو اس نے حماد بربری کے خلاف فیصلہ دے دیا اسی وجہ سے ہارون اسے ”رقہ“ لے آیا یہ راوی ثقة نہیں ہے۔

ایک مرتبہ ان سے دریافت کیا گیا: تو انہوں نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو میں نے یحییٰ سے کہا: میں نے پہلے ایک مرتبہ آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو اس وقت تو آپ نے کسی اچھی رائے کا اظہار نہیں کیا تھا تو یحییٰ نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے لوگ یہ کہتے ہیں: یہ طفیلی ہے (شاید اس سے مراد مفت خورہ یا حکومتی وظیفہ خوار ہے)۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: زکریا بن منظور ”مکر الحدیث“ ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔ اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

القدریة مجوس هذه الامة الحدیث

”قدریہ (فرقے کے لوگ) اس امت کے مجوسی ہیں“

اس کی نقل کردہ منکر روایات میں سے ایک روایت وہ ہے جو اس نے اپنی سند کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کی ہے:

یا عائشة، اتقی النار ولو بشق تمرة فانها تسد من الجائع ما تسد من الشبعان.

”اے عائشہ! جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، خواہ کھجور کے ایک (آدھے) ٹکڑے کے ذریعے کرو، کیونکہ یہ بھوکے آدمی کو بھی

سہارا دے دیتی ہے جیسا کہ سیراب آدمی کو سہارا دیتی ہے۔“

ابن ماجہ میں اس کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے جو اس نے اپنے دادا محمد بن عقبہ کے حوالے سے سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا سے نقل کی ہے جو تسبیح پڑھنے کے بارے میں ہے۔

۲۸۹۷- ذکر یا بن یحییٰ سراج مقری

240 ہجری کے آس پاس یہ مصر میں رہتا تھا۔

ابن یونس نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے۔

۲۸۹۸- ذکر یا بن یحییٰ (خ)، ابوالسکین الطائی

یہ مشہور شخص ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے، اس نے منکر روایات نقل کی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے اپنی ”تبیح“ میں روایت نقل کی ہے۔

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اور خطیب بغدادی کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ ہے۔

اس نے محاربی اور ابو بکر بن عیاش سے روایات نقل کی ہیں۔

اس کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن ناجیہ اور ابن صاعد نے روایات نقل کی ہیں۔

۲۸۹۹- ذکر یا بن یحییٰ جہلی

اس کا ذکر (ذکر یا) بن حکیم (کے نام کے تحت) گزر چکا ہے۔

۲۹۰۰- ذکر یا بن یحییٰ بن داؤد الحافظ، ابویحییٰ ساجی بصری

یہ مثبت راویوں میں سے ایک ہے، مجھے اس کے بارے میں کسی بھی جرح کا علم نہیں ہے۔

ابوالحسن بن القطان کہتے ہیں: حدیث کے بارے میں اس راوی سے متعلق اختلاف کیا گیا ہے، کچھ لوگوں نے اسے ”ثقة“ قرار دیا

ہے اور دیگر نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

اس کا انتقال 307 ہجری میں ہوا۔

۲۹۰۱- ذکر یا بن یحییٰ بن الخطاب

اس نے ابو ہلال کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، اس کی نقل کردہ روایات میں اس کی متابعت نہیں کی گئی، یہ بات عقلی نے بیان

کی ہے، اس نے ایک حدیث ذکر کی ہے، جس کا متن عمدہ ہے۔

۲۹۰۲- ذکر یا بن یحییٰ بن حارث

اس نے امام مالک کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، یہ خراسان کا رہنے والا ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:
یا علی . اتق الدنيا ، فمن كثر نشبه كثر شغله ، ومن كثر شغله اشتد حرصه ، ومن اشتد حرصه كثر
همه . ومن كثر همه نسي .

”اے علی! دنیا سے بچ کے رہنا، کیونکہ جس شخص کا مال زیادہ ہوگا، اس کی مصروفیات بھی زیادہ ہوں گی اور جس کی مصروفیات زیادہ ہوں گی اس کی حرص بھی زیادہ ہوگی اور جس کی حرص زیادہ ہوگی، اس کی پریشانیاں بھی زیادہ ہوں گی اور جس کی پریشانیاں زیادہ ہوگی، وہ (آخرت کو) بھول جائے گا“
یہ روایت جھوٹی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس کا احتمال نہیں رکھتے۔

۲۹۰۳۔ زکریا بن یحییٰ الکنانی، ابویحییٰ.

اس نے امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے نافع کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے، لیکن اس تک جانے والی اس روایت کی سند بھی تاریکیوں پر مشتمل ہے، خطیب بغدادی نے امام مالک رحمہ اللہ کے شاگردوں میں اس کا ذکر کرتے ہوئے وہ روایت نقل کی ہے، جس کا متن یہ ہے:

لا يزال الخير في انتقاص ، والشر في زيادة .

”بھلائی ہمیشہ کمی میں رہے گی اور برائی زیادتی میں رہے گی“

(امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: شاید یہ دونوں راوی ایک ہی ہیں۔

۲۹۰۴۔ زکریا بن یحییٰ بن اسد مروزی

یہ ابن عمینہ کا شاگرد ہے۔ یہ ”صدوق“ ہے

ابوالحسین بن منادی کہتے ہیں: ابویحییٰ زکریا بن اسد مروزی نے سفیان کے حوالے سے صرف ایک روایت ہمارے سامنے بیان کی تھی، اس کا انتقال 270 ہجری میں ربیع الثانی کے مہینے میں ہوا، امام دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے ”جوزاہ“ بھی کہا جاتا ہے، ابوالفتح ازدی کہتے ہیں: اس نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس نے سفیان بن عمینہ سے سماع کیا ہے، جب وہ بغداد میں تھے۔
(امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: میں نے اس کا تذکرہ صرف اس لیے کیا ہے، کیونکہ ازدی نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔

۲۹۰۵۔ زکریا بن یحییٰ الضمیری.

اس کی شناخت پتا نہیں چل سکی ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من بات وفي بطنه جزرة بات آمنة من القولنج

”جو شخص ایسی حالت میں رات بسر کرے کہ اس کے پیٹ میں اونٹ کا گوشت ہو، وہ قونج سے محفوظ حالت میں رات بسر کرتا

ہے۔

اس کے حوالے سے یہ روایت نقل کرنے میں شعیب بن احمد منفرد ہے، میں اس سے بھی واقف نہیں ہوں۔

۲۹۰۶- زکریا۔

اس نے عطاء سے روایات نقل کی ہیں، منصور نے اس سے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے۔

(زمعہ)

۲۹۰۷- زمعہ بن صالح (ت، ق)۔

اس نے عمرو بن دینار اور طاؤس کے بیٹے کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، اس کا اسم منسوب یمانی ہے اس نے مکہ میں رہائش اختیار کی تھی، ابن مہدی، عبدالرزاق اور ایک مخلوق نے اس سے احادیث روایت کی ہیں۔

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے جو روایت نقل کی ہے، اس کی سند میں اس کے ساتھ دوسرے راوی کا بھی ذکر ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ بن معین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، یحییٰ بن معین نے ایک مرتبہ یہ کہا ہے: یہ کم درجے کا صالح الحدیث ہے امام ابو زراعہ کہتے ہیں: یہ لین اور وہی الحدیث ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ احادیث میں اس کے برخلاف بھی نقل کیا گیا ہے، آخری زمانے میں ابن مہدی نے اسے ”متروک“ قرار دے دیا تھا۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے یہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے اس نے زہری سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے ابوداؤد طیالسی نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

انا صنعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتبا لم یشر کنی فیہ احد ونقشه: محمد رسول اللہ.
”میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگوٹھی تیار کی تھی اس میں کوئی میرے ساتھ شریک نہیں ہوا تھا، اس پر محمد رسول اللہ نقش تھا۔“

(زمیل)

۲۹۰۸- زمیل (د، س)۔

اس نے اپنے آقا عروہ بن زبیر سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے یزید بن الہاد نے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کے ذریعے حجت قائم نہیں ہو سکتی، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قوی قرار دیا ہے۔

اس کی نقل کردہ منکر روایات میں سے ایک وہ روایت ہے جو اس نے اپنی سند کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے نقل کی ہے وہ بیان کرتی ہیں۔

اهدی لی ولحفصة طعام، وکنا صائمتین فافطرنا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: صوما یوما مکانہ.

”مجھے اور حفصہ کو کھانا تنگے کے طور پر دیا گیا، ہم دونوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، ہم نے روزہ ترک کر دیا، تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم اس کی جگہ ایک دن روزہ رکھ لینا۔“

لیث بن سعد نے اپنی سند کے ساتھ عروہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔

”تورات میں بات تحریر ہے کہ جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ ملعون ہے“

(ز نفل، زہدم)

۲۹۰۹۔ ز نفل عربی (ت) مکی۔

اس نے ابن ابوملیکہ سے روایات نقل کی ہیں، ابن معین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے۔ امام دارقطنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، امام نسائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ نہیں ہے، حمیدی کہتے ہیں: بچے اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے

اس سے ایک روایت منقول ہے جو اس نے اپنی سند کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے:

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد امر اقال: اللہم خر لی واختر لی.

”نبی اکرم ﷺ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ! میرے لیے بہتری کر دے اور

میرے لیے (بہتر کام کو) اختیار کر دے (یا میرے لیے اس میں بھلائی رکھ دے)“

یہ روایت اس سے ابراہیم بن وزیر نے اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے یہ ابن عبد اللہ ہے اور ایک قول کے مطابق ابن شداد ہے۔

۲۹۱۰۔ زہدم بن حارث طائی۔

اس نے بہز بن حکیم کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی ہے اس سے منقول روایت بیری کاٹنے

والے پر لعنت کے بارے میں ہے۔

۲۹۱۱۔ زہدم بن حارث مکی۔

اس نے حفص بن غیاث کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔

عقیلی کہتے ہیں: اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت مرفوع حدیث کے طور پر نقل کی

ہے۔

اتانی جبرائیل فقال: یا محمد، اتینک بکلمات لم آت بهن احدا قبلك، قل: یا من اظهر الجمیل،
وستر القبیح، ولم یاخذ بالجریرة... الحدیث.

”جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور بولے: اے حضرت محمد ﷺ! میں آپ ﷺ کے پاس ایسے کلمات لے کر آیا ہوں، آپ سے پہلے میں یہ کلمات کسی کے پاس لے کے نہیں آیا، آپ ﷺ یہ پڑھا کریں: اے وہ ذات! جس نے خوبصورتی کو ظاہر کیا اور قبیح چیز کو پردے میں رکھا اور گناہ پر (فورا) پکڑ نہیں کرتا۔“

(زہرہ، زہیر)

۲۹۱۲- زہرہ (س)

اس نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، امام دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ مجہول ہے
(امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: اس کی نقل کردہ روایت اس بارے میں ہے:
ان الصلاة الوسطی هی الظہر ”نماز وسطیٰ سے مراد ظہر کی نماز ہے“
یہ روایت ”موقوف“ ہے۔

۲۹۱۳- زہیر بن اسحاق

اس نے یونس بن عبید سے روایات نقل کی ہیں، اس میں ضعف پایا جاتا ہے، یحییٰ بن معین کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے، امام نسائی رحمہ اللہ
کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ ابن منکدر کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، جو بہت زیادہ منکر نہیں ہے، ابن عدی کہتے ہیں: میرا یہ
خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ابن جوزی کہتے ہیں: یہ ابواسحاق سلولی بصری ہے۔

۲۹۱۴- زہیر بن ثابت.

ابن حزم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

(امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: جہاں تک (درج ذیل راوی کا تعلق ہے، تو وہ یہ ہے)

۲۹۱۵- زہیر بن ابوثابت

اس نے ثعنی سے روایات نقل کی ہیں، یہ ثقہ ہے۔

۲۹۱۶- زہیر بن سالم (د، ق).

اس نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، امام دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ حمص کا رہنے والا ہے اور منکر ہے، اس نے

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے سماع نہیں کیا ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: ابوہب کلاعی نے اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔

۲۹۱۷- (صح) زہیر بن عباد روا سی

اس نے ابوبکر بن شعیب سے روایات نقل کی ہیں اور اس سے حسین بن حمید عسکری نے روایات نقل کی ہیں۔
امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ مجہول ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ وکیع بن جراح کا چچا زاد ہے، یہ کوفہ کا رہنے والا تھا، اس نے مصر میں وہائش اختیار کی تھی، اس نے امام مالک، حفص بن میسرہ اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے حسن بن سفیان، حسن بن الفرغ غزی، ابوہاتم رازی نے روایات نقل کی ہیں، دیگر حضرات نے اسے ”ثقفہ“ قرار دیا ہے۔
اس کا انتقال 238 ہجری میں ہوا۔

۲۹۱۸- زہیر بن عبد اللہ

اس نے ایک صحابی سے یہ روایت نقل کی ہے:

”جو شخص بغیر منڈی والی چھت پر سوائے اور اس سے گر جائے اور اس سے ہو جائے تو ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو شخص طغیانی کے وقت سمندر میں سفر کرے۔“

ابو عمران جوینی نے اس سے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی ہے۔
یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ”الادب المفرد“ میں اس کے حوالے سے روایت نقل کی ہے۔

۲۹۱۹- زہیر بن العلاء

اس نے عطاء بن ابویمونہ سے روایات نقل کی ہیں، اس سے ابواشعث احمد بن مقدم نے روایات نقل کی ہیں
ابوہاتم رازی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے: اس کی نقل کردہ روایات موضوع ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

کثرة العرب قرة عين لي
”عربوں کی کثرت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے“

۲۹۲۰- زہیر بن مالک، ابوالوازع

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں بہت زیادہ غفلت پائی جاتی تھی البتہ اس کی نقل کردہ احادیث صالح ہے۔

۲۹۲۱- زہیر بن محمد تمیمی مروزی

اس نے محمد بن منکدر، صفوان بن سلیم، اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں اس سے عبدالرحمن بن مہدی، یحییٰ بن ابوبکر اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے، میمون نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ مقارب الحدیث ہے، مروزی نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: زہیر نامی وہ شخص، جس سے اہل شام نے روایات نقل کی ہیں، وہ دوسرا زہیر ہے، اثرم نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: اہل شام نے، زہیر کے حوالے سے منکر روایات نقل کی ہیں۔

ابن مدینی کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، احمد بن ابو خثیمہ نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عثمان داری نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ثقہ ہے۔

معاویہ بن صالح نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ضعیف ہے۔

ایک مرتبہ انہوں نے کہا: یہ ”قوی“ نہیں ہے، دوسرے مقام پر انہوں نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں۔

عمر بن ابوسلمہ نے اس کے حوالے سے منکر روایات نقل کی ہیں۔

احمد بن عبداللہ عجلی کہتے ہیں: یہ جائز الحدیث ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کا محل صدق ہے، اس کے حافظے میں خرابی پائی جاتی تھی اس کی شام میں بیان کردہ روایات اس کی عراق میں بیان کردہ روایات سے زیادہ منکر ہیں۔

ابن عدی کہتے ہیں: زہیر بن محمد تمیمی غزیری ابومنذر نے مکہ میں سکونت اختیار کی۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”قوی“ نہیں ہے۔

ولید بن مسلم کہتے ہیں: زہیر بن محمد مروزی نے زید بن اسلم کا بیان نقل کیا ہے

رایت ابن عمر یصلی وازدادہ محلولة. وقال: رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ.

”میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، وہ نماز ادا کر رہے تھے اور ان کے ٹخن کھلے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا: میں

نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے،“

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ”العلل“ میں کہتے ہیں: میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے زہیر کی نقل کردہ اس احادیث کے بارے میں

دریافت کیا، تو وہ بولے: میں اس بزرگ سے پرہیز کرتا ہوں، گویا کہ اس کی نقل کردہ احادیث ایجاد کی ہوئی ہوتی ہیں، میرے نزدیک یہ زہیر بن محمد نہیں ہے۔

انہوں نے یہ بھی کہا: امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے کو ضعیف قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں: یہ شیخ، اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ

لوگ اس کا نام تبدیل کر دیں۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”حدیث“ کے طور پر نقل کی ہے:

قرا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها، ثم قال: مالي اراكم سكوتاً!
للجن كانوا احسن منكم رداً، ما قرأت عليهم: " فباي آلاء ربكما تكذبان " من مرة الا قالوا: ولا
بشيء من نعك ربنا نكذب، فلك الحمد.

”نبی اکرم ﷺ نے ہمارے سامنے سورہ الرحمن کی تلاوت کی اور اسے مکمل تلاوت کیا، پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا وجہ ہے کہ میں نے تمہیں خاموش دیکھا ہے جنات نے تم سے زیادہ بہتر رد عمل ظاہر کیا تھا جب میں نے ان کے سامنے اس کی تلاوت کی کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو میں نے جب بھی یہ آیت تلاوت کی تو انہوں نے یہ کہا: اے ہمارے پروردگار! ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی چیز کا انکار نہیں کرتے اور حمد تیرے لیے ہی مخصوص ہے“
ہشام بن عمار، الولید کے حوالے سے یہ روایت نقل کرنے میں منفرد ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: ایک جماعت نے اس کا سرقہ کیا، انہوں نے ولید کے حوالے سے یہ روایت نقل کر دی، ان لوگوں میں سلیمان بن احمد واسطی، علی بن جمیل رقی، عمرو بن مالک بصری، برکہ بن محمد حلبی شامل ہیں۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، لا يرفع لهم الى السماء حسنة: العبد الأبق حتى يرجع، البراة الساخط
عليها زوجها حتى يرضى، السكران حتى يصحو.

”تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرے گا، اور ان کی کوئی اچھائی آسمان کی طرف بلند نہیں ہوگی، ایک مفرور غلام جب تک وہ واپس نہیں آجاتا، ایک وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو، جب تک وہ راضی نہیں ہو جاتا، اور ایک نشے کا شکار شخص جب تک وہ ہوش میں نہیں آتا“۔

ابوداؤد طیالسی بیان کرتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

البرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخال.

”آدمی اپنے ساتھی کے دین پر ہوتا ہے تو ہر شخص کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کا دوست کون ہے“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

الحسن والحسين وختنهما لسبعة ايام.

”امام حسن اور امام حسین کا ختنہ سات دن بعد ہوا تھا“۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة

”جو شخص سیاہ خضاب استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو سیاہ کرے گا۔“

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ روایت موضوع ہے، ابن عبد البر کہتے ہیں: زہیر بن محمد نامی راوی تمام لوگوں کے نزدیک ضعیف ہے (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: جی نہیں! بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں زہیر کا انتقال 162 ہجری میں ہوا تھا۔

۲۹۲۲- زہیر بن محمد الابلیٰ

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ لین اور ضعیف ہے، شایدان کی مراد محمد بن زہیر ہے۔

۲۹۲۳- زہیر بن مرزوق (ق)

اس نے علی بن زید بن جدعان سے روایات نقل کی ہیں، یہ ضعیف ہے۔

یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: علی بن غراب نے اس کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

لا یحل منع الملح والنار والباء

”نمک، آگ اور پانی کا نہ دینا جائز نہیں ہے۔“

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے۔

۲۹۲۴- (صح) زہیر بن معاویہ (ع) ابوخیثمہ جعفی کوفی الحافظ

اس نے زیاد بن علاقہ، سماک، اور ان کے طبقہ کے افراد سے روایات نقل کی ہیں۔

اس سے قطان، ابن مہدی، نفیلی اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

شعیب بن حرب کہتے ہیں: زہیر، شعبہ جسے بیس آدمیوں سے بڑا ”حافظ الحدیث“ ہے ابن عیینہ کہتے ہیں: کوفہ میں اس کے مانند اور کوئی شخص نہیں تھا۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: زہیر نے عمدہ مشائخ کے حوالے سے جو روایات نقل کی ہیں، ان میں یہ ”ثبت“ ہے، البتہ

ابن اسحاق کے حوالے سے اس نے جو روایات نقل کی ہیں، ان میں یہ ”لین“ ہے، کیونکہ اس نے ان سے آخری عمر میں سماع کیا تھا۔

امام ابو زرعمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے، البتہ اس نے ابو اسحاق سے اختلاط کا شکار ہو جانے کے بعد سماع کیا تھا۔

امام نسائی کہتے ہیں: یہ ثقہ اور ثبت ہے، اس کا انتقال رجب کے مہینے میں 173 ہجری میں ہوا،

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس کا ابو اسحاق کے حوالے سے روایت میں کمزور ہونا ابو اسحاق کے حوالے سے

ہے، اس کے حوالے سے نہیں ہے۔

۲۹۲۵- زہیر بن منقذ .

اس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایات نقل کی ہیں یہ مہول ہے۔
اس سے عبداللہ بن میمون نے روایات نقل کی ہیں۔

(زیاد)

۲۹۲۶- زیاد بن ابیہ الامیر

اس کے صحابی ہونے کی شناخت حاصل نہیں ہو سکی اگرچہ یہ ہجرت کے سال پیدا ہوا تھا۔
امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کتاب "الضعفاء" میں کہتے ہیں: اس کے ظاہری احوال پر معصیت غالب تھی اور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، کہ جس شخص کی یہ صورتحال ہو اسے ترک کر دیا جاتا ہے۔
ابن عساکر کہتے ہیں: اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اسلام قبول کیا تھا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عراق کا گورنر بنا تھا۔

اس سے ابن سیرین، عبدالملک بن عمیر اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

امام شعبی بیان کرتے ہیں: زیاد کے پاس ایک شخص کے بارے میں سوال آیا جس کا انتقال ہو گیا تھا اور اس نے پسماندگان میں ایک پھوپھی اور خالہ چھوڑی تھی، اس نے دریافت کیا: کیا آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسی صورت حال میں کیا فیصلہ دیا تھا؟ لوگوں نے جواب دیا: جی نہیں! تو اس نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھوپھی کو بھائی کی جگہ اور خالہ کو بہن کی جگہ قرار دیا تھا انہوں نے پھوپھی کو دو تہائی حصہ دیے تھے اور خالہ کو ایک تہائی حصہ دیا تھا۔

یہ زیاد بن سمیہ ہے، اسے زیاد بن عبید بھی کہا گیا ہے، جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے ساتھ لاحق کیا تو اسے زیاد بن ابوسفیان کہا جانے لگا، امیر معاویہ کہتے تھے: یہ ان کا بھائی ہے۔

۲۹۲۷- زیاد بن اسماعیل (م، ت، ق)۔

اس نے محمد بن عباد بن جعفر سے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔
امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ حدیث کو نوٹ کیا جائے گا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اس سے ابن جریج اور ثوری نے روایات نقل کی ہیں، یہ عمر رسیدہ نہیں ہے۔

۲۹۲۸- زیاد بن امیہ

یہ تابعی ہے، اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی ہے۔

یونس بن ابواسحاق نے اپنے والد کے حوالے سے زیاد بن امیہ سے یہ روایت نقل کی ہے وہ یہ کہتا ہے: جو بھی شخص پچاس سال کا ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد اس کے جسم کے کسی نہ کسی حصے میں کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔

۲۹۲۹- زیاد بن نعم افریقی

اس نے حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں۔

اس کے بیٹے عبدالرحمن کے علاوہ اور کسی نے اس سے حدیث نقل نہیں کی البتہ امام ابن حبان رضی اللہ عنہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

۲۹۳۰- زیاد بن بیان (د، ق)

اس کی نقل کردہ روایت درست نہیں ہے امام بخاری کہتے ہیں: اس کی سند میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

المهدی من عترتی، من ولد فاطمة

”مہدی میری آل میں سے اور یہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا“

امام نسائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: زیاد بن بیان رقی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۲۹۳۱- زیاد بن ثویب (س، ق)

اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دم کرنے کے بارے میں روایت نقل کی ہے۔

اس کے حوالے سے صرف عاصم بن عبید اللہ عمری نے روایات نقل کی ہیں۔

۲۹۳۲- زیاد بن جاریہ (د)

اس نے حبیب بن مسلمہ سے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے۔

بعض حضرات نے یہ کہا ہے: یہ ”صدوق“ ہے اور ”جائز الحدیث“ ہے۔

اس کی نقل کردہ روایت مال غنیمت میں سے انعام کی ادائیگی کے بارے میں ہے، ایک جماعت نے اس سے روایت نقل

کی ہے امام ابن ماجہ نے اس کی نقل کردہ روایت کے حوالے سے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے تاہم انہوں نے اس کا نام زید بیان کیا ہے۔

۲۹۳۳- زیاد بن جبل

اس نے ابو زبیر سے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے۔

۲۹۳۴- زیاد بن حارث

حاکم کہتے ہیں: عمرو بن دینار اس سے روایات نقل کرنے میں منفرد ہے۔

۲۹۳۵- زیاد بن حذیم (س) بن عمر و سعدی.

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں اس کا بیٹا موسیٰ اس سے روایت نقل کرنے میں منفرد ہے ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ ”الثقات“ میں کیا ہے۔

۲۹۳۶- زیاد بن ابوحسان نبطی واسطی.

حاکم کہتے ہیں: اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات کے حوالے سے موضوع روایات نقل کی ہیں۔ اس نے عمر بن عبدالعزیز سے بھی روایات نقل کی ہیں شعبہ نے اس پر شدید تنقید کی ہے اور اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کہتے ہیں: اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے: جو فریاد کرنے والے مظلوم کی مدد کرنے کے بارے میں ہے۔

۲۹۳۷- زیاد بن حسان بصری

یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے محدثین نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا ہے۔

۲۹۳۸- زیاد بن حسن (ت) بن فرات تمیمی کوئی قزاز.

اس نے اپنے والد اور ایک جماعت کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اس سے ابوسعید الارشح اور ابن نمیر نے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ ”الثقات“ میں کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

ما فی الجنة شجرة الا وساقها من ذهب
”جنت میں ہر درخت کا تناسونے سے بنا ہوا ہوگا“
پھر انہوں نے یہ کہا ہے: یہ حدیث حسن ہے۔

۲۹۳۹- زیاد بن ابوحفصہ

اس نے عکرمہ سے روایات نقل کی ہیں اس کی شناخت پتا نہیں چل سکی اس کی نقل کردہ روایت موضوع ہونے سے مشابہت رکھتی ہے۔

۲۹۴۰- (صح) زیاد بن ربیع (خ، د، ق).

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ احادیث کی سند میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں: میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا پھر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے اس نے اپنی سند کے ساتھ ایک خاتون

کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں؛ جس کا نام فیلہ ہے، وہ یہ بیان کرتی ہے، اس نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے:

سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن العصبیہ ان یحب الرجل قومہ؟ قال: لا. ولكن من العصبیة ان یعین قومہ علی الظلم.

”میں نے نبی اکرم ﷺ سے سوال کیا: آدمی کا اپنی قوم سے محبت رکھنا، کیا عصبیتیں شمار ہوگا؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جی نہیں! بلکہ عصبیت یہ ہے، کہ آدمی اپنی قوم کی ظلم میں مدد کرے“

ابن شنی کہتے ہیں: ایک قول کے مطابق وہ خاتون حضرت واثلہ رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی ہیں، عقلمی کہتے ہیں: یہ زیاد بن ربیع ابو خدش محمدی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس کی سند میں غور و فکر کی گنجائش ہے، پھر انہوں نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ اس کی نقل کردہ روایات میں ایک روایت یہ ہے: جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے:

اسلمت بعد نزول المائدة فرایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسح علی الخفین.

”میں نے سورہ مائدہ نازل ہونے کے بعد اسلام قبول کیا تھا، میں نے نبی اکرم ﷺ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقول - اذا عطسنا: الحمد لله علی کل حال.

”نبی اکرم ﷺ نے ہمیں تعلیم دی کہ جب ہم چھینک ماریں تو یہ کہیں: الحمد لله علی کل حال (ہر حال میں ہر طرح کی

حمد اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے)۔“

عثمان بن ابوشیبہ نے زیاد سے نقل کرنے میں اس کی متابعت کی ہے۔

(امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی ”صحیح بخاری“ میں زیاد سے روایت نقل کی ہے۔

ابن شنی کہتے ہیں: اس کا انتقال 185 ہجری میں ہوا، ابوزرعہ کہتے ہیں: یہ ”واہی“ ہے۔

اس نے ابو عمران جوئی، عاصم بن بہدلہ اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں۔

اس سے احمد بن حنبل، ابوبکر بن ابوشیبہ اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے۔

ابن شنی کہتے ہیں: اس کا انتقال 185 ہجری میں ہوا۔

۲۹۴۱- زیاد بن ابوجصاص بصری واسطی

اس نے حضرت انس، ابو عثمان نہدی اور ابن سرین سے روایات نقل کی ہیں۔

اس سے یزید بن ہارون، و عبد الوہاب بن عطاء اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن معین اور ابن مدینی کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے۔

ابوزرعہ کہتے ہیں: یہ وہی ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے۔
 جہاں تک امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، تو انہوں نے کتاب ”الثقات“ میں یہ کہا ہے: یہ بعض اوقات وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔
 (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: بلکہ اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے، ابن جوزی کہتے ہیں: راویوں میں سات آدمیوں کا نام زیاد بن ابوزیاد ہے، ان میں اس بھصا ص کے علاوہ اور کوئی مجروح نہیں ہے۔
 ۲۹۴۲- زیاد بن زید الاعسم۔

اس نے شریح سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے
 عبدالرحمن ابن اسحاق الواسطی جو ضعیف ہے، اس نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۲۹۴۳- زیاد بن سعد (د) بن ضمیرہ

ایک قول کے مطابق (اس کا نام) زیاد بن ضمیرہ ہے، ایک قول کے مطابق (اس کا نام) زید بن ضمیرہ ہے۔
 اس نے اپنے والد اور دادا کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اور یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ اس نے اپنے والد اور اپنے چچا سے روایات نقل کی ہیں۔
 اس سے محمد بن جعفر بن زبیر نے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

۲۹۴۴- زیاد بن سح صنعانی۔

اس نے عطاء سے روایات نقل کی ہیں، اس سے یحییٰ بن عمیر نے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔
 ابن ابوحاتم نے ”باب شین“ میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کا نام زیاد بن سح بیان کیا ہے۔

۲۹۴۵- زیاد بن سفیان۔

اس نے ابوسلمہ سے روایات نقل کی ہیں، حافظ سح کہتے ہیں: یہ مجہول ہے۔

۲۹۴۶- زیاد بن ابوسودہ (د، ق)۔

اس نے اپنے بھائی عثمان کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کینز سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا یہ بیان نقل کیا ہے۔ (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:)

ابعتوا بزیت یسرج فی قنادیلہ - یعنی بیت المقدس

”زیتون کا تیل بھیجو جو وہاں کی قندیلوں میں چراغ روشن کیا جائے“، یعنی بیت المقدس میں ایسا کیا جائے۔

یہ روایت انتہائی منکر ہے، سعید بن عبدالعزیز نے اسے زیاد کے حوالے سے، اس خاتون سے نقل کیا ہے، یہ ”منقطع“ ہے۔

یہ روایت ثور بن یزید نے زیاد کے حوالے سے متصل سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

عبدالمق کہتے ہیں: یہ روایت قوی نہیں ہے، ابن قطان کہتے ہیں: زیاد اور عثمان ان لوگوں میں سے ہیں جن کی نقل کردہ روایت سے بچنا لازم ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: میمونہ نامی یہ خاتون ”میمونہ بنت سعد“ ہے اور ایک قول کے مطابق بنت سعید ہے اس کے حوالے سے ”سنن“ میں چار روایات منقول ہیں اور چاروں روایات منکر ہیں، پہلی روایت وہ ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے دوسری روایت یہ ہے کہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، تیسری روایت اس شخص کے بارے میں ہے جو رمضان میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیتا ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے: کہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور چوتھی روایت زیب وزینت کا اظہار کرنے والی عورت کے بارے میں ہے۔

پھر مجھے یہ نہیں معلوم کہ کیا سعید بن عبدالعزیز نے زیاد سے سماع کیا ہے؟ یا انہوں نے لفظ ”عن“ کے ذریعے تالیس کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے؟ ثور بن یزید اور معاویہ بن صالح نے اس کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے اور اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں، میں نے کہا: تو پھر روم کا اس بارے میں کیا ہوگا، بلکہ ان دونوں کے یہ الفاظ ہیں: میں نے کہا: آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کہ جو شخص اس بات کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ ہاں تک سوار ہو کر جاسکے؟ (یا سامان بھیج سکے؟) تو ان دونوں نے یہ زائد الفاظ نقل کیے ہیں: ”اس میں ایک نماز ادا کرنا ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے“۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن ماجہ نے یہ روایت اسی طرح نقل کی ہے۔

۲۹۳۷- زیاد بن طارق۔

اس نے ابو جریول سے روایات نقل کی ہیں، یہ منکر ہے اس کی شناخت یہ ہے نہیں چل سکی ہے۔
عبید اللہ بن رماحس اس سے روایت نقل کرنے میں منفرد ہے۔

۲۹۳۸- زیاد بن عبداللہ نمیری بصری۔

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں اس سے سہیل بن ابوصالح اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔
ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ ”الثقات“ میں کیا ہے انہوں نے ”الضعفاء“ میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اور یہ کہا ہے: اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ تاقص ہے اس کے حوالے سے مساجد تعمیر کرنے کے بارے میں روایت منقول ہے۔

۲۹۳۹- زیاد بن عبداللہ النخعی

اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں۔

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ مجہول ہے

عباس بن ذریح اس سے روایات نقل کرنے میں منفرد ہے۔

۲۹۵۰- زیاد بن عبداللہ (یا شاید) ابن عبید۔

اس نے شععی سے روایات نقل کی ہیں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”ثقة“ نہیں ہے، اس کی کنیت ابوسکن ہے، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے۔

۲۹۵۱- زیاد بن عبداللہ (ق)۔

اس نے عاصم بن محمد عمری سے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی۔
بقیہ نے مسلم بن عبداللہ کے حوالے سے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۲۹۵۲- (صح) زیاد بن عبداللہ (خ، م) طفیل بکائی کوفی

یہ ابن اسحاق کا شاگرد ہے۔

اس نے منصور، عبدالملک بن عمیر، اور اکابرین سے روایات نقل کی ہیں۔

اس سے احمد، فلاس، حسن بن عرفہ اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ احادیث اہل صدق کی احادیث ہیں، یحییٰ بن معین کہتے ہیں: سیرت کے بارے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ سیرت کے علاوہ روایات میں یہ قابل اعتماد نہیں ہے، علی بن مدینی کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، پھر میں نے اسے ترک کر دیا، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، امام ابوزارع کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی ہے، جو اس کے علاوہ دوسرے راوی سے بھی منقول ہے۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا ہے: یہ قوی نہیں ہے، ابن سعد کہتے ہیں: محدثین کے نزدیک یہ ضعیف ہے تاہم محدثین نے اس کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

عبداللہ بن ادریس کہتے ہیں: ابن اسحاق کے بارے میں زیاد بکائی سے زیادہ ”ثبت“ اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اسے دو مرتبہ املاء کروائی تھی۔

صالح جزرہ کہتے ہیں: یہ اپنی ذات کے حوالے سے ضعیف ہے، تاہم یہ ان لوگوں میں سے ایک ہے، جو ”سیرت“ کے بارے میں ”ثبت“ شمار ہوتے ہیں۔

اس کی نقل کردہ منکر روایات میں سے ایک وہ ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

اذن بلال ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی صوتین صوتین والاقامة مثل ذلك.

”حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کی منیٰ میں موجودگی کے دوران دو دو کلمات کے ذریعے اذان کہی اور اقامت بھی اس طرح کہی“

اس سے یہ روایت بھی منقول ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے: ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الخندق حتی غربت الشمس.

”نبی اکرم ﷺ نے غزوہ خندق کے دن اس وقت تک نماز ادا نہیں کی جب تک سورج غروب نہیں ہو گیا“

اس سے یہ روایت بھی منقول ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نقل کی ہے: قال رجل: یا رسول اللہ ایصبغ ربک؟ قال: نعم صبغاً لا ینفص، احمر، اصفر، ابیض.

”ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا آپ ﷺ کا پرودگار بھی رنگ لگاتا ہے؟ تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جی ہاں! وہ ایسا رنگ ہے جو مدھم نہیں ہوتا، سرخ، زرد، سفید۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے: تراصوا فی الصف، فان الشیطان یقوم فی الخلل.

”اس طرح صفیں ملا کر رکھو، کیونکہ شیطان خالی جگہ کے درمیان آکر کھڑا ہو جاتا ہے“

یہ اور دیگر روایات ابن عدی نے نقل کی ہیں اور پھر یہ کہا ہے: میں اس کی روایات میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ (امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس کا انتقال 183 ہجری میں ہو گیا تھا۔

۲۹۵۳- زیاد بن عبد الرحمن (د) ابوالخصیب.

یہ تابعی بصری ہے۔

اس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایات نقل کی ہیں اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی، ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ ”الثقات“ میں کیا ہے۔

۲۹۵۴- زیاد بن عباد.

اس نے کعب سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

۲۹۵۵- زیاد بن عبیدہ

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، جو جھوٹی روایت ہے۔

۲۹۵۶- زیاد بن عبید حمیری مصری.

حیوہ بن شریح کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایت نقل نہیں کی ہے، اسے ”ثقة“ قرار دیا گیا ہے۔

۲۹۵۷- زیاد بن عثمان.

اس نے عباد بن زیاد سے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے اس کا شمار تابعین میں کیا گیا ہے اس کی شناخت یہ نہیں چل سکی۔

۲۹۵۸- زیاد بن عمرو بن ہند جلمی (س، ق) کوفی

منصور اس سے روایات نقل کرنے میں منفرد ہے۔

۲۹۵۹- زیاد بن عمرو.

اس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے ایک قول کے مطابق اس کا نام عمرو بن زیاد ہے۔

۲۹۶۰- زیاد بن قیس (س).

اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں عاصم بن بہدلہ اس سے روایات نقل کرنے میں منفرد ہے۔

۲۹۶۱- زیاد بن کثیر.

اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے

۲۹۶۲- زیاد بن کلیب (م، د، ت، س) ابو معشر تمیمی کوفی.

اس نے ابراہیم اور شعبی سے روایات نقل کی ہیں جب کہ اس سے روایات نقل کی ہیں یہ ایک سو دس ہجری میں ادھیڑ عمری میں انتقال

کر گیا تھا اس سے روایات نقل کرنے والا آخری شخص ابن ابو عمرو ہے۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ اپنے حافظے میں متین نہیں ہے۔

۲۹۶۳- زیاد بن مالک.

اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں یہ حجت نہیں ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کے عبداللہ سے سماع اور حکم کے اس سے سماع یہ نہیں چل سکا۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے یہ دونوں حضرات بیان کرتے

ہیں۔

القارن يطوف طوافين ويسعى سبعين

”حج قرآن کرنے والا شخص دو مرتبہ طواف کرے گا اور دو مرتبہ سعی کرے گا“۔

۲۹۶۴- زیاد بن ابو مریم (ق) جزری.

اس نے عبداللہ بن معقل کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: ”ندامت تو بہ ہوتی ہے“

اس راوی میں مجہول ہونا پایا جاتا ہے، ثقہ بھی قرار دیا گیا ہے۔
میرے خیال میں عبدالکریم بن مالک کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایات نقل نہیں کی ہیں۔
ایک قول کے مطابق یہ جراد بن جرح ہے اور ایک قول کے مطابق یہ دونوں دوا لگ آدمی ہیں۔

۲۹۶۵- زیاد بن ابومسلم بصری صفار العابد.

اسے فراء بھی کہا گیا ہے اس نے ابولعالیہ اور سعید بن جبیر سے روایات نقل کی ہیں جب کہ اس سے وکیع ابن مہدی اور امام مسلم رضی اللہ عنہ نے روایات نقل کی ہیں۔

یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ اور امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ نے اسے ”ثقہ“ قرار دیا ہے، امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے، یحییٰ القطان نے اسے ”دین“ قرار دیا ہے عبداللہ بن شعیب نے یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: اسے ضعیف قرار دیا گیا ہے۔
۲۹۶۶- زیاد بن ابولیح ہذلی.

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ”قوی“ نہیں ہے۔

۲۹۶۷- زیاد بن ملیک، البوسکینہ

یہ ایک ایسا بزرگ ہے جس کی حالت پوشیدہ ہے، نہ تو اسے ”ثقہ“ قرار دیا گیا ہے اور نہ ہی ضعیف قرار دیا گیا ہے، تو یہ جائز الحدیث ہے، اس سے جعفر بن برقان، ابوبکر بن ابومریم نے روایات نقل کی ہیں یہ اس حدیث کو نقل کرنے میں منفرد ہے۔

دعوا الحبشة ما ودعوکم.

”تم حبشیوں کو اس وقت تک چھوڑے رہو، جب تک وہ تمہیں چھوڑے رہیں“

۲۹۶۸- زیاد بن منذر (ت) ہمدانی

ایک قول کے مطابق اس کا اسم منسوب ”ثقفی“ اور ایک قول کے مطابق ”نہدی“ ہے۔

اس نے ابوبردہ اور حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں جب کہ اس سے مروان بن معاویہ، محمد بن سنان عوفی اور متعدد لوگوں نے روایات نقل کی ہیں۔

یحییٰ بن معین کہتے ہیں: یہ کذاب ہے امام نسائی رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات یہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے، امام ابن حبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ رافضی ہے، یہ فضائل اور مثال کے بارے میں احادیث ایجاد کرتا تھا، امام دارقطنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ منذر بن زیاد ہے، یہ ”متروک“ ہے۔

دیگر حضرات نے یہ بات بیان کی ہے: جبارود یہ نامی فرقہ اس کی طرف منسوب ہے، جو لوگ اس بات کے قائل ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سب سے افضل ہیں۔ یہ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لاطعلق کا اظہار کرتے ہیں اور یہ اس بات کے قائل ہیں: امامت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کے ساتھ مخصوص ہے، جب کہ ان میں سے بعض لوگ رجعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور بعض لوگ متعہ

کو مباح قرار دیتے ہیں۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: ترمذی کے حوالے سے یہ روایت منقول ہے:

من اطعم مؤمنا علی جوع.

”جو شخص کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلائے“

معاویہ بن صالح نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ کذاب ہے اور اللہ کا دشمن ہے۔

اس نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر علیا بثلثم الحیطان.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باغ کی ٹوٹی ہوئی جگہ کے بارے میں حکم دیا۔“

۲۹۶۹- زیاد بن منذر، ابو حازم، شیعی۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، ان کے صاحبزادے عبدالرحمن نے ان کی کتاب میں اس کا ذکر نہیں کیا۔

۲۹۷۰- زیاد بن میمون ثقفی فاکہی۔

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس کا نام زیاد ابوعمار بصری ہے اور ایک قول کے مطابق

زیاد بن ابوعمار ہے اور ایک قول کے مطابق زیاد بن ابو حسان ہے، ہو سکتا ہے کہ محدثین نے اس کا نام تدریس کے طور پر نقل کیا ہو تا کہ اس کی

حالات کے شناخت نہ ہو سکے۔

لیث بن عبدہ کہتے ہیں: میں نے یحییٰ بن معین کو یہ کہتے ہوئے سنا: زیاد بن میمون کم یا زیادہ کو برابر نہیں رکھتا۔

ایک مرتبہ انہوں نے کہا: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے۔

یزید بن ہارون کہتے ہیں: یہ کذاب ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: محدثین نے اسے ”متروک“ قرار دے دیا تھا۔

امام ابو زرعة رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ راوی الحدیث ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔

امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں اس کے پاس آیا تو اس نے کہا: میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میں نے یہ احادیث

ایجاد کی ہیں۔

بشر بن عمر زہرانی کہتے ہیں: میں نے زیاد بن میمون سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا، جو حضرت انس رضی اللہ عنہ (کے حوالے

سے اس نے) نقل کی ہے، تو اس نے جواب دیا: کیا لوگ میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں، میں یہودی یا عیسائی تھا؟ میں حضرت

انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو روایات بیان کرتا رہا ہوں، میں نے ان سے رجوع کر لیا ہے، میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کوئی حدیث

نہیں سنی۔

حسن بن علی خلیل کہتے ہیں: میں نے یزید بن ہارون کو سنا: انہوں نے زیاد بن میمون کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا: میں نے یہ قسم اٹھائی

ہے کہ میں اس کے حوالے سے کوئی روایت نقل نہیں کروں گا، میں نے اس سے ایک حدیث کے بارے میں دریافت کیا، تو اس نے بکر بن عبداللہ کے حوالے سے وہ حدیث مجھے سنائی۔ پھر میں نے (کچھ عرصہ بعد) دوبارہ اس حدیث کے بارے میں پوچھا، تو اس نے وہ مؤرق کے حوالے سے سنائی، پھر میں نے (کچھ عرصہ بعد) دوبارہ اس کے بارے میں دریافت کیا: تو اس نے وہ روایت حسن کے حوالے سے مجھے سنائی۔

محمود بن غیلان بیان کرتے ہیں: میں نے امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ سے کہا: آپ نے عباد بن منصور سے بکثرت روایات نقل کی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے آپ نے ان سے عطارہ والی وہ حدیث نہیں سنی؟ جو نضر بن شمیل نے ہمارے سامنے بیان کی ہے، تو امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ نے کہا: تم خاموش رہو! میں اور عبدالرحمن بن مہدی، زیاد بن میمون سے ملے، ہم نے اس سے سوال کرتے ہوئے کہا: یہ احادیث جو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہیں (ان کی حیثیت کیا ہے؟) تو وہ بولے: آپ دونوں کی کیا رائے ہے؟ جو شخص تو بہ کرتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کی تو یہ قبول نہیں کرتا ہے؟ ہم نے جواب دیا: جی ہاں! (کرتا ہے)، تو اس نے کہا: میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے تھوڑی یا زیادہ (کوئی حدیث) نہیں سنی، کیونکہ جب لوگ یہ نہیں جانتے تو آپ بھی نہیں جانتے ہو گئے، کہ میری حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔

امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: پھر ہمیں اطلاع ملی کہ وہ (حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے) روایات نقل کرتا ہے، میں اور عبدالرحمان اس کے پاس آئے، تو وہ بولا: میں تو بہ کرتا ہوں۔ پھر ہمیں اطلاع ملی کہ وہ (حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے) احادیث بیان کر رہا ہے، تو ہم نے اسے ترک کر دیا۔

اس کی نقل کردہ منکر روایات میں سے ایک وہ روایت ہے، جو اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے:

طلب العلم فريضة.

”علم حاصل کرنا فرض ہے“

صباح بن سہل ”ضعیف“ ہے، جس نے زیاد بن میمون سے روایت نقل کی ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

ليس من امرأة تحبل حملا الا كان لها كاجر القائم الصائم المخبت، فاذا وضعت كان لها بكل رضة عتق رقبة. والرجل اذا جامع زوجته واغتسل باهى الله به الملائكة.

”جو عورت حاملہ ہوتی ہے اسے نوافل ادا کرنے والے روزہ دار اور عاجزی کرنے کی مانند اجر ملے گا اور جب وہ بچے کو جنم دے گی تو ہر ایک مرتبہ دودھ پلانے کے عوض میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور جب کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کے بعد غسل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتا ہے“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

ان الله ليس بتارك احدا يوم الجمعة من المسلمين الا غفر له.

”بے شک اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن کسی مسلمان کو ترک نہیں کرتا، مگر یہ کہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے“
(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یحییٰ بن یحییٰ التمیمی نے اس کا زمانہ پایا ہے۔

۲۹۷۱- زیاد بن مینا (ت، ق)۔

اس نے ابوسعید بن ابوفضالہ سے روایات نقل کی ہیں، ازوی کہتے ہیں: اس میں ”لین“ ہونا پایا جاتا ہے۔
ابوسعید کا صحابی ہونا نقل نظر ہے، ابن مدینی کہتے ہیں: یہ زیاد مجہول ہے

۲۹۷۲- زیاد بن یزید زیادی۔

اس نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایات نقل کی ہیں، اس نے یزید حمیری سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے
۲۹۷۳- زیاد، ابواسکن۔

اس نے امام شعیبی سے روایات نقل کی ہیں، ایک قول کے مطابق یہ زیاد بن عبداللہ ہے۔
امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ نہیں ہے، یہ وہ آخری شیخ ہے، جس نے شعیبی سے روایات نقل کی ہیں۔
وقال ابن معین: یہ مخرم میں تھا، یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے۔
زیاد بن ایوب کہتے ہیں: زیاد ابوسکن نے ہمیں یہ بات بتائی، میں شعیبی کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ اس وقت روٹی اور پنیر کھا رہے
تھے انہوں نے کہا: میں نکلنے سے پہلے (یہ کھا کر) بردباری حاصل کرنا چاہتا ہوں، ان کی مراد یہ تھی: مجلس قضاء کی طرف جانے سے پہلے۔
۲۹۷۴- زیاد۔

اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایات نقل کی ہیں، ایک قول کے مطابق یہ زیاد بن اسلم ہیں، اور ایک قول کے مطابق اس
کے علاوہ ہے، یہ مجہول ہے
۲۹۷۵- زیاد، مولیٰ بنی مخزوم۔

اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اسماعیل بن ابوالخالد نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔
یحییٰ بن معین کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے۔

۲۹۷۶- زیاد، مولیٰ معقیب۔

اس نے ”مرسل“ روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے

۲۹۷۷- زیاد، ابو عمرو۔

یہ بصرہ کارہنے والا ہے اور اس نے تھوڑی روایات نقل کی ہیں، ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

۲۹۷۸- زیاد، ابو بشر۔

اس نے حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے، موسیٰ بن عقبہ نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۲۹۷۹- زیاد

یہ ابو مقدم ہشام کا والد ہے، یہ ”ضعیف الحدیث“ ہے۔

۲۹۸۰- زیاد ابو ہاشم

اس کے حوالے سے، اس کے بیٹے نے روایات نقل کی ہیں، امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اسے ”دلیل“ قرار دیا ہے۔

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ سابقہ راوی ہے، لفظ ہاشم نسخہ نقل کرنے والوں کو غلطی ہے۔

عقلمی بیان کرتے ہیں آدم نے امام بخاری رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: زیاد ابو ہشام، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا غلام ہے، وہ پسندیدہ

شخصیت نہیں ہے:

ابو الفضل عباس بن فضل انصاری بیان کرتے ہیں: اس سے یہ روایت بھی منقول ہے:

ان عثمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اظل الله في ظله من انظر معسرا، او ترك لغارم.

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا:

”اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا سایہ نصیب کرے گا، جو کسی تنگ دست شخص کو (قرض کی ادائیگی کے لیے) مہلت دے یا مقروض کو (قرض) معاف کر دے“

۲۹۸۱- زیاد الطائی (ت)۔

اس شخص نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی ہے، اس سے حمزہ الزیات نے روایات نقل کی

ہیں۔

امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس کی حدیث کو ”دلیل“ قرار دیا ہے۔

۲۹۸۲- زیاد ابو الوقار (د، ق) کو فی عصفری

یہ سفیان کا والد ہے، اس نے حبیب بن نعمان اسدی، کے حوالے سے خریم بن فاتک سے روایات نقل کی ہیں، زیاد کے بارے میں

یہ پتا نہیں چل سکا کہ یہ کس پائے کا ہے؟

اس کے حوالے سے اس کے بیٹے سفیان بن زیاد نے یہ حدیث نقل کی ہے:

عدلت شهادة الزور بالاشراك.

”جھوٹی گواہی کو شرک کرنے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔“

ایک قول کے مطابق حبیب نے خرم بن فاتک کے بیٹے ایمن سے روایات نقل کی ہیں۔

۲۹۸۳- زیاد، ابوالبرد (ت، ق).

اس نے اسید بن ظہیر سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نقل کردہ اس حدیث کو ”صحیح“ قرار دیا ہے۔

”مسجد قبا میں نماز ادا کرنا عمرہ کرنے کی مانند ہے“

اس کے حوالے سے صرف عبد الحمید بن جعفر نے روایات نقل کی ہیں۔

۲۹۸۴- زیاد

یہ راوی منکر ہے اس کی شناخت اس حدیث کے علاوہ پتا نہیں چل سکی جو ابو جعفر رازی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے:

لا تقبل صلاة رجل في جسده شيء من الخلق.

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کے جسم پر ذرا سی بھی خلوک (مخصوص قسم کی خوشبو) لگی ہو“

۲۹۸۵- زیاد، ابو ہشام.

یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا آزاد کردہ غلام ہے اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دوسرے غلام مجن سے روایات نقل کی ہیں جب کہ اس سے اس کے بیٹے ہشام نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ احادیث چلنے والی نہیں ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ پسندیدہ شخصیت نہیں ہے۔ اس نے تنگ دست شخص کو افطاری کروانے کے بارے میں روایت نقل کی ہے۔

۲۹۸۶- زیاد، ابوعمار.

یہ زیاد بن میمون ہے اور یہی وہ زیاد بن ابوعمار ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

۲۹۸۷- زیاد.

یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاطب نے اس سے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے شاید یہ زیاد بن عمرو ہے ایک قول کے مطابق فہری ہے جس نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایات نقل کی ہیں اور جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

۲۹۸۸- زیاد، ابو عمر بصری۔

عقیلی نے اس کا تذکرہ کتاب ”الضعفاء“ میں کیا ہے، ابن مدینی کہتے ہیں: میں نے یحییٰ سے کہا: عبدالرحمن نے اہل بصرہ کے دو مشائخ سے روایات نوٹ کی ہیں، انہوں نے دریافت کیا: وہ دونوں کون ہیں؟ میں نے کہا: زیاد ابو عمر۔ یحییٰ نے اپنے سر کو حرکت دی اور بولے: وہ تو دور روایتوں کو تین بنا کر نقل کرتا ہے، اور پھر اس نے کچھ ایسی روایات بھی نقل کی ہیں، جن میں وہ غفلت کا شکار ہوا ہے، میں نے کہا: دوسرا شخص قاسم خدانی ہے، انہوں نے کہا: وہ منکر شخص ہے، پھر انہوں نے اس کی کچھ تعریف بھی کی، میں نے کہا: عبدالرحمن تو یہ کہتا ہے: کہ زیاد ابو عمر مثبت ہے، تو یحییٰ نے اپنے منہ کو میزھا کیا اور بولے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں تک اس کی نقل کردہ احادیث کا تعلق ہے، تو وہ مستند نہیں ہیں۔

۲۹۸۹- زیاد۔

اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی، اس نے ابو منذر کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حثا فی قبر ثلاثا.
”نبی اکرم ﷺ نے قبر پر تین مرتبہ دونوں ہاتھ بھر کر مٹی ڈالی“
اس روایت کو نقل کرنے میں ہشام بن سعد منفر دے یہ روایت ”مرسل“ ہے۔

۲۹۹۰- زیاد، مولیٰ معقیب۔

اس کا ذکر ہو چکا ہے، سعید بن ابویوب نے اس سے روایت نقل کی ہے، اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی ہے، اس کی نقل کردہ روایت مرسل ہے۔

(زیادہ)

۲۹۹۱- زیادہ بن محمد انصاری (د)۔

اس نے محمد بن کعب قرظی سے روایات نقل کی ہیں۔ اس سے لیث بن سعد نے روایات نقل کی ہیں۔
امام بخاری رحمہ اللہ اور امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے۔

ابوصالح بیان کرتے ہیں: لیث بن سعد نے اس راوی کے حوالے سے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان نقل کیا ہے:

ینزل اللہ فی آخر ثلاث ساعات یبقین من اللیل، فینظر اللہ فی الساعة الاولى منهن فی الكتاب

الذی لا ینظر فیہ غیرہ، فیبحو ما یشاء ویثبت، ینظر فی الساعۃ الثانیۃ فی عدن وہی مسکنہ التی یسکن، لا یکون معہ فیہا الا الانبیاء والصدیقون والشہداء، فیہا ما لم یخطر علی قلب بشر، ثم یهبط فی آخر ساعۃ من اللیل فیقول: الامستغفر یتستغفرنی فاغفر لہ، الا سائل یسألنی فاعطیہ، الا داع یدعونی فاستجیب لہ، حتی یطلع الفجر.

”جب رات گزرنے میں آخری تین گھنٹیاں باقی رہ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے ان میں سے پہلی گھنٹی میں اللہ تعالیٰ اس کتاب کو دیکھتا ہے جس میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھ سکتا پھر وہ جس چیز کو چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اسے برقرار رکھتا ہے دوسری گھنٹی میں وہ اس عدن کو دیکھتا ہے جہاں اس کا مسکن ہے جہاں وہ رہتا ہے اس عدن میں اس کے ساتھ صرف انبیاء صدیقین اور شہداء رہتے ہیں اس میں ایسی چیزیں ہیں جن کا کبھی کسی انسان کے ذہن میں خیال بھی نہیں آیا پھر وہ رات کی آخری گھنٹی میں نیچے اتر آتا ہے اور فرماتا ہے: کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا مجھ سے مغفرت طلب کرے گا؟ کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کیا کوئی مانگنے والا مجھ سے کچھ مانگے گا کہ میں اسے عطا کر دوں، کیا کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا مانگے گا؟ کہ میں اس کی دعا قبول کر لوں ایسا صحیح صادق تک ہوتا رہتا ہے“

یہ الفاظ منکر ہیں زیادہ نامی راوی کے علاوہ اور کسی نے انہیں نقل نہیں کیا۔

یہ دم (کے الفاظ والی) اس حدیث کو نقل کرنے میں بھی منفرد ہے:

”اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے جو آسمان میں ہے، یہ اس نے اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے۔“

(زید)

۲۹۹۲- (صح) زید بن اسلم (ع) مولیٰ عمر

ابن عدی نے زیادتی کی ہے کہ اس کا ذکر ”الکامل“ میں کیا ہے، کیونکہ یہ ”ثقة“ اور ”حجت“ ہے۔

حماد بن زید کہتے ہیں: میں مدینہ منورہ آیا، وہاں (محدثین) زید بن اسلم کے بارے میں کلام کر رہے تھے، تو عبید اللہ بن عمر نے مجھ سے کہا: ہمارے علم کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یہ اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے۔

۲۹۹۳- (صح) زید بن ابوانیسہ (ع) رباوی، ابواسامہ

یہ حفاظ حدیث میں سے ایک ہے۔

اس نے شہر بن حوشب، عطاء، عمرو بن مرہ، اور ایک مخلوق سے روایات نقل کی ہیں اس سے امام مالک، عبید اللہ بن عمرو، اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے ابن سعد کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ اور فقیہہ“ ہیں، علم کو روایت کرنے والے ہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی (نقل کردہ) حدیث میں کچھ منکر ہونا پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ”حسن الحدیث“ ہے۔

۲۹۹۳- زید بن ایمن (ق).

اس نے عبادہ بن نسی سے روایات نقل کی ہیں۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“، نقل کی ہے:

ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فنی اللہ حی یرزق.

(نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:) ”بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے، تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے“

اس کے حوالے سے صرف سعید بن ابولہلال نے روایات نقل کی ہیں، تاہم ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قاعدے کے مطابق اس کا ذکر ”الثقات“ میں کیا ہے۔

۲۹۹۵- زید بن بکر جوزی

یہ انتہائی ”منکر الحدیث“ ہے، یہ بات ازدی نے بیان کی ہے۔

انہوں نے اس کے حوالے سے اسماعیل بن مسلم سے ایک روایت نقل کی ہے۔ یہ ”متروک“ ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“، نقل کی ہے:

ذکر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقیة من الحیة، فقال: اعرضها علی، فعرضتها: باسم اللہ

شجة قرنية، ملححة فی بحر قفطا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: هذه موثیق اخذها

سليمان علی الهوام، لا اری بها باسا. قال: فلدد رجل وهو مع علقمة فرقاها بها، فکاننا نشط من

عقال.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچھو کے ڈنگ مارنے کے دم کا ذکر کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے الفاظ میرے سامنے پیش کرو، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ الفاظ پیش کیے: اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے شجة قرنية، ملححة فی بحر قفطا

بحر قفطا

تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ وہ عہد ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین کے حشرات الارض سے لیے تھے، میرے نزدیک ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں: ایک شخص کوز ہریلے جانور نے کاٹ لیا، وہ علقمہ کے ساتھ تھا، علقمہ نے اسے ان الفاظ کے ذریعے دم کیا، تو اس کی یہ حالت ہو گئی جیسے اسے رسیوں سے آزاد کر دیا گیا ہو۔

۲۹۹۶- زید بن تغلب

اس نے ابومنذر کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، اپنے استاد کی طرح اس کے بارے میں بھی پتا نہیں چل سکا کہ یہ کون ہے؟
امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ دونوں مجہول ہیں۔

۲۹۹۷- زید بن جاری

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، یہ منکر الحدیث ہے، یہ بات ازدی نے بیان کی ہے، اس کی نقل کردہ حدیث بھی درست نہیں ہے۔

۲۹۹۸- زید بن جبیرہ (ت، ق) ابو جبیرہ انصاری

اس نے اپنے والد اور ابوطوالہ سے روایات نقل کی ہیں، اس سے لیث، سوید بن عبد العزیز، اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات فرماتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی حدیث نوٹ نہیں کی جائیگی۔

ابن عدی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ زیادہ تر روایات میں اس کی متابعت نہیں کی گئی ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

خصال لا تنبغی فی الساجد: لا تتخذ طرقا، لا یشہر فیہا سلاح، لا ینشر فیہا فرش، لا ینثر فیہا نبل، لا یدر فیہا بلحم، لا یضرب فیہا حد، لا یقصر فیہا جراحة، لا تتخذ سواقا.

”کچھ کام ایسے جو مسجد میں نہیں کیے جانے چاہیے، تم اسے راستہ نہ بناؤ، اس میں ہتھیار سونت کرنے چلو، اس میں بچھونے نہ بچھاؤ، اس میں تیر لے کر نہ جاؤ، اس میں گوشت لے کر نہ گزرو، اس میں حد جاری نہ کی جائے، اس میں کسی زخم کا قصاص نہ لیا جائے، اور اسے بازار نہ بناؤ“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر بالله.

”جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من لم يعرف حق عترتی والانصار والعرب فهو لاحد ثلاث: اما منافق، اما ولد زنیة، اما حبلتہ

امہ علی غیر طہر.

”جو شخص میری عترت، انصار اور عربوں کے حق کی پہچان نہیں کرتا، وہ تین میں سے کوئی ایک ہوگا، یا منافق ہوگا، یا ولد الزنا ہو

گا، یا اس کی ماں کو طہر کے علاوہ حالت میں اس کا حمل ٹھہرا ہوگا“

ثوری کے حوالے سے اس کی نقل کردہ روایات ”مقلوب“ ہیں یہ روایت ہشام بن عمار نے اسماعیل کے حوالے سے نقل کی ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

خیر نسائکم العفیفة الغلطة.

”تمہاری خواتین میں سب سے بہتر وہ ہیں، جو پاک دامن اور نوجوان ہوں“

امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ نہیں ہے یہ زید بن جبیرہ بن محمود بن ابوجبیرہ بن ضحاک انصاری مدنی ہے، یہ عمر رسیدہ نہیں ہے۔

یحییٰ بن ایوب نے اپنی ”سند“ کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواطن. الحديث.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مقامات پر نماز ادا کرنے سے منع کیا“

یہ غلطیاں بہت کرتا ہے، ابن عدی نے اس کا طویل ترجمہ ذکر کیا ہے، پھر انہوں نے یہ کہا: زید کوفہ کے ”ثبت“ راویوں میں سے

ایک ہے، اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے، البتہ سفیان ثوری کے حوالے سے اس کی نقل کردہ روایات کو سند کے اعتبار سے ”غریب“ قرار دیا گیا ہے۔

لیث نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ سابقہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے۔

۲۹۹۹- زید بن جساس

اس نے محمد بن حنیفہ سے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے۔

ایک قول کے مطابق: یہ ابن جناس ہے۔

۳۰۰۰- (صح) زید بن حباب (م، عو)

یہ عبادت گزار اور ثقہ ہے یہ صدوق اور جوال ہے۔

امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے: ثوری کے حوالے سے نقل کردہ اس کی روایات مقلوب ہیں، یحییٰ بن معین نے ایک مرتبہ اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

علی بن مدینی اور امام ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے لیکن بکثرت

غلطیاں کرتا ہے ابن عدی نے اس کے طویل حالات نقل کیے ہیں پھر یہ بات بیان کی ہے: زید نامی یہ راوی کوفہ کے ثبت راویوں میں سے ایک ہے جس کے سچے ہونے میں شک نہیں ہے البتہ اس کے حوالے سے ایسی روایات منقول ہیں جنہیں غریب قرار دیا گیا ہے جو اس

نے سفیان ثوری سے نقل کی ہیں اور انہیں ان کی سند کے حوالے سے غریب قرار دیا گیا ہے۔

اس سے ایک یہ روایت منقول ہے جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے حوالے سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

عليكم بالشفاء بين القرآن والعسل.

”شفاء دینے والی دو چیزوں کو اختیار کرنا تم پر لازم ہے، قرآن اور شہد“

(محدثین کی) ایک جماعت نے یہ روایت ”موقوف“ روایت کے طور پر سفیان ثوری سے نقل کی ہے۔

اس نے داؤد بن مدرک کے حوالے سے، جو معروف نہیں ہے، عروہ کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ بیان نقل کیا ہے:

رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد، فقال: انما لعن بنو اسرائيل حيث زينوا نساءهم.. الحديث.

”نبی اکرم ﷺ کا گزر ایک خاتون کے پاس سے ہوا، جو مزینہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، وہ مسجد میں اپنا دامن گھسیٹ کر تکبر کے ساتھ چل رہی تھی، نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بنی اسرائیل پر اس وقت لعنت کی گئی جب انہوں نے اپنی عورتوں کو اس طرح آراستہ کیا“

اس سے یہ روایت بھی منقول ہے، جو اس نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نقل کی ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدين: رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني.

نبی اکرم ﷺ سجدوں کے درمیان یہ پڑھتے تھے:

”اے میرے پروردگار! تو میری مغفرت کر دے، مجھ پر رحم کر، مجھ بلندی عطا کر اور مجھے ٹھیک رکھنا۔“

۳۰۰۱- زید بن حبان (س، ق) رقی

اس نے زہری اور ابن منکدر سے روایات نقل کی ہیں اس سے ابواحمد زبیری، معمر بن سلیمان، اور متعدد افراد نے روایات نقل کی

ہیں۔

حذیل کہتے ہیں: میں نے ابو عبداللہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا، تو وہ بولے: اس کی حدیث کو ترک کر دیا گیا ہے، لوگ کہتے

ہیں: یہ شراب پی کر مدہوش ہو جاتا تھا۔

عثمان بن سعید نے یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ثقہ ہے۔

کوج نے یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ کوئی چیز نہیں ہے، ابن حبان رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر ”اشقات“ میں کیا ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، امام دارقطنی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔

معمر کہتے ہیں: اس نے فساد کا شکار ہونے سے پہلے ہمیں احادیث بیان کی ہیں۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے:

انه كان ينهى عن القبلة للصائم، يقول: ليس لاحد من العصبة ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم

”حضرت عمر رضی اللہ عنہ روزہ دار شخص کو (اپنی بیوی کا) بوسہ لینے سے منع کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے: کسی بھی شخص کو وہ عصمت حاصل نہیں ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔“

اس کا انتقال 158 ہجری میں ہوا۔

۳۰۰۰۲۔ زید بن حسن مصری

اس نے امام مالک کے حوالے سے منکر روایات نقل کی ہیں: یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے؟

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

لو ان رجلا صام نهاره وقام ليله حشره الله على نيته.

”اگر کوئی شخص دن کے وقت روزہ رکھے اور رات کے وقت نوافل پڑھتا رہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کا حشر اس کی نیت کے مطابق کرے گا“

یہ روایت ”منکر“ ہے اور امام مالک سے منقول ہونے کے طور پر اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔

۳۰۰۰۳۔ زید بن حسن بن زید بن امیرک حسینی

طراذیبی کے ایام میں اس نے چالیس احادیث ایجاد کی تھیں۔

ابن جوزی کہتے ہیں: یہ کذاب (جھوٹا) وضاع (روایات ایجاد کرنے والا) اور دجال (دھوکے باز) ہے۔

۳۰۰۰۴۔ زید بن حسن (ت) قرشی کوفی صاحب الانماط

اس نے جعفر بن محمد اور معروف بن خربوذ کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

اس سے ابن راہویہ اور نصر الوشاء نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے؛ ابن حبان رضی اللہ عنہ نے اسے قوی قرار دیا ہے۔

۳۰۰۰۵۔ زید بن حماد بن سلمہ بن دینار بصری

ابن جوزی کی کتاب ”الموضوعات“ کے خطبے میں یہ بات تحریر ہے: یہ اپنے والد کی کتابوں میں سے احادیث کو چوری کیا کرتا تھا۔

۳۰۰۰۶۔ زید بن حواری العمی (عمو) ابو الحواری بصری

یہ ہرات کا قاضی تھا

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ، سعید بن مسیب، اور ایک گروہ سے روایات نقل کی ہیں۔
 اس کے حوالے سے اس کے دو بیٹوں عبد الرحیم اور عبد الرحمن اور ان کے علاوہ شعبہ اور ہشیم نے روایات نقل کی ہیں۔
 یحییٰ بن معین کہتے ہیں: یہ صالح ہے ایک مرتبہ انہوں نے کہا: یہ کوئی چیز نہیں ہے۔
 ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا: یہ ضعیف ہے، البتہ اس کی حدیث کو نوٹ کیا جائے گا۔
 امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے البتہ اس کی حدیث کو نوٹ کیا جائے گا۔
 امام دارقطنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ صالح ہے نسائی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔
 ابن عدی کہتے ہیں: شاید شعبہ نے اس سے زیادہ ضعیف کسی راوی سے روایت نقل نہیں کی تھی سعدی کہتے ہیں: یہ متمسک ہے۔
 اس کی نقل کردہ منکر روایات میں سے ایک وہ ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

يوشك الفالاح ان يفشو في الناس حتى يتبنوا الطاعون مكانه.

”عنقریب لوگوں کے درمیان فالج اتنا پھیل جائے گا کہ وہ اس کی جگہ طاعون (میں مبتلا ہونے) کے آرزو مند ہوں گے۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

يكره للمؤذن ان يكون اماما

”مؤذن کے لیے یہ بات مکروہ ہے کہ وہ امام ہو۔“

شاید اس روایت میں خرابی کی جڑ ”سلام“ نامی راوی ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر كان دواء للسنة

”جو شخص منگل کے دن مہینے کی سترہ تاریخ کو چھپے لگوائے، تو یہ سال بھر کے لیے دوا ہوں گے۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

سألت ربي فيما اختلف فيه اصحابي من بعدى، فأوحى الله الي: يا محمد ان اصحابك عندى بمنزلة

النجوم بعضهم اضاوا من بعض، فمن اخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندى على هدى.

”میں نے اپنے پروردگار سے اس چیز کے بارے میں دریافت کیا، جس کے بارے میں میرے بعد میرے اصحاب کے

درمیان اختلاف ہوگا، تو پروردگار نے میری طرف وحی کی ”اے محمد! تمہارے اصحاب میرے نزدیک ستاروں کی مانند ہیں،

جن میں سے بعض دوسروں سے زیادہ روشن ہیں، تو جو شخص ان کے درمیان اختلافی چیز میں سے کسی کو بھی حاصل کرے گا، وہ

میرے نزدیک ہدایت پر شمار ہوگا۔“

یہ روایت جھوٹی ہے، اس کے راوی عبد الرحیم کو محمد شین نے ”متروک“ قرار دیا ہے اور نعیم نامی راوی منکر روایات نقل کرتا ہے۔

۳۰۰۷- زید بن ربیع (خ، ت، ق) مدینی

اس نے ابو عبد اللہ الاغر سے (احادیث کا) سماع کیا ہے۔
میں نے ایسے کسی شخص کو نہیں پایا، جس نے اس کے حوالے سے روایات نقل کی ہوں، صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں، انہوں نے اسے عبید اللہ بن اعر کے ساتھ ملایا ہے۔
امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں اس کی حدیث میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

۳۰۰۸- زید بن رفاعہ ہاشمی، ابو خیر

یہ فلسفے کا ماہر ہونے کے باوجود جھوٹی احادیث ایجاد کرنے کے حوالے سے معروف ہے۔
اس نے ابن درید اور ابن انباری سے استفادہ کیا ہے، خطیب کہتے ہیں: یہ کذاب ہے۔
لا لکائی کہتے ہیں: میں نے اس کو رے (تہران) میں دیکھا ہے۔
(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس کے حوالے سے چالیس موضوع روایات منقول ہیں، جنہیں ابن ودعان نے چوری کر لیا تھا۔

۳۰۰۹- زید بن رفیع، جزری

اس نے ابو عبیدہ بن عبد اللہ بن مسعود سے روایات نقل کی ہیں، امام دراقطنی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔
امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”قوی“ نہیں ہے، اس سے محمد بن حمزہ نے روایات نقل کی ہیں۔
۳۰۱۰- زید بن زائد (د، ت)۔

اس نے ابن مسعود سے روایات نقل کی ہیں، اس سے ولید بن ہشام نے روایات نقل کی ہیں۔
ازدی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ حدیث صحیح نہیں ہوتی۔
(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس کی شناخت حاصل نہیں ہو سکی۔

۳۰۱۱- زید بن ابوزرقاء (د، س) موصلی

اس نے رملہ میں رہائش اختیار کی تھی، یہ صدوق، مشہور اور عبادت گزار ہے۔
ابن عمار کہتے ہیں: میں نے فضیلت میں اس کی مانند، معافی کی مانند اور قاسم جرمی کی مانند، کوئی شخص نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔
ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اسے غریب قرار دیا گیا ہے۔

۳۰۱۲- زید بن سعید واسطی

اس نے ابواسحاق فزاری کے حوالے سے جھوٹی روایت نقل کی ہے، جس کا متن یہ ہے۔

من ادخل علی مؤمن سرور الم تسسه النار
”جو شخص کسی مومن پر خوشی داخل کرے اسے آگ نہیں چھوئے گی“

احمد بن ابوغالب نے اپنی ”سند“ کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

من ادخل علی مؤمن سرورا فقد سرنی، من سرنی فقد اتخذ عند الله عهدا، من اتخذ عند الله عهدا فلن تسسه النار ابدًا.

”جو شخص کسی مومن پر خوشی داخل کرے اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے عہد ہے اور جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عہد ہے، اسے آگ کبھی نہیں چھوئے گی“

۳۰۱۳- زید بن سکین

اس سے اسحاق بن ضیف نے روایات نقل کی ہیں، ازدی کہتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے۔

۳۰۱۴- زید بن ابوشعثاء (د) ابوالحکم

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت براہی رضی اللہ عنہ، کے حوالے سے مصافحہ کے بارے میں روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے۔ اس کے حوالے سے صرف ابولج نے روایات نقل کی ہیں۔
ایک قول کے مطابق اس کے اور حضرت براء رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک شخص ہے۔

۳۰۱۵- زید بن صالح

اس نے وزاع بن نافع سے روایات نقل کی ہیں، اس سے ابو وہب جزیری نے روایات نقل کی ہیں۔
یہ مجہول ہے، اسی طرح (درج ذیل راوی بھی مجہول ہے)۔

۳۰۱۶- زید بن صبیح

۳۰۱۷- زید بن ظلمیان (ت، س)۔

اس نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں۔

اس کے حوالے سے صرف ربعی بن خراش نے روایت نقل کی ہے، البتہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی نقل کردہ حدیث کو ”صحیح“ قرار دیا ہے۔

۳۰۱۸- زید بن عبدحمید (ق) بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب عدی مدنی

اس کے حوالے سے ایک حدیث منقول ہے، جو اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نقل کی

ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن صیام رجب کلہ۔

”نبی اکرم ﷺ نے رجب کے پورے مہینے میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے“

یہ روایت اس کے حوالے سے داؤد بن عطاء نے نقل کی ہے اور داؤد نامی راوی ضعیف ہے اور اس سے روایت نقل کرنے میں منفرد

ہے۔

اس کے حوالے سے عیسیٰ بن یونس نامی راوی نے بھی ایک موقوف حدیث نقل کی ہے۔

۳۰۱۹- زید بن عبداللہ بن مسعود ہاشمی، ابوقاسم

اس پر یہ الزام ہے کہ اس نے آداب کے بارے میں چالیس روایات ایجاد کی ہیں یہ بات نباتی نے نقل کی ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ ابو خیر بن رفاع ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھلائی عطا نہ کرے، ابوالفتح مسلم بن ایوب رازی

(رے) نے چار سو ہجری کے بعد اس سے ان چالیس روایات کا سماع کیا تھا۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاربعین حدیثاً، فقال: من حفظها علی امتی دخل الجنة، حشر مع الانبیاء والعلماء، فقلت: یا رسول اللہ، ای الاحادیث ہی؟ قال: ان تؤمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبيين والبعث والحساب والموقف والشفاعة والقدر والوتر کل لیلۃ، لاتعق والدیك.. الی ان قال: ولا تقل للقصیر یا قصیر، سرد ما بقی.

”میں نے نبی اکرم ﷺ سے چالیس احادیث کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا: میری امت کا جو شخص انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس کا حشر انبیاء اور علماء کے ساتھ ہوگا، میں نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! وہ احادیث کون سی ہیں؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ کہ تم اللہ تعالیٰ آخرت کے دن، فرشتوں اور کتاب، نبیوں، بعثت، حساب، موقف، شفاعت اور تقدیر پر ایمان رکھو اور ررات میں کسی بھی وقت و ترادا کر لو اور اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو یہاں تک کہ یہ الفاظ کہے: کہ تم کسی چھوٹے شخص کو چھوٹا نہ کہو۔“

اس کے بعد اس نے پوری روایت نقل کی ہے یہ جھوٹ ہے۔

۳۰۲۰- زید بن عبدالرحمن بن زید بن اسلم

اس نے اپنے والد کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے۔

ابن عدی نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کے حوالے سے دو روایات منقول ہیں اس سے ابراہیم بن منذر اور ابن ابی اوس نے

روایات نقل کی ہیں۔

۳۰۲۱- زید بن عبدالرحمن۔

اس نے عمرو بن شعیب سے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے۔

۳۰۲۲- زید بن عقیف

یہ بھی اسی طرح (مجہول) ہے۔

۳۰۲۳- زید بن عطاء (ت، س) بن سائب

اس نے ابن منکدر سے روایات نقل کی ہیں اسے ”ثقة“ قرار دیا گیا ہے۔
امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ شیخ ہے، لیکن معروف نہیں ہے۔

۳۰۲۴- زید بن عمر بن عاصم

اس نے سہیل بن ابوصالح کے حوالے سے ایک منکر روایت نقل کی ہے۔

۳۰۲۵- زید بن عوف، ابوربیع

اس کا لقب ”فہد“ ہے۔

اس نے حماد بن سلمہ سے روایات نقل کی ہیں، محدثین نے اس کو ”متروک“ قرار دیا ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔
امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے روایات نوٹ کی ہیں اور یہ کہا ہے: (اس کی نقل کردہ روایات کو) معروف اور منکر قرار دیا گیا ہے۔

خلاص کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے، امام ابوزرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے اس پر یہ الزام عائد کیا ہے: کہ اس نے دو روایات چوری کی ہیں۔

۳۰۲۶- زید بن عیاش (عو) مدنی زرقی

اس نے سعد سے روایات نقل کی ہیں۔ اس سے عمران بن ابوانس اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں۔
یہ عبد اللہ بن زید ہے، جو اسود بن سفیان کا غلام ہے، عمران بن ابوانس نامی راوی جس کا ذکر کیا گیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، معاملے کے اعتبار سے یہ صالح ہے۔
ابن حزم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے: یہ مجہول ہے

۳۰۲۷- زید بن عیاض

یہ بصرہ کا رہنے والا ہے اور قدیم ہے، ایوب سختیانی نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:
اولاد الزنا يحشرون في صور القردة والنخازير.

”زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے (قیامت کے دن) بندروں اور خنزیریوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے“
ابن ابوحاتم نے زید نامی راوی کا مختصر طور پر ذکر کیا ہے اور انہوں نے اسے ضعیف قرار نہیں دیا۔

۳۰۲۸- زید بن محمد بن خلف مصری.

یہ بعد کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے اور ”لین“ ہے اس نے بحر بن نصر اور اس کی مانند افراد سے روایات نقل کی ہیں۔
ابن یونس کہتے ہیں: یہ ”قوی“ نہیں ہے۔

عمر بن عبدالمعمر نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے عبداللہ بن ابوقادہ کے حوالے سے ان کے والد کے بارے میں یہ
روایت نقل کی ہے۔

انه كان يطلب رجلا بحق فاخبأ منه، فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: العسر، فاستحلفه على ذلك
فحلف، ذوعا بصدقه فاعطاه اياه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من انسى
معسرا او وضع له انجاه الله من كرب يوم القيامة.

”وہ (یعنی حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ) ایک شخص کی تلاش میں تھے جس سے انہوں نے قرض وصول کرنا تھا وہ ان سے چھپ رہا
تھا حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا: تنگ دستی کی وجہ سے، حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ نے
اس سے حلف لیا تو اس نے اس بات کا حلف اٹھالیا تو حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ نے معاہدے کی تحریر منگوائی اور وہ اسے دیتے
ہوئے ارشاد فرمایا: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے یا اسے (کچھ یا مکمل قرض) معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی سختیوں سے
نجات عطا فرمائے گا“

امام مسلم رضی اللہ عنہ نے یہ روایت مرفوع حدیث کے طور پر اس راوی کے حوالے سے جریر بن حازم کے حوالے سے حماد بن زید
کے حوالے سے ایوب سے نقل کی ہے۔

۳۰۲۹- زید بن معاوی

یہ کوئی ہے اس نے علمقہ سے روایات نقل کی ہیں۔

ابوحاتم اور ابن حبان رضی اللہ عنہما نے ”ذیل“ میں اس کا ذکر کیا ہے اور دیگر حضرات نے اس بارے میں ان کا ساتھ دیا ہے۔

۳۰۳۰- زید بن نعیم.

یہ راوی اس حدیث کے علاوہ (اور کسی حوالے سے) شناخت نہیں ہو سکا۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:
ان رجلین اختصا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ناقة ... الحدیث.
”دو آدمی ایک اونٹنی کے بارے میں مقدمہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے“
یہ روایت ”غریب“ ہے جسے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔

۳۰۳۱- زید بن نفع

یہ تابعی ہے اور ”مرسل“ روایات نقل کرتا ہے۔
اس سے اسید بن ابواسید نے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے

۳۰۳۲- زید بن واقد، ابوعلی ستی بصری

اس نے حمید سے روایات نقل کی ہیں امام ابوحاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے انہوں نے ”برے“ میں اس سے (احادیث) کا
سماع کیا تھا اور یہ ان کا سب سے قدیم شیخ ہے۔
ابوزرعہ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے۔

۳۰۳۳- زید بن واقد

اگر تو یہ مشہور راوی ہے، پھر یہ ”قریشی دمشقی“ ہے اور مکحول کے ثقہ شاگردوں میں سے ایک ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے
روایات نقل کی ہیں، اس کا انتقال ایک سواڑ میں ہجری میں ہوا۔

۳۰۳۴- (صح) زید بن وہب (ع)

یہ جلیل القدر اور ثقہ تابعین میں سے ایک ہیں، ان سے استدلال کرنے پر اتفاق پایا جاتا ہے، البتہ یعقوب فسوی کی رائے مختلف
ہے انہوں نے اپنی (کتاب) ”تعریف“ میں یہ بات بیان کی ہے کہ ان کی نقل احادیث میں بہت زیادہ خلل پایا جاتا ہے، تاہم فسوی کا یہ
قول درست نہیں ہے، پھر انہوں نے ان کی روایت کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے:

یا حذیفہ، باللہ انا من المنافقین

”اے حذیفہ! اللہ کی قسم، میں منافقین میں سے ایک ہوں“

فسوی کہتے ہیں: یہ بات ناممکن ہے مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے۔ ان کی نقل کردہ روایت کے ضعیف ہونے پر اس بات
سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے:

ان خرج الدجال تبعہ من کان یحب عثمان.

”اگر دجال نکل آیا، تو وہ شخص اس کی پیروی کرے گا جو عثمان سے محبت کرتا ہوگا“

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ربذہ میں یہ حدیث بیان کی وہ بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہمارے سامنے

اُحد پہاڑ آ گیا۔

یہ اس سے منقول وہ روایت ہے، جو نسوی نے منکر قرار دی ہے، نسوی سے پہلے کسی نے اسے منکر قرار نہیں دیا، اگر ہم اس طرح کے وسوسوں کو آنے دیں، تو ہمیں بہت سی ثابت شدہ سنتوں کو فاسد و ہم کی بنیاد پر مسترد کرنا پڑے گا، اور ہم بطور خاص زید بن وہب کے بارے میں یہ دروازہ نہیں کھول سکتے، کہ ان کی ایسی ثابت شدہ روایات کو مسترد کر دیں، جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں، حالانکہ وہ ایک ایسے شخص کی حدیث ہے، جو صادق اور مصدوق ہے اور زید نامی یہ صاحب سردار ہیں، جلیل القدر ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی، لیکن یہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔

انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر سابقین اولین سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ ان سے ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

یحییٰ بن معین نے اور دیگر حضرات نے انہیں ”ثقة“ قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ اعمش نے یہ کہا ہے: جب زید بن وہب کسی بھی شخص کے حوالے سے تمہیں حدیث بیان کریں، تو گویا کہ یہ حدیث تم نے اس شخص سے سنی ہے، جس کے حوالے سے انہوں نے تمہارے سامنے اسے بیان کیا ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: ان کا انتقال 90 ہجری سے پہلے یا کچھ بعد میں ہو گیا تھا۔

۳۰۳۵- زید بن شیبہ (ت) ہمدانی

اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، ابواسحاق کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایت نقل نہیں کی ہے، انہوں نے اس کا نام ابان بن تغلب بن زید بن نفیل بیان کیا ہے، تاہم پہلا قول درست ہے۔

۳۰۳۶- زید بن یحییٰ بیج

یہ بغداد کا رہنے والا ہے اور بعد کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے، ابرقوی نے اس سے صحیح سماع کے حوالے سے ہمیں حدیث بیان کی ہے ایک قول یہ بھی ہے: کہ اس نے لوین کے جزء میں اپنا نام شامل کر دیا تھا، جو محمد بن سری تمار کے نسخے میں ہے، تو طلباء ان دونوں کو اس کے حوالے سے سمجھ نہیں سکے۔

۳۰۳۷- زید، ابو عمر

اس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (محدثین نے) ان کے حوالے سے سکوت کیا ہے، ابن جوزی اور عقیلی نے اس کا ذکر کیا ہے۔

زید بن ابی ایبہ نے اس کے حوالے سے ایسی روایات نقل کی ہیں، جن کا متن محفوظ ہے۔

۳۰۳۸- زید، ابواسامہ (س) حجام۔

اس نے عکرمہ، مجاہد، اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں، اس سے ابو معاویہ، ابو نعیم نے روایات نقل کی ہیں۔

یحییٰ بن معین نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، ازدی کہتے ہیں: (محدثین) نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔

۳۰۳۹- زید نمیری

اس نے حسن سے روایات نقل کی ہیں، اس سے حماد بن زید نے روایات نقل کی ہیں، یہ منکر راوی ہے۔

۳۰۴۰- زید

اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایات نقل کی ہے۔

۳۰۴۱- زید سلمی

اس نے ابو جعفر محمد بن علی (یعنی امام باقر رضی اللہ عنہما) کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، یہ دونوں (یعنی یہ راوی اور سابقہ راوی) مجہول ہیں۔

(زینب)

۳۰۴۲- زینب سہمیہ (ق)

اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، اس کے حوالے سے عمرو بن شعیب نے یہ روایت نقل کی ہے: کان یقبل ولم یتوضأ۔

” (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کا) بوسہ لے لیتے تھے اور از سر نو وضو نہیں کرتے تھے۔“
امام دارقطنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ عورت مجہول ہے، اس کے ذریعے حجت قائم نہیں ہو سکتی۔
(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ عمرو بن شعیب کی پھوپھی ہے۔

۳۰۴۳- زینب بنت کعب (عو) بن عجرہ

اس خاتون کے حوالے سے صرف سعد بن اسحاق نے حدیث نقل کی ہے، جو سیدہ فریجہ رضی اللہ عنہا سے عدت کے بارے میں منقول ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں: یہ مجہول ہے، امام ترمذی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس خاتون کی نقل کردہ حدیث ”صحیح“ ہے۔

﴿ حرف السین ﴾

۳۰۴۳- سابق بن عبداللہ رقی

اس نے ابوخلف کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔

إذا مدح الفاسق اهتز العرش

”جب فاسق کی تعریف کی جائے تو عرش ہلنے لگتا ہے“

یہ روایت اس راوی کے حوالے معافی بن عمران نے نقل کی ہے، یہ روایت ”مکتر“ ہے۔ تاہم ابوخلف نامی راوی کی شناخت کا پتہ نہیں چل سکا۔ ابن عدی نے اس کا ذکر کیا ہے، انہوں نے اس کی کنیت ”ابوعبداللہ“ ذکر کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں: ایک قول کے مطابق اس کی کنیت ابوسعید اور ایک قول کے مطابق ابومہاجر ہے۔

اس کے حوالے سے احمد بن شبان موصلی اور ابولید رباح بن جراح نے روایات نقل کی ہیں۔

اس سے معان ابن رفاعہ نے روایات نقل کی ہیں، محمد بن عبید اللہ قردوانی نے اپنے والد کے حوالے سے سابق ”رقی“ سے تقریباً تیس روایات نقل کی ہیں۔

ابن عدی کہتے ہیں: یہ ”سابق بربری“ نہیں ہے، جو صوفی ہے، جس نے ”زبد“ (یعنی تصوف) کے بارے میں کلام کیا ہے۔

۳۰۴۵- سابق بن ناجیہ (د، ق)

اس نے ابوسلام سے روایات نقل کی ہیں۔ اس سے صرف ہاشم بن بلال نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں:

”میں اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے سے راضی ہوں۔“

۳۰۴۶- سالم بن ابراہیم

یہ ائمہ و مشائخ کا معاصر ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”شبت“ نہیں ہے، سالم نے حکیم بن خدام کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ”متروک“ ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من یمن المرأة تبکیرھا بانثی.

”عورت کی برکت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ باکرہ ہو۔“

یہ سالم بن ابراہیم بن ابوبکر بن عیاش ہے۔

۳۰۴۷- سالم بن ثابت

یہ واقدی کا استاد ہے، یہ مجہول ہے۔

۳۰۴۸- (صح) سالم بن ابوالجعد (ع)۔

یہ ثقہ تابعین میں سے ایک ہے، تاہم یہ ”تدلیس“ اور ”ارسال“ کرتا ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے (احادیث کا) سماع نہیں کیا، اور نہ ہی ان سے ملاقات کی ہے۔
 (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اور جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کردہ اس کی احادیث صحیحین میں موجود ہیں؛ جب کہ صحیح بخاری میں اس کے حوالے سے وہ روایات بھی منقول ہیں، جو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں۔ جب کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اس کی نقل کردہ روایات سنن نسائی اور سنن ابوداؤد میں مذکور ہیں۔

۳۰۴۹- سالم بن ابوحفص (ت) عجلی کوفی

اس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی زیارت کی ہے اور امام شعبی اور ایک گروہ سے روایات نقل کی ہیں؛ اس سے دونوں سفیانوں اور محمد بن فضیل نے روایات نقل کی ہیں؛ فلاں کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، یہ ”تشیع“ میں افراط کا شکار تھا۔
 جہاں تک یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، تو انہوں نے اسے ”ثقہ“ قرار دیا ہے؛ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ثقہ“ نہیں ہے۔
 ابن عدی کہتے ہیں: اس کے ”عالی“ ہونے کا عیب ذکر کیا گیا ہے اور مجھے یہ امید ہے؛ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
 محمد بن بشر عبدی کہتے ہیں: میں نے سالم بن ابوحفص کو دیکھا ہے، اس کی داڑھی لمبی تھی اور وہ احمق شخص تھا، وہ یہ کہتا تھا: میری یہ خواش ہے، میں حضرت علی رضی اللہ عنہ میں موجود ہر خوبی میں ان کا حصہ دار ہوتا۔

جریر بن عبد الحمید کہتے ہیں: میں نے سالم بن ابوحفص کو دیکھا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا:

”اے بنو امیہ کو ہلاکت کا شکار کرنے والے! میں حاضر ہوں“

ابن عیینہ کہتے ہیں: میں نے سالم بن ابوحفص کو یہ کہتے سنا: امام شعبی جب مجھے دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے: اے اللہ کے سپاہی رکو اور یوں اڑ جاؤ جیسے جو کا دانا اڑ جاتا ہے۔

سالم کہتے ہیں: وہ میرے ساتھ مذاق کرتے (ہوئے ایسا کہتے) تھے۔

ابن عیینہ کہتے ہیں: عمر بن ذر نے سالم سے کہا: تم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے؟ اسی وجہ سے تم میں حرج ہے، اس نے دریافت کیا: میں نے؟ عمر بن ذر نے کہا: جی ہاں! کیونکہ تم ان کے قتل سے راضی تھے۔

حسین بن علی جعفی بیان کرتے ہیں: میں نے سالم بن ابوحفص کو دیکھا ہے، اس کی داڑھی طویل تھی، اور وہ احمق تھا، وہ کہتا تھا، میں نعل کو قتل کروانے والی ذات کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں بنو امیہ کو ہلاک کرنے والی ذات کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔

علی بن مدینی بیان کرتے ہیں: میں نے جریر کو یہ کہتے ہوئے سنا: میں نے سالم بن ابوحفص کو اس لیے ترک کر دیا، کیونکہ وہ شیعہ کا

مخالف تھا۔

علی کہتے ہیں: ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہوگا؟ جسے جریر نے ترک کر دیا ہو۔
ابن عیسیٰ کہتے ہیں: ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہوگا، جریر کے نزدیک جس میں ”غالی پن“ پایا جاتا ہو، ان کی مراد یہ ہے: جریر میں بھی ”تشیع“ پایا جاتا تھا۔

محمد بن طلحہ نے خلف بن حوشب کے حوالے سے، سالم بن ابوہضصہ سے روایت نقل کی ہے، جو ان لوگوں کا سردار تھا، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تنقیص کیا کرتے تھے۔

یہ روایت بھی نقل کی گئی ہے: سالم جب کوئی حدیث بیان کرتا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل سے آغاز کرتا تھا، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:
من احب الحسن والحسين فقد احبني، من ابغضهما فقد ابغضني
”جو شخص حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔“

۳۰۵۰۔ سالم بن ابوجہاد

کسی ایک نے اس پر تنقید نہیں کی البتہ اس کے حوالے سے ایک مکرر روایت منقول ہے۔
احمد بن عبدالکریم نے اپنی ”سند“ کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت الانبياء يعزلون الخمس فتجيء النار فتاكله، امرت ان اقسه في فقرائ امتي.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پہلے انبیاء ”خمس“ کو الگ کرتے تھے، پھر آگ آگے اُس کو کھالیتی تھی، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں اسے اپنی امت کے غریبوں میں تقسیم کر دوں“

۳۰۵۱۔ سالم بن دینار (د) ابو جمیع

اس کا ذکر آگے آئے گا۔

۳۰۵۲۔ سالم بن رزین (س، ق).

اس سے علقمہ نے روایات نقل کی ہیں اس کی نقل کردہ حدیث ثابت نہیں ہے، اس میں مجہول ہونا پایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے طلاق کے بارے میں یہ روایت منقول ہے۔

ایک قول کے مطابق اس کا نام رزین بن سلیمان ہے، علقمہ بن مرشد نے اس کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۰۵۳۔ سالم بن سلمہ ابوترہ ہندی۔

اس سے ابن بریدہ نے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے۔

۳۰۵۴۔ سالم بن صالح رازی

اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی یہ بات ابوالفرج بن جوزی نے بیان کی ہے، یہ سالم بن صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف ہے۔

اس کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے جو اس نے اپنے والد سے نقل کی ہے۔

اس سے ابراہیم بن سعد نے روایات نقل کی ہیں امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں اس سے واقف نہیں ہوں۔

۳۰۵۵۔ سالم بن عبداللہ کلابی

اس نے بعض تابعین کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اس نے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے جو خضاب کے بارے میں ہے۔

۳۰۵۶۔ سالم بن عبداللہ (ت، ق) خیاط

اس نے حسن اور محمد سے روایات نقل کی ہیں یحییٰ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ نہیں ہے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”لین“ ہے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

جہاں تک ابن عدی کا تعلق ہے تو انہوں نے اس کے حوالے سے ”نو“ ایسی روایات نقل کی ہیں جن کے متون عمدہ ہیں وہ کہتے ہیں: میں نے اس کی نقل کردہ زیادہ تر روایات میں کوئی خرابی نہیں دیکھی۔

ابن عیینہ نے بھی اس کے حوالے سے احادیث بیان کی ہیں۔

۳۰۵۷۔ سالم بن عبدالاعلیٰ

(اور ایک قول کے مطابق) بن عبدالرحمن (اور ایک قول کے مطابق) ابن غیلان ابوالفیض ہے۔

اس نے نافع اور عطاء سے روایات نقل کی ہیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ کوفہ کا رہنے والا ہے عبداللہ بن ادریس اور دیگر حضرات نے اس کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

عباس دوری نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: اس کی روایت کردہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

یہ شخص ہے جس نے نافع کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے:

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کان اذا اشفق من الحاجة ربط فی یدہ خیاطا.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کام کے حوالے سے اندیشہ ہوتا تو آپ اپنے ہاتھ میں دھاگہ باندھ لیتے تھے“

ایک جماعت نے یہ روایت سالم کے حوالے سے نقل کی ہے اس نے عطاء کے حوالے سے کئی منکر روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (محدثین) نے اسے ”متروک“ قرار دیا ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:
لا یحل لامرأة تدخل الحمام .

”عورت کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ وہ حمام میں داخل ہو“

ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کتاب ”الثقات“ میں کیا ہے، یہ سالم ابو الغیث مولیٰ ابن مطیع ہے، ابو عبد اللہ الخذاء نے ”رجال مالک“ میں یہ کہا ہے: یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں اس کے نام سے واقف نہیں ہوں، یہ ”ثقة“ نہیں ہے، جبکہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا ہے: یہ ”ثقة“ ہے۔

۳۰۵۸- سالم بن علاء (ت) ابو علاء مرادی

ایک قول کے مطابق (اس کا نام) سالم بن عبد الواحد ہے۔

اس نے ربیع بن حراش اور عطیہ العونی سے روایات نقل کی ہیں۔ اس سے یعلیٰ بن عبید اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ ابن معین اور نسائی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی حدیث کونوٹ کیا جائیگا۔

۳۰۵۹- سالم بن عجلان (خ، د، س، ق) افسس،

یہ ”تابعی“ ہے اور مشہور ہے، بعض حضرات نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ حدیث ”صالح“ نہیں ہوتی اور یہ ”مرجئی“ ہے، ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ صالح الحدیث ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے اور ”مرجئی“ ہے۔

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ثقہ راویوں کے حوالے سے ”معصل“ روایات نقل کرنے میں منفرد ہے۔ یہ روایات میں ”تقلیب“ کر دیتا ہے، اس پر برے فعل کا الزام عائد کیا گیا، تو اسے باندھ کر قتل کر دیا گیا۔

نفیلی کہتے ہیں: جب یہ 132 ہجری میں ”حران“ آیا، تو عبد اللہ بن علی نے سالم کو پیغام بھیجا اور پھر اس کی گردن اڑادی گئی۔ (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: اس نے سالم بن عبد اللہ اور سعید بن جبیر کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

اس سے ثوری، مروان ابن شجاع، اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

۳۰۶۰- سالم بن غیلان (د، ت، س)

یہ ابن وہب کا استاد ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے ”الثقات“ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس نے یزید بن ابو حبیب اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۰۶۱۔ سالم بن مخرق

اس سے مروان بن معاویہ نے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے اس نے ابوالعدس منیع کے حوالے سے روایت نقل کی ہے۔

۳۰۶۲۔ سالم بن نوح (م، د، ت، س) عطار۔

اس نے یونس بن عبید اور جریری سے روایات نقل کی ہیں اس کی کنیت ابوسعید ہے اور بصرہ کا رہنے والا ہے ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے۔

فلاس کہتے ہیں: میں نے یحییٰ بن سعید قطان سے کہا: سالم بن نوح نے مجھ سے کہا: یونس اور جریر کی کتابیں مجھ سے ضائع ہو گئی تھیں، میں نے چالیس سال بعد انہیں پایا، اور ان دونوں کے حوالے سے احادیث بیان کیں، تو یحییٰ نے کہا: اس میں حرج کیا ہے؟

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے: یہ ”قوی“ نہیں ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا، ابو زرہ کہتے ہیں: یہ صدوق اور ثقہ ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: اس کے حوالے سے غریب اور مختلف روایات منقول ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”قوی“ قرار دیا ہے اور اس کے حوالے سے روایات نوٹ کی ہیں۔

۳۰۶۳۔ سالم بن ہلال

ابن ابو حاتم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔

۳۰۶۴۔ سالم ابو حماد

یہ ”سدی“ کا شاگرد ہے۔

۳۰۶۵۔ سالم مولیٰ عکاشہ

یہ ابو عاصم نبیل کا استاد ہے۔

۳۰۶۶۔ سالم

جس نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے غلام سالم سے روایات نقل کی ہیں، (سالم نامی یہ سابقہ تینوں راوی) مجہول ہیں۔

۳۰۶۷۔ ابو غیاث

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں اس کے حوالے سے نصر بن شمیل نے روایات نقل کی ہیں، ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے۔

۳۰۶۸۔ سالم، ابو الغیث (ع)

جو ابن مطیع کا غلام ہے ابو عبد اللہ بن الخداء کہتے ہیں: یہ امام مالک کے شاگردوں میں سے ہے۔
ابن معین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں اس کے نام سے واقف نہیں ہوں، یہ ”ثقة“ نہیں ہے، ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا: یہ ثقة ہے۔

۳۰۶۹۔ سالم ابو علاء

اس نے ابراہیم طائی سے روایات نقل کی ہیں، عبد الصمد تنوری کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایت نقل نہیں کی۔

۳۰۷۰۔ سالم ابو جمع قزاز

اس نے محمد بن سیرین سے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، امام ابو زرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ”لیین الحدیث“ ہے۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: مجھے یہ امید ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ شیخ ہے۔

۳۰۷۱۔ سالم دورقی

یہ پتہ نہیں چل سکا یہ کون ہے؟ ازدی نے اس کو چھوڑ دیا۔

۳۰۷۲۔ سالم فراء (د)

اس نے زید بن اسلم اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، صرف عمرو بن حارث نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔
ابن حبان رضی اللہ عنہ نے اس کا ذکر ”الثقات“ میں کیا ہے۔

۳۰۷۳۔ سالم سہمی (ع)

اس نے اپنے آقا حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں۔
صرف عمرو بن شعیب نے اس سے روایات نقل کی ہیں، ابن حبان رضی اللہ عنہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

۳۰۷۴۔ سالم مکی (د)

اس نے ایک صحابی سے روایات نقل کی ہیں، ابن اسحاق اس سے روایت نقل کرنے میں منفرد ہے۔

(سائب)

۳۰۷۵۔ سائب خولانی

اس نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے

۳۰۷۶- سائب نگری

یہ محمد کا والد ہے اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔

۳۰۷۷- سائب بن مالک

اس نے فضالہ بن عبید سے روایات نقل کی ہیں اس کی شناخت نہیں ہو سکی اگر تو یہ عطاء کا والد ہے تو پھر یہ ثقہ ہے۔

۳۰۷۸- سائب (د، س)۔

اس نے اپنے آقا حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے اذان کے بارے میں روایت نقل کی ہے اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔

(سباع)

۳۰۷۹- سباع بن ثابت (عو)۔

اس نے سیدہ ام کرزہ سے روایات نقل کی ہیں۔ اس کی شناخت نہیں ہو سکی اس کے حوالے سے یہ روایت منقول ہے:

اقدوا الطیر علی مکنا تھا

”پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رہنے دو“

عبید اللہ بن ابویزید کی اس سے روایت نقل کرنے سے منفرد ہے۔

اس کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے، جو ابن عیینہ نے، عبید اللہ، اس کے والد سباع کے حوالے سے اس خاتون (یعنی سیدہ

ام کرزہ رضی اللہ عنہا) کے حوالے سے نقل کی ہے، یہ بات کہی گئی ہے، اس میں ابن عیینہ کو وہم ہوا ہے۔

ابن جریج کہتے ہیں: عبید اللہ نے، سباع، محمد بن ثابت کے حوالے سے، اس خاتون سے، عقیقہ سے متعلق حدیث کا ایک حصہ نقل کیا

ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”صحیح“ قرار دیا ہے۔

جب کہ درست یہ کہ یہ ابن جریج سے منقول ہے اور اس کی سند میں محمد بن ثابت کا ذکر نہیں ہے۔

(سبرہ، ست العباد)

۳۰۸۰- سبرہ

یہ ایک ایسا شخص ہے، جس کے حوالے سے اسماعیل سدی نے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے۔

۳۰۸۱- ست عباد مصری۔

روت عن (ابن) رفاعہ بعض الخلیعات۔

اس نے ابن رفاعہ کے حوالے سے ”خلعیات“ کا کچھ حصہ نقل کیا ہے اس سے فخر مقدسی نے روایات نقل کی ہیں حافظ زکی الدین بن منذری نے اس کے سماع کے بارے میں کلام کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے: کہ یہ ایسے خط میں منقول ہے، جس پر اعمتا نہیں کیا جاسکتا۔

(سحیم، سدیف)

۳۰۸۲- سحیم (س)، مولیٰ بنی زہرہ

اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، زہری اس سے روایت کرنے میں منفرد ہے۔ اس کے حوالے سے وہ روایت منقول ہے، جو ان حبشیوں کے بارے میں ہے، جو بیت اللہ پر حملہ کریں گے اور انہیں وہاں دھنسا دیا جائے گا۔

۳۰۸۳- سدیف بن میمون مکی

یہ رافضی ہے، اس نے ابن حسن کے ساتھ خروج کیا تھا، منصور نے اس پر قابو پا کر اسے قتل کروا دیا تھا، عقیلی کہتے ہیں: یہ عالی رافضی تھا۔

اس راوی نے اپنی ”سنن“ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال: من ابغضنا اهل البيت حشره الله يوم القيامة يهوديا وان صام وصلى، ان الله علمني اسماء امتي كما علم آدم الاسماء كلها، مثل لى امتي فى الطين فدر بى اصحاب الرايات فاستغفرت لعلی وشيعته.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: جو شخص ہم اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے یہودیوں کو ساتھ اٹھائے گا، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی امت کے اسماء کا علم عطا کیا، جس طرح اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا کیا، میرے لیے میری امت کو مٹی میں مثالی صورت میں پیش کیا گیا، میرے سامنے کچھ جھنڈوں والے لوگ گزرے، تو میں نے علی اور اس کے ساتھیوں کے لیے دعائے مغفرت کی“

حنان نامی راوی کہتے ہیں: میں اپنے والد کے ساتھ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے والد نے ان کے سامنے یہ روایت بیان کی، تو انہوں نے فرمایا: میں یہ گمان نہیں کرتا کہ میرے والد نے کسی کو اس طرح کی کوئی روایت بیان کی ہوگی۔

(سدیر، سراج)

۳۰۸۴- سدیر بن حکیم صیرنی کوفی

یہ ”صالح الحدیث“ ہے جو زبانی کہتے ہیں: یہ قابل مذمت نظریات رکھتا ہے۔
 احمد بن ابومریم نے یحییٰ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ثقہ ہے ابن جوزی کہتے ہیں: سفیان ثوری نے اس سے روایات نقل کی ہیں پھر
 انہوں نے یہ بات بھی بیان کی ہے ابن عیینہ کہتے ہیں: یہ غلط بیانی کرتا تھا۔
 عقیلی کہتے ہیں: یہ ان لوگوں میں سے ہے جو ”عالی رافضی“ ہیں۔
 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس نے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے احادیث کا سماع کیا ہے۔
 امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ثقہ“ نہیں ہے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے۔

۳۰۸۵- سراج بن مجاہد حنفی (د)

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔ جنہیں ”صحابی“ ہونے کا شرف حاصل ہے جب کہ اس سے صرف اس کے بیٹے باہال
 نے روایات نقل کی ہیں ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ ”الثقات“ میں کیا ہے۔

(سرور)

۳۰۸۶- سرور بن مغیرہ۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:
 من کانت له ثلاث بنات یعولهن فله الجنة
 ”جس کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی کفالت کرے تو اسے جنت ملے گی“
 ازدی نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔

(سرتج، سرتج)

۳۰۸۷- سرتج بن نعمان (خ، عو) جوہری

اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔
 محدثین کے نزدیک یہ ثقہ ہے امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے۔ لیکن حدیث میں غلطی کرتا ہے۔

۳۰۸۸- سرلیج بن عبد اللہ

اس نے ایک منقطع روایت نقل کی ہے یہ مجہول ہے

۳۰۸۹- سرلیج بن عبد اللہ واسطی (س) جمال

یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا استاد ہے اور ”صدوق“ ہے۔

(سری)

۳۰۹۰- سری بن اسماعیل (ق) کوفی.

یہ امام شعبی کا شاگرد ہے، یحییٰ القطان کہتے ہیں: ایک ہی محفل میں میرے سامنے اس کا جھوٹ واضح ہو گیا تھا، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے، دیگر حضرات نے یہ کہا ہے: لوگوں نے اس کی حدیث کو ترک کر دیا تھا، عباس دوری نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے۔

اس کی نقل کردہ منکر روایات میں سے ایک وہ ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے:

سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول: الخمر من خمس.. الحدیث.

”میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: خمر پانچ چیزوں سے بنتی ہے۔“

ایک جماعت نے یہ روایت اس کے حوالے سے نقل کی ہے یہی روایت بعض دیگر اسناد کے ہمراہ بھی منقول ہے، جولیت بن سعد، یزید بن ابی حبیب، (خالد بن) کثیر، سری بن اسماعیل سے نقل ہوئی ہے

۳۰۹۱- سری بن خالد مدنی

اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی، ازدی کہتے ہیں: اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

۳۰۹۲- سری بن عاصم بن سہل، ابو عاصم ہمدانی

یہ ”معزز باللہ“ کا اتالیق ہے، بعض اوقات اس کی نسبت اس کے دادا کی طرف بھی کر دی جاتی ہے۔

اس نے ابن علیہ سے روایات نقل کی ہیں ابن عدی نے اسے ”وائی“ قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے: یہ حدیث میں سرقت کا مرتکب ہوتا ہے، اس نے حرمی ابن عمارہ سے بھی سے روایات نقل کی ہیں۔ ابن خراش نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔

اس کی نقل کردہ آزمائشوں میں سے ایک روایت یہ ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

الایمان بالقدر یذهب الهم والحزن
”تقدیر پر ایمان رکھنا غم اور تکلیف کو ختم کر دیتا ہے“

اس کی نقل کردہ مصائب میں سے ایک روایت یہ ہے، جس کا متن یہ ہے:

رایت حول العرش وردة مكتوب فيها محمد رسول الله، ابوبکر الصديق.

”میں عرش کے ارد گرد ایک پھول دیکھا، جس میں محمد رسول اللہ، ابوبکر صدیق لکھا ہوا تھا“

اس کی نقل کردہ مصیبتوں میں سے ایک روایت یہ ہے: جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ، کے حوالے سے یہ

روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

لله ملك من ياقوتة على زمردة كل يوم يسعد

”اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو زمرہ پر یاقوت سے بنا ہوا ہے وہ روزانہ (قیمت) بڑھاتا ہے“

۳۰۹۳- سری بن عبید اللہ سلمیٰ.

اس نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی اور اس کی نقل کردہ روایات منکر ہیں، ابن عدی نے اس کا تذکرہ کیا ہے، عباد بن یعقوب نے اس کے حوالے سے امام جعفر صادق کے حوالے سے ان کے والد امام باقر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

قضى باليمين مع الشاهد

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ کے ہمراہ قسم سے فیصلہ دے دیا تھا“

یہ روایت ”موطاء“ میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کے والد (امام باقر رضی اللہ عنہ) کے حوالے سے ”مرسل“ روایت کے

طور پر منقول ہے۔

۳۰۹۴- سری بن عبد الحمید.

یہ بقیہ کا استاد ہے، یہ متروک الحدیث ہے۔

اس سے یہ روایت منقول ہے کہ نماز خوف سہو نہیں ہوگا۔

۳۰۹۵- سری بن مخلد.

میں اس سے واقف نہیں ہوں ازدی کہتے ہیں: یہ انتہائی ضعیف ہے۔

۳۰۹۶- سری بن یحییٰ (س) بن ایاس (بن حرملة)

(اس کی کنیت اور اسم منسوب) ابوالہیثم شیبانی بصری ہے۔

اس نے حسن اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں اس سے ابن وہب، سعید بن ابومریم، ابوالولید اور متعدد افراد نے روایات

نقل کی ہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے، ثقہ ہے۔ ابو الفتح کہتے ہیں: اس کی حدیث منکر ہے ابو الفتح نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو تکلیف دی ہے ابو عمر بن عبد البر جب ان کے اس قول پر مطلع ہوئے تو وہ غصے میں آگئے اور انہوں نے اس کے سامنے یہ لکھ دیا: سری بن یحییٰ نامی راوی اس کتاب کے مصنف یعنی ازدی سے زیادہ ایک سو گنا زیادہ ثقہ ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے اسے ”ثقہ“ قرار دیا ہے اس کا انتقال حماد بن سلمہ کے ساتھ ہوا تھا تاریخ فسوی میں یہ بات مذکور ہے: ضیاء بن عبیدہ بیان کرتے ہیں: میں نے ایک شخص کو عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ان کے ہاتھ کو ہاتھ میں پکڑ کر چلتے ہوئے دیکھا جب انہوں نے نماز ادا کر لی تو میں نے ان سے دریافت کیا تو وہ بولے: اے ضیاء کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ تو میں نے جواب دیا: جی ہاں! تو وہ بولے: میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم ایک نیک آدمی ہو، وہ میرے بھائی حضرت خضر تھے انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ میں عنقریب حکمران بنوں گا اور انصاف سے کام لوں گا۔

(سعاد، سعدان)

۳۰۹۷۔ سعد بن عبدالرحمن (ق)

ایک قول کے مطابق اس کا نام سعد بن سلیمان ہے اس نے عون بن ابوجحیفہ سے روایات نقل کی ہیں۔
امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ شیعہ ہے۔ قوی نہیں ہے۔

۳۰۹۸۔ سعدان بن اشوع ہمدانی

اس نے شعی سے روایات نقل کی ہیں میں واقف نہیں ہوں کہ کس نے اس کا یہ نام بیان کیا ہے۔
(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: شاید یہ سعید بن اشوع کا لقب ہے۔

۳۰۹۹۔ سعدان بن بشر ابو مجالد

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”قوی“ نہیں ہے۔

۳۱۰۰۔ سعدان بن سعد لثبی

امام ابن ابو حاتم نے اس کا تذکرہ کیا ہے یہ مجہول ہے

۳۱۰۱۔ سعدان بن سعید حکمی

اس نے مقاتل بن سلیمان سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

۳۱۰۲- سعدان بن عبدہ قذاحی

اس نے عبید اللہ عتکلی سے روایات نقل کی ہیں، ابن عدی کہتے ہیں: یہ غیر معروف ہے۔

۳۱۰۳- سعدان بن ہشام رقی.

یہ مجہول ہے

۳۱۰۴- سعدان بن یحییٰ اہلبی.

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ اس پائے کا نہیں ہے۔

۳۱۰۵- سعدان حکمی.

اس نے مقاتل سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

(سعد)

۳۱۰۶- سعد بن الاخرم (ت) طائی کوفی.

اس نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، اس کا بیٹا مغیرہ اس سے روایت نقل کرنے میں منفرد ہے۔ اس سے درج ذیل روایت منقول ہے:

لا تتخذوا الضیعة فترغبوا فی الدنیا.

”تم زیادہ ساز و سامان حاصل نہ کرو ورنہ تم دنیا میں راغب ہو جاؤ گے“

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ”حسن“ قرار دیا ہے۔

۳۱۰۷- سعد بن اوس (عو) عبسی

اس نے بلال بن یحییٰ سے روایات نقل کی ہیں، یہ ”صدوق“ ہے، بعض حافظان حدیث نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، صرف ازدی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، یہ کوفی ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ صالح ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس سے ابو نعیم، ابو احمد زبیری اور متعدد افراد نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن جوزی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایات منکر ہیں۔

۳۱۰۸- سعد بن اوس (د، ت، س) بصری.

اس نے ابو یحییٰ سے روایات نقل کی ہیں۔ بلغ خطیب تھا۔

ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے؛ دیگر حضرات نے اسے ضعیف قرار دیا ہے؛ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ ”الثقات“ میں کیا ہے۔

۳۱۰۹۔ سعد بن حبیب

اس نے حسن سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۱۱۰۔ سعد بن زنبور

اس نے فلاں سے روایات نقل کی ہیں؛ یہ دونوں راوی مجہول ہے۔

۳۱۱۱۔ سعد بن زیاد، ابو عاصم

اس نے سالم سے روایات نقل کی ہیں؛ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ متین نہیں ہے؛ موسیٰ بن اسماعیل اور قواریری نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۱۱۲۔ سعد بن سعید (م، عو)،

یہ یحییٰ بن سعید انصاری مدنی کا بھائی ہے؛ اس کا شمار تابعین میں کیا جاتا ہے۔

احمد بن حنبل نے اسے ضعیف قرار دیا ہے؛ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”قوی“ نہیں ہے۔

ابن سعد کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے؛ تاہم اس نے تھوڑی روایات نقل کی ہیں۔

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے؛ جو اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ جس میں شوال کے چھ نفلی روزوں کا تذکرہ ہے؛ اور اس میں اس روایت کا مدار اسی پر ہے۔

اس سے اس کے بھائی شعبہ اور دونوں سفیانوں نے روایات نقل کی ہیں۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

كسر عظم البيت ككسره حيا .

”میت کی ہڈی کو توڑنا؛ زندہ شخص کی ہڈی کو توڑنے کی مانند ہے“

ابن عدی کہتے ہیں: میں اس کی نقل کردہ حدیث میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔

ابومعادیہ نے اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے:

انها اهدت بدنيتين فضلتا

”انہوں نے دو جانور قربانی کے لیے بھیجے؛ وہ دونوں گم ہو گئے“

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: سعد بن سعید ”مود“ ہے۔

ہمارے شیخ ابن دقیق العید کہتے ہیں: لفظ ”مود“ کے تلفظ کے بارے میں اختلاف ہے؛ بعض حضرات نے اسے تخفیف کے ساتھ

پڑھا ہے، یعنی یہ ہلاکت کا شکار ہونے والا ہے، جب کہ بعض حضرات نے اسے ”شد“ کے ساتھ پڑھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی طرح سے ادا ہوگی کرنے والا ہے۔

۳۱۱۳- سعد بن سعید بن ابوسعید مقبری (ق).

اس نے اپنے بھائی سے روایات نقل کی ہیں، اس کی کنیت ابوہل ہے، ابن عیینہ کہتے ہیں: یہ قدریہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہشام بن عمار کہتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاة له، لا صلاة لمن لا وضوء له

”ایسے شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو نماز نہ پڑھتا ہو، ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی، جس کا وضو نہ ہو۔“

ابن عدی کہتے ہیں: میں نے سعد کے بارے میں متقدمین کا کوئی کلام نہیں دیکھا اور اس کی نقل کردہ روایات میں اس کی متابعت نہیں کی گئی ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام روایات اس کے بھائی عبداللہ سے منقول ہیں اور عبداللہ نامی راوی کو ایک مرتبہ ساقط قرار دیا گیا ہے، ایک قول کے مطابق اس کا نام ”عباد“ ہے۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مستقیم ہے، خرابی کی جزا اس کا بھائی ہے۔

۳۱۱۴- سعد بن سعید

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

اللهم انك اخر جنتي من احب البلاد الي، فاسكنني احب البلاد اليك.

”اے اللہ! تو نے مجھے اس شہر سے نکالا ہے، جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا، تو اب تو مجھے اس شہر میں رہائش عطاء

کر جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔“

یہ روایت امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل کی ہے۔

۳۱۱۵- سعد بن سعید جرجانی

اس نے نہشل سے روایات نقل کی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت درست نہیں ہے، یعنی درج ذیل

روایت:

اشراف امتی حملة القرآن.

”میری امت کے معزز لوگ وہ ہیں، جو قرآن کے عالم (یا حافظ) ہوں۔“

ابن عدی کہتے ہیں: یہ ایک نیک شخص تھا، اس کا لقب ”سعدویہ جرجانی“ ہے، اس کے حوالے سے ایک ایسی روایت منقول ہے، جو اس نے ثوری سے نقل کی ہے، جس کی متابعت نہیں کی گئی۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال: یقول اللہ: ایہا الشاب التارک شہوتہ لی، المتبذل شبابہ من اجلی، انت عندی کبعض ملائکتی، لک عندی بکل یوم ولیلۃ اجر صدیق.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے وہ نوجوان جس نے میری خاطر اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرے لیے اپنی جوانی کو خرچ کر دیا، تو میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کی مانند ہے اور میری بارگاہ میں تجھے ہر دن اور ہر رات کے عوض میں صدیق کا عمل ملے گا“

اس روایت کی سفیان کی طرف نسبت جھوٹی ہے، البتہ جہاں تک قرآن کے عالم (یا حافظ) والی حدیث کا تعلق ہے، تو اسے ایک اور سند کے ساتھ بھی نقل کیا گیا ہے، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر منقول ہے۔

۳۱۱۶۔ سعد بن سعید ساعدی۔

اس نے سفیان ثوری سے روایات نقل کی ہیں۔ اس سے ابو نعیم نے روایات نقل کی ہیں۔

۳۱۱۷۔ سعد بن سنان (ق، د، ت)

اور ایک قول کے مطابق سنان بن سعد ہے، اس نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں نے اس کی احادیث کو نوٹ نہیں کیا، کیونکہ اس کی روایت میں ”اضطراب“ پایا جاتا ہے اور اس میں بھی اضطراب پایا جاتا ہے۔

جو زجانی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایات ”واہی“ ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے۔

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ضعیف“ ہے، ابن قتان نے یہ بات نقل کی ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے: کہ صدقہ کی وصولی میں زیادتی کرنے والا شخص زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کی مانند ہے۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے: یہ حدیث ”حسن“ ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

تقبلوا لی بست اتقبل لکم بالجنة، اذا حدث احدکم فلا یکذب.. و ذکر الحدیث.

”تم مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا، جب کوئی شخص بات کرے تو غلط بیانی نہ کرے“

اس کے بعد پوری حدیث ہے اسی سند کے ساتھ یہ روایت بھی منقول ہے:

اذا اراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا.
 ”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے (کسی جرم کی) دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے“
 اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی منقول ہے:

بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم.
 ”قیامت سے پہلے ایسے فتنے ہونگے جو تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند ہونگے“
 اسی سند کے ساتھ یہ روایت بھی منقول ہے۔

اذا احب الله قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا، من سخط فله السخط.
 ”جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تو جو شخص (اس آزمائش سے) راضی رہتا ہے اسے (اللہ تعالیٰ کی) رضامندی نصیب ہوتی ہے اور جو شخص ناراض ہوتا ہے اسے ناراضگی نصیب ہوتی ہے“
 اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

لا تقوم الساعة على احد يقول: لا اله الا الله، يا امر بالمعروف، ينهى عن المنكر.
 ”ایسے کسی شخص پر قیامت قائم نہیں ہوگی جو لا اله الا الله پڑھتا ہو، نیکی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے منع کرتا ہو“
 سلیمانی کہتے ہیں: سعید بن ابویوب، ابن اسحاق، عمرو بن الحارث، ابن لہیعہ نے یزید بن ابوجیب کے حوالے سے، سنان بن سعد سے نقل کرتے ہیں یہ حضرات یونہی کہتے ہیں، اور یہی درست ہے۔

۳۱۱۸- سعد بن شعبہ بن حجاج.

امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس کے پاس اس کے والد کے حوالے سے بہت زیادہ روایات نہیں تھیں۔
 اس نے حسن بن یسار سے روایات نقل کی ہیں یہ ”صدوق“ ہے۔ شعبہ کہتے ہیں: میں نے اپنے دو بیٹوں کا نام سعد رکھا، لیکن نہ تو وہ سعادت مند ثابت ہوئے اور نہ ہی وہ کامیاب ہوئے وہ ان سے یہ کہا کرتے تھے: کہ تم ہشام دستوائی کے پاس جاؤ، تو وہ بچے آگے سے جواب دیتے تھے: میں کبوتر چھوڑنا چاہتا ہوں۔

نباتی اور عقیلی نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔

۳۱۱۹- سعد بن طارق (م، عو)، ابو مالک الشجعی.

احمد اور ابن معین رضی اللہ عنہما نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ”صالح الحدیث“ ہے، اس کی حدیث کونٹ کیا جائیگا۔

عقیلی کہتے ہیں: قنوت کے بارے میں اس کی نقل کردہ روایت کی متابعت نہیں کی گئی۔

نباتی کہتے ہیں: یہ بات بیان کی گئی ہے، یحییٰ القطان اس سے روایت نقل کرنے سے رک گئے تھے،

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس کے والد کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے اور اس نے سعد بن یزید بن ہارون اور دیگر لوگوں کے حوالے سے احادیث بیان کی ہیں۔

۳۱۲۰- سعد بن طالب۔

اس نے حماد سے روایات نقل کی ہیں، اس کی کنیت ابو غالب شیبانی ہے۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی حدیث میں ضعف پایا جاتا ہے۔ ابو زرہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اس سے احمد بن یونس اور دیگر نے روایات نقل کی ہیں۔

۳۱۲۱- سعد بن طریف (ت، ق) اس کا حفظی کوئی۔

اس نے عکرمہ اور ابو اہل سے روایات نقل کی ہیں۔ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: کسی بھی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اس سے روایت نقل کرے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ابو حاتم کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے۔

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ فوری طور پر احادیث گھڑ لیا کرتا تھا، فلاس کہتے ہیں۔ یہ ضعیف تھا اور غالی شیعہ تھا۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: محدثین کے نزدیک یہ قوی نہیں ہے۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے۔

لا تسلم علی اصحاب الریاحین ولا علی اصحاب الشطرنج۔

فسق و فجور کی مجلس والوں اور شطرنج کھیلنے والوں کو سلام نہ کرو۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاع من تمر لرجل، فقال لرجل من الانصار: اقضه،

فاعطاه نمرًا دون تمرہ فردہ۔ فقال الانصاری: اترد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمرہ؟ قال:

نعم، من احق بالعدل منه! قال: فاكتحلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دموعًا. فقال: خذ،

من احق بالعدل منی، انه لا تقدس امة لا یاخذ ضعیفها حقہ من قویها، هو لا یتتبعتم. ثم قال: یا

خولة، عدیہ واقضیہ وادھنیہ، فأنه لیس من غریم یخرج من عند غریبہ وهو راض الاصلت علیہ

دواب الارض وحبیتان البحار، لیس من غریم یلوی غریبہ وهو یجد الاکتب علیہ فی کل یوم

ولیلۃ اثم۔

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھجوروں کا ایک صاع ادا کرنا تھا، آپ نے ایک انصاری شخص سے کہا: اسے ادا کیج کر دو،

اس نے اسے ایسی کھجوریں دیں جو اس کی دی ہوئی کھجوروں سے کم تر حیثیت کی تھیں، تو وہ اس نے واپس کر دیں، انصاری نے

کہا: کیا تم نبی اکرم ﷺ کی دی ہوئی کھجوریں واپس کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں! انصاف کرنے کا حق دار نبی اکرم ﷺ سے زیادہ اور کون ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں:

نبی اکرم ﷺ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ ﷺ نے فرمایا: انہیں لے لو مجھ سے زیادہ انصاف کرنے کا حق دار اور کون ہوگا؟

ایسی امت پاکیزگی اختیار نہیں کر سکتی، جس کے کمزور شخص کا حق طاقت ور شخص سے وصول نہ کیا جائے، اور وہ بھی اپنے حق کی وصولی کے لئے حرکت نہ کرے، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اے خولہ تم شاکر کرو اور ادا کرو اور زیادتی کر کے ادا کرو، کیونکہ جب بھی کوئی قرض خواہ اپنے مقروض کے پاس سے راضی ہو کر نکلتا ہے، تو زمین کے جانور اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائے رحمت کرتی ہیں اور جو مقروض اپنے قرض خواہ سے ٹال منول کرتا ہے، تو وہ قیامت کے دن یہی صورت حال پائے گا کہ اس کے لیے ہر ایک دن کے عوض میں گناہ لکھا گیا ہوگا۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

قال رسول الله صلى الله وسلم: تحفة الصائم الدهن والمجمر.

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: روزہ دار کا تحفہ تیل اور عود ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادمن الاختلاف الى المسجد اصاب اخا مستفادا في الله، علما مستطرفا، كلمة تدله على هدى، اخرى تصرفه عن الردى، رحمة منتظرة، يتريك الذنوب حياء او خشية

”میں نے نبی اکرم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے: جو شخص باقاعدگی سے مسجد آتا جاتا ہو اور اپنے کسی بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے ملتا ہو اور علم حاصل کرتا ہو یا کسی ہدایت کی بات کی طرف رہنمائی کرتا ہو یا کسی دوسرے کو برائی سے بچا لیتا ہو تو رحمت منتظر ہوتی ہے اور وہ حياء کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے جرم کو ترک کر دے۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من صلى الفجر ثم جلس حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين حرمه الله على النار ان تطعبه.

”جو شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر سورج نکلنے تک بیٹھا رہے، پھر دو رکعت ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ جہنم پر یہ بات حرام کر دیتا ہے کہ وہ اس شخص کو کھائے۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

اذا سمعتم بئوت مؤمن او مؤمنة فبادروا الى الجنة، فانه اذا مات مؤمن امر الله جبرائيل ان ينادى: رحم الله من شهد جنازة هذا العبد، فبن شهدا غفر له وكتب الله لبن شهدا بكل قدم

اثنی عشرۃ حجة وعبرة، كتب له بكل تكبيرة عليها ثواب اثني عشر الف شهيد، كانا اعتق بكل شعرة على بدنه رقبة، اعطاه الله بكل حرف من دعائه ثواب نبي، اعطاه قنطارا، كتب له عبادة سنة، اعطاه بكل مرة ياخذ السرير مدينة في الجنة، استغفر له ملائكة السموات.. الى ان قال: وفضل الباشي خلفها كفضلى على ادناكم

”جب تم کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کی فوتگی کے بارے میں سنو، تو جنت کی طرف تیزی سے جاؤ، کیونکہ جب کوئی مومن مرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ یہ اعلان کرے: کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے، جو اس بندے کے جنازے میں شریک ہوگا، تو جو شخص اس جنازے میں شریک ہوتا ہے، تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور جو شخص اس جنازے میں شریک

ہوتا ہے، اس کے ہر ایک قدم کے عوض میں اسے 12 حج اور عمروں کا ثواب عطا کرتا ہے اور اس کی نماز جنازہ کی ہر ایک تکبیر کے عوض میں اس کے لیے بارہ ہزار شہیدوں کا ثواب نوٹ کیا جاتا ہے، گویا کہ اس نے مرحوم کے ہر ایک بال کے عوض میں ایک غلام کو آزاد کیا، اور اس کی دعا کے ہر ایک حرف کے عوض میں اللہ تعالیٰ اسے ایک نبی کا ثواب عطا کرتا ہے اور اسے قطار عطا کرتا ہے اور اس کے لیے ایک سال کی عبادت کو نوٹ کر لیتا ہے اور وہ جتنی مرتبہ چار پائی کو کندھا دیتا ہے، اس میں سے ہر ایک مرتبہ کے عوض میں اسے جنت میں ایک شہر عطا کرتا ہے اور آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ نبی اکرم ﷺ نے یہ بھی فرمایا: کہ جنازے کے پیچھے چلنے والے کو وہی فضیلت ہوتی ہے، جو مجھے تم میں سے ادنیٰ فرد پر حاصل ہے“

یہ روایت قطعی طور پر جھوٹی ہے مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ اس آدمی کی ایجاد ہے یا پھر اس کی طرف منسوب کی گئی ہے۔

۳۱۲۴- (صحیح) سعد بن عبد الحمید (ت، س، ق) بن جعفر انصاری

اس نے فلیح اور مالک سے روایات نقل کی ہیں، اس سے عباس دوری، ابراہیم حربی اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ان لوگوں میں سے ایک ہے، جن کی غلطیاں انتہائی فحش ہوئیں، اس لیے ان سے استدلال نہیں کیا جاتا۔

۳۱۲۳- سعد بن عثمان (د، ت، س) رازی دمشقی.

اس نے ایک صحابی سے روایات نقل کی ہیں، جنہیں اس نے بخارا میں دیکھا تھا، یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ اس کا بیٹا عبد اللہ اس سے روایات نقل کرنے میں منفر د ہے۔

۳۱۲۲- سعد بن علی قاضی، ابو الوفاء نسوی.

اس نے ایک فرد کے حوالے سے امام فربری سے 470 ہجری میں ”صحیح بخاری“ روایت کی تھی، اس حوالے سے لوگوں نے اس پر

تہمت عائد کی تھی، پھر اس نے ایک دوسری قیامت یہ ڈھائی کہ یہ بیان کیا: ابراہیم نامی راوی نے مجھے یہ حدیث بیان کی ہے: کہ حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے اسے یہ حدیث بیان کی ہے، آپ اس واضح جھوٹ کی طرف خود ہی دیکھ لیں۔

۳۱۲۵- سعد بن عمران.

یہ ایک عمر رسیدہ شخص ہے، جس نے تھوڑی روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ واقفی کی مانند ہے (امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: واقفی کو بھی محدثین نے ”متروک“ قرار دیا تھا۔

۳۱۲۶- سعد بن عمار (ق) بن سعد قرظ.

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔

۳۱۲۷- سعد بن عیاض (د، س).

صرف ابواسحاق سبعی نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۱۲۸- سعد بن معاذ ابو عصیم مروزی.

یہ مجہول ہے، اس کی (نقل کردہ) حدیث جھوٹی ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

صام من الحرم الجعبة والسبت والخميس كتب الله له عبادة سبعمائة سنة.
”جو شخص جمعہ، ہفتہ اور جمعرات کے دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سات سو سال کی عبادت کا ثواب لکھ لیتا ہے“

۳۱۲۹- سعد بن منصور جدای

میں اس سے واقف نہیں ہوں، صفوان بن صالح المؤمن نے اپنی ”سند“ کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت مبارک بن احمد رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

انه لما بلغه قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد اليه فقبل اسلامه، وساله ان يكتب له كتاباً يدعو الي الاسلام، فكتب له رقعة من ادم: بسم الله الرحمن الرحيم.

هذا كتاب من رسول الله لبارك بن احمد، لمن اتبعه من المسلمين، اماناً لهم ما اقاموا الصلاة، اتوا الزكاة، اتبعوا المسلمين، جانبوا المشركين، ادوا الخس من المغنم، سهم الغارمين، سهم كذا، سهم كذا..

”جب انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اطلاع ملی، تو وہ وفد کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تحریر لکھ دیں، جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑے کے ٹکڑے پر یہ تحریر لکھوائی:

”اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتا ہوں، جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ مکتوب، اللہ کے رسول کی طرف سے مبارک بن احمد کے نام ہے، اور جو مسلمان اس کی پیروی کرتے ہیں، ان کے نام ہے، یہ ان کے لیے امان ہے، جب تک وہ نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، مسلمانوں کی پیروی کرتے رہیں، مشرکین سے لاتعلق رہیں، مال غنیمت میں سے خمس ادا کریں، تاوان ادا کرنے والوں کو حصہ اتنا اتنا ہوگا“

اس روایت کو نقل کرنے میں ولید نامی راوی منفرد ہے۔

۳۱۳۰- سعد

یہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے غلام حسن بن سعد کا والد ہے۔

۳۱۳۱- سعد، ابو حبیب.

اس نے یزید قاشی سے روایات نقل کی ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس کی حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

۳۱۳۲- سعد.

اس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایات نقل کی ہیں، اس کا بیٹا موسیٰ اس سے روایات نقل کرنے میں منفرد ہے۔

امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ مجہول ہے

۳۱۳۳- سعد مولیٰ طلحہ (ت).

اس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایات نقل کی ہیں، اس سے عبداللہ بن عبداللہ رازی نے روایات نقل کی ہیں، اس کے حوالے سے کفل کا واقعہ منقول ہے، امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس سے منقول روایات کو ”حسن“ قرار دیا ہے۔

(سعید)

۳۱۳۴- سعید بن ابان (ت) وراق.

شاید یہ اسماعیل ہو، امام ترمذی رضی اللہ عنہ کے استاد کو اس کے بارے میں وہم ہوا ہے۔

۳۱۳۵- سعید بن ابراہیم.

اس نے قتادہ سے روایات نقل کی ہیں۔ اس سے طاوت بن عباد نے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی ہے۔

۳۱۳۶- سعید بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف.

اسحاق بن فرات نے اس کا نام اسی طرح ذکر کیا ہے، اس نے مفضل بن فضالہ کے حوالے سے یونس بن یزید سے روایات نقل کی ہیں

لوگوں نے مفصل سے کہا: یہ وہ سعد ہے اس نے کہا: میرے نزدیک اس کا متن اسی طرح ہے یہ روایت چورکی سفارش کرنے کے بارے میں ہے اور ایک قول کے مطابق یہ روایت ”مرفوع“ ہے البتہ سعید نامی اس راوی کی شناخت پتہ نہیں چل سکی اور یہ روایت ”سنن دارقطنی“ میں منقول ہے۔

۳۱۳۷۔ سعید بن ابیض (د، ق) بن حمال۔

اس میں مجہول ہونا پایا جاتا ہے۔

۳۱۳۸۔ سعید بن ابراہیم۔

اس نے ثور بن یزید سے روایات نقل کی ہیں۔ اس سے بقیہ نے روایات نقل کی ہیں۔

۳۱۳۹۔ سعید بن ابراہیم بن معقل بن منب یمانی۔

۳۱۴۰۔ سعید بن ابی الابیض۔

اس نے ابوزناد سے روایات نقل کی ہیں۔ اس سے تعنبی نے روایات نقل کی ہیں۔

۳۱۴۱۔ سعید بن اسحاق مصری۔

اس نے لیث سے روایات نقل کی ہیں یہ سب مجہول ہیں۔

۳۱۴۲۔ (صح) سعید بن اشوع (خ، م)۔

یہ کوفہ کا قاضی ہے یہ صدوق اور مشہور ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سعید بن عمرو بن اشوع ہے، یہ شععی کا شاگرد ہے۔

جو زجانی کہتے ہیں: یہ بھٹکا ہوا، بہکا ہوا شخص تھا ان کی مراد یہ ہے: کہ یہ شیعہ تھا۔

۳۱۴۳۔ سعید بن انس۔

اس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مظالم کے بارے میں روایات نقل کی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت کی متابعت نہیں کی گئی۔

۳۱۴۴۔ (صح) سعید بن اوس (د، ت)، ابوزید انصاری نحوی۔

اس نے ابن عمون اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے۔

ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”لیثین“ قرار دیتے ہوئے اس کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ اس نے اس حدیث کی سند میں وہم کیا ہے۔

”فجر کو روشن کر کے پڑھو اور جزرہ وغیرہ نے اس کی توثیق بیان کی ہے“۔

خلف بزار نے اس کے سامنے احادیث پڑھ کر سنائیں تھیں، حسین بن حسن رازی نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ”صدوق“ ہے، ابن ابوحاتم کہتے ہیں: میں نے اپنے والد کو اس کے بارے میں اجمالی بات بیان کرتے ہوئے سنا، وہ اس کی شان کو بلند کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے: یہ ”صدوق“ ہے، ابو عبیدہ آجری بیان کرتے ہیں: امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا: تو وہ بولے: امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ اس سے قدریہ فرقے سے تعلق کا الزام مسترد کرتے تھے، انہوں نے یہ بھی بتایا: بندار نے مجھ سے کہا ہے: کہ میں نے انصاری کو اسے جھوٹا قرار دیتے ہوئے سنا ہے۔

ابوزید انصاری سے ابو عبیدہ اور اسماعیل نے روایات نقل کی ہیں اور یہ دونوں جھوٹے ہیں اور ان دونوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو ان دونوں نے جواب دیا: تم کیا چاہتے ہو کہ پاک دائمی پرہیزگاری یا اسلام (کسی چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟)

۳۱۴۵- (صح) سعید بن ایاس (ع) ابو مسعود جریری بصری

یہ ثقہ علماء میں سے ایک ہے اور تھوڑے سے تغیر کا شکار ہو گیا تھا، اسی وجہ سے یحییٰ القطان نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، ایک جماعت نے اسے ”ثقہ“ قرار دیا ہے۔

اس نے ابو طفیل، ابو عثمان نہدی سے روایات نقل کی ہیں، ابن علیہ، یزید بن ہارون ایک مخلوق نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ اہل بصرہ کا محدث تھا، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ انتقال سے کچھ عرصہ پہلے حافظے میں تغیر کا شکار ہو گیا تھا۔

محمد بن ابوعدی کہتے ہیں: ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب نہیں کرتے، ہم نے جرتج سے احادیث کا سماع کیا ہے، لیکن یہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، یحییٰ بن معین کہتے ہیں: یحییٰ بن سعید نے عیسیٰ بن یونس سے دریافت کیا: کیا تم نے جرتج سے اس وقت سماع کیا تھا جب وہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! تو یحییٰ بن سعید نے کہا: تم اس سے روایات نقل نہ کرو۔

یحییٰ بن سعید نے جرتج سے احادیث کا سماع کیا، لیکن وہ اس سے روایات نقل نہیں کرتے تھے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جرتج کی عمر کے آخری حصے میں اس کے پاس گئے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ایوب سختیانی نے جرتج کو سلیمان تیمی سے مقدم قرار دیا ہے، کیونکہ وہ قدریہ فرقے کے لوگوں سے بحث مباحثہ کیا کرتا تھا اور ایوب کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ ان سے بحث کرے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن حوالہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهجمون علي رجل معتجر ببرد حبرة يبائع الناس من

اهل الجنة، فهجمنا علي عثمان وهو معتجر ببرد حبرة يبائع الناس يزيذ البيع.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا: تم، اہل جنت سے تعلق رکھنے والے، ایک ایسے شخص کے پاس اکٹھے ہو گے، جس نے چادر

اڑھی ہوئی ہوگی، اور وہ لوگوں سے بیعت لے رہا ہوگا، راوی کہتے ہیں: کہ ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا، کہ

انہوں نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور وہ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔
جریری کے حوالے سے یہ روایت بھی منقول ہے۔

اذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الا حدث .

”جب دو خلفاء کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے تو بعد والے کو قتل کر دو“

اور یہ حدیث بھی ہے:

عليك السلام تحية البيت

”علیک السلام“ کہنا مردے کو سلام کرنے کا طریقہ ہے

اور اس کے علاوہ بھی روایات منقول ہیں جریری کا انتقال ایک سو چوالیس ہجری میں ہوا۔

۳۱۴۶۔ سعید بن بشر (عو)

یہ قادیہ کا شاگرد ہے۔

اس نے قادیہ، زہری اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں ابو مسہر، ابوالجہاہر، یحییٰ وحافظی نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

ابو مسہر یہ کہتے ہیں: ہمارے شہر میں اس سے بڑا ’حافظ الحدیث‘ نہیں تھا تاہم یہ ’منکر الحدیث‘ ہے۔

امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس کا محل ’صدق‘ ہے۔

امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: (محدثین نے) اس کے حافظے کے بارے میں کلام کیا ہے۔

بقیہ کہتے ہیں: میں نے شعبہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے: یہ زبان کے حوالے سے سچا ہے۔

عثمان نے یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ضعیف ہے عباس نے یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ راوی ’لیس

بشئء‘ ہے۔

فلاس کہتے ہیں: ابن مہدی نے اس کے حوالے سے ہمیں احادیث بیان کیں، پھر انہوں نے اسے ترک کر دیا۔

امام نسائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے ابن جوزی کہتے ہیں: شعبہ اور جیم نے اسے ’ثقة‘ قرار دیا ہے۔

ابن عیینہ کہتے ہیں: سعید بن بشر نے ہمیں حدیث بیان کی، وہ (حدیث کے) ’حافظ‘ تھے۔

ابوزرعہ نصری کہتے ہیں: میں نے ابو جہاہر سے کہا: سعید بن بشر ’قدریہ‘ فرقے سے تعلق رکھتا تھا؟ انہوں نے کہا: اللہ کی پناہ، میں

نے ابو مسہر کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا: میں اور محمد بن شعیب، سعید کے پاس آئے، اس نے کہا: اللہ کی قسم! میں یہ نہیں کہتا: کہ اللہ تعالیٰ نے

شرک و تقذیر میں طے کیا ہے، اور اس پر عذاب دے گا، پھر وہ بولا: میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میں نے خیر کا ارادہ کیا، لیکن شر

میں واقع ہو گیا۔

قادیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں ہمیں بتایا:

انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین توؤہم اذا

”کیا تم نے دیکھا نہیں، ہم نے کافروں پر شیاطین کو بھیجا، جو انہیں ابھارتے ہیں“
(قائد کہتے ہیں: یعنی وہ انہیں گناہوں کی طرف راغب کرتے ہیں۔

ہشام بن عمار کہتے ہیں: میں نے ایک محفل میں سعید سے سنا، کیا، لیکن وہ مجھ سے رخصت ہو گیا۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:
انه ليلة اسرى به وجد ريحا طيبا فقال: يا جبرائيل، ما هذا الريح؟ قال: ريح قبر الباشطة وابنها
وزوجها، كان بدء ذلك ان الخضر عليه السلام كان من اشراف بني اسرائيل، وكان مبره براهب
في صومعة، فتطلع اليه الراهب فعلمه الاسلام، فلما بلغ الخضر زوجه ابوه امرأة، فعلمها
الخضر، اخذ عليها - وكان لا يقرب النساء - فطلقها. ثم زوجه ابوه اخرى فعلمها، اخذ عليها الا
تعلم احدا، طلقها، فكتبت احداها وافشت الاخرى، فقالت: قد رايت الخضر فقيل: من رآه
معك؟ قالت: فلان، فسئل عنه وكان في دينهم قل من يكذب قبل، فنزوح المرأة الكاتمة رجل،
فبينما هي تشط ابنة فرعون اذا سقط المشط فقالت: تعس فرعون! فاخبرت اباها، كان للمرأة ابن
وزوج، فأرسل اليهم، فرادوا المرأة وزوجها ان يرجعا عن دينهما فايها. فقال: انى قاتلكم. قالا:
احسانا منك الينا ان قتلنا ان تجعلنا في بيت، ففعل. فلما اسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وجد
ريحا طيبة، فسأل جبرائيل، فأخبره.

”جس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، آپ نے پاکیزہ خوشبو پائی، تو دریافت کیا: اے جبرائیل! یہ خوشبو کس کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: یہ بال سنوار نے والی عورت، اس کے بیٹے اور اس کے شوہر کی قبر کی خوشبو ہے، اس (واقعہ کا) آغاز یوں ہوا، حضرت خضر علیہ السلام، بنی اسرائیل کے معززین میں سے تھے، وہ ایک راہب کے پاس سے گزرتے تھے، جو اپنی عبادت گاہ میں رہتا تھا۔ ایک دن راہب نے انہیں جھانک کر دیکھا اور انہیں اسلام کی تعلیم دی، جب حضرت خضر علیہ السلام بالغ ہوئے تو ان کے والد نے ان کی شادی ایک عورت کے ساتھ کر دی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس عورت کو (اسلام کی) تعلیم دی، اور اس سے عہد لیا (کہ وہ کسی کو اس بارے میں نہیں بتائے گی) حضرت خضر علیہ السلام بیویوں کے ساتھ قربت نہیں کرتے تھے، انہوں نے اس عورت کو طلاق دیدی، پھر ان کے والد نے ان کی شادی دوسری عورت کے ساتھ کر دی، انہوں نے اسے بھی (اسلام کی) تعلیم دی اور اس سے یہ عہد لیا کہ وہ کسی کو اس بارے میں نہیں بتائے گی، پھر انہوں نے اس عورت کو طلاق دیدی، ان دونوں میں سے ایک نے (اس راز کو) چھپا کر رکھا اور دوسری نے اسے فاش کر دیا، اس نے کہا: میں نے خضر کو دیکھا ہے اس سے پوچھا گیا تمہارے ہمراہ اسے کس نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا: فلاں نے، اس شخص سے ان کے بارے میں دریافت کیا گیا: تو اس سے پہلے ان کے دین میں شاذ و نادر ہی کوئی جھوٹ بولا کرتا تھا، جس عورت نے بات کو چھپا کر رکھا تھا اس کے ساتھ کسی اور مرد نے شادی کر لی، ایک دن وہ عورت فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی

تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو وہ بولی: فرعون برباد ہو جائے، فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو اس بارے میں بتایا اس عورت کا ایک بیٹا اور ایک شوہر تھے فرعون نے انہیں بلوایا اور عورت اور اس کے شوہر کو یہ پیشکش کی کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں ان دونوں نے انکار کیا فرعون بولا: میں تمہیں قتل کروادوں گا ان دونوں نے کہا: تم ہمارے ساتھ یہ بھلائی کرنا کہ اگر تم ہمیں قتل کر دو تو ہمیں ایک ہی قبر میں رکھنا تو فرعون نے ایسا ہی کیا۔ جب نبی اکرم ﷺ کو معراج ہوئی تو آپ ﷺ نے پاکیزہ خوشبو پائی آپ ﷺ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے آپ ﷺ کو (اس واقعے کے بارے میں) بتایا

اسے دو ثقہ راویوں نے اسی طرح ہشام سے نقل کیا ہے۔

یہ روایت ولید بن عتبہ نے ولید سے نقل کی ہے انہوں نے اس کی سند میں حضرت عبداللہ بن العزہ کا نام ساقط کیا ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

احد ابوی بلقیس کان جنیا

”بلقیس کے ماں باپ میں سے ایک جن تھا“

عباس دوری نے یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: سعید بن بشیر بصرہ کا رہنے والا تھا اس نے شام میں سکونت اختیار کی یہ عمران قطان کے قریب کا ہے۔

امام بخاری رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات فرماتے ہیں: ہمارا یہ خیال ہے یہ اس عبدالرحمن کے پاس آیا تھا جس کے حوالے سے ہشیم نے قتادہ سے روایات نقل کی ہیں۔

یعقوب نسوی بیان کرتے ہیں: میں نے ابو مسہر سے سعید بن بشیر کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے: ہمارے گروہ میں اس سے بڑا (احادیث کا) حافظ کوئی نہیں ہے، تاہم یہ ضعیف اور منکر الحدیث ہے۔ ابن نمیر کہتے ہیں: اس نے قتادہ سے منکر روایات نقل کی ہیں، امام ابو زرہ رضی اللہ عنہ نے کتاب ”الضعفاء“ میں اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے: اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا، ابو حاتم نے بھی اسی طرح کہا ہے وہ کہتے ہیں: اسے ”الضعفاء“ سے منتقل کر دیا گیا۔

اس کی نقل کردہ غریب روایات میں سے ایک روایت وہ ہے جو امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے (جو درج ذیل ہے)

من ادخل فرسا بین فرسین وقد امن ان يسبق فهو قمار، من ادخلها ولا يامن ان يسبق فليس بقمار.

”جو شخص دو گھوڑوں کے درمیان گھوڑا داخل کرے اور وہ اس بات سے مامون ہو کہ اس سے آگے نکلا جاسکے گا تو یہ قمار ہے جو شخص اس میں داخل کرے اور وہ مامون نہ ہو کہ اس سے آگے نکلا جاسکے گا تو یہ قمار شمار نہیں ہوگا“۔

یہ روایت معمر نے اور عقیل نے زہری کے حوالے سے چند اہل علم سے نقل کی ہے امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ سند زیادہ مستند ہے۔ میں نے کہا: ”یحییٰ بن سعید نے ابن مسیب سے یہ قول نقل کیا۔ مجھے حدیث بیان کی سعید بن بشیر نے مجھے حدیث بیان کی۔ قتادہ

نے انہوں نے حسن سے۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك (الاحزاب: ۷)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت اول النبيين في الخلق و آخرهم في البعث.

”اور جب ہم نے انبیاء سے ان کا میثاق لیا اور تم سے بھی“

”نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں: تخلیق کے اعتبار سے ”میں“ انبیاء میں سب سے پہلے ہوں اور بعثت کے اعتبار سب سے آخری ہوں۔“

ابن عدی کہتے ہیں: اس نے جو روایات نقل کی ہیں، میرے خیال میں ان میں کوئی حرج نہیں ہے، شاید اس نے وہم کا شکار ہو کر غلطی کی ہو۔

اہل دمشق کے پاس اس کی تصانیف ہیں، میں نے اس کی تصنیف کردہ ایک تفسیر بھی دیکھی ہے، اس پر سچائی غالب تھی۔

ایک قول کے مطابق اس کا انتقال 168 ہجری میں ہوا۔

۳۱۴۷۔ سعید بن بشیر (د) بخاری انصاری۔

اس نے ابن بیلمانی سے روایات نقل کی ہیں۔ اس سے صرف لیث بن سعد نے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ حدیث ”صحیح“ نہیں ہے۔

۳۱۴۸۔ سعید بن بشیر

اس نے حسن سے روایات نقل کی ہیں

امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ مجہول ہے، اس کی حسن سے ملاقات نہیں ہوئی، سہل بن شعیب نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۱۴۹۔ سعید بن بشیر قرشی

اس نے عبداللہ بن حکیم کنانی سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے، اسی طرح اس کا استاد (بھی مجہول ہے) یہ مصر میں رہتا تھا۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت بشیر بن قدامہ ضبابی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

ابصرت عینای حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقفا بعرفات علی ناقة له حمراء قصواء تحته قطيفة بولانية وهو يقول: اللهم اجعلها حجة غير رياء، ولا هباء، لا سبعة، الناس يقولون: هذا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم.

”میں اپنی ان دو آنکھوں کے ذریعے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرفات میں اپنی سرخ اونٹنی ”قصواء“ پر وقوف کیے ہوئے دیکھا، آپ کے نیچے بولانی چادر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ! اسے ایسا حج بنا دے، جس میں ریاکاری، سستی اور شہرت نہ ہو، جب کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔“

ابن عبدالحکم نامی راوی اسے نقل کرنے میں منفرد ہے۔

۳۱۵۰۔ سعید بن ابوبکر بن ابوموسیٰ اشعری

اس کی نقل کردہ حدیث منکر ہوتی ہے؛ جب کہ خرابی اس کے بعد والے (کسی راوی) میں ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

صلوا اقرباء کم، لاتجاؤ ذوہم ترثوا الضغائن.

”اپنے رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور ان کے ساتھ زیادتی مت کرو ورنہ اس کے نتیجے میں کینہ پیدا ہوگا۔“

اس کی نقل کردہ وہ روایات جن میں خلل پایا جاتا ہے ان میں سے ایک روایت یہ ہے:

”اللہ کی قسم! حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ربذہ میں ہمیں یہ بات بتائی: وہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کے پاس تھا، ”احد“ پہاڑ ہمارے سامنے آیا“

تو یہ وہ روایات ہیں جن کی وجہ سے فسوی نے ان کی نقل کردہ روایات کو منکر قرار دیا ہے؛ اگر ہم اس طرح وسوسوں کو اپنے اوپر آنے

دیں تو پھر ہمیں فاسد وہم کی وجہ سے بہت سی ثابت شدہ منقول روایات کو مسترد کرنا پڑے گا۔

زید بن وہب کے بارے میں ہم اپنے پر بطور خاص اعتدال کا دروازہ کھولیں گے، محدثین نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے

حوالے سے ان کی نقل کردہ ثابت شدہ حدیث کو مسترد کیا ہے؛ جو صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے؛ جب کہ زید سردار اور جلیل القدر

ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی؛ لیکن یہ ابھی راستے میں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ انہوں نے حضرت

عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صادقین (صحابہ کرام) سے روایات نقل کی ہیں۔ جب کہ ان کے حوالے سے مخلوق

نے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات نے انہیں ”ثقة“ قرار دیا ہے، یہاں تک کہ اعمش نے یہ کہا ہے: جب زید بن

وہب تمہیں کسی بھی شخص کے حوالے سے حدیث بیان کر دیں تو یہ یوں ہی ہوگی جیسے تم نے یہ حدیث اس شخص سے سنی ہے؛ جن کے حوالے

سے انہوں نے یہ حدیث تمہیں بیان کی ہے۔

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: ان کا انتقال نوے ہجری سے پہلے یا اس کے بعد ہوا تھا۔

۳۱۵۱۔ سعید بن شمامہ مکی

اس نے معلیٰ بن ہلال سے روایات نقل کی ہیں؛ ازدی کہتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے۔

۳۱۵۲۔ سعید بن جہمان (عمو)

اس نے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہا سے روایات نقل کی ہیں۔

یحییٰ بن معین نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے؛ امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ اس حدیث کا راوی ہے ”خلافت تیس سال رہے گی۔“

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”حسن“ قرار دیا ہے۔

حشر بن نباتہ اور عبد الوارث نے اس سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے، لیکن بعض لوگوں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، ابن عدی کہتے ہیں: مجھے یہ امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۳۱۵۳- سعید بن جندب

یہ تابعین میں سے ایک ہے، اس کے بیٹے عمر نے اس سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

۳۱۵۴- سعید بن حریر

اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۱۵۵- سعید بن حماد

یہ کج کامعاصر ہے۔

۳۱۵۶- سعید بن حوشب

اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۱۵۷- سعید بن خداش

اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن یحییٰ نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

(سعید نامی سابقہ چاروں راوی) مجہول ہیں۔

۳۱۵۸- (صح) سعید بن حسان (م، س، ق، ت)

اس نے مجاہد سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ”ثقة“ قرار دیا ہے اور ایک مرتبہ اس کے بارے میں توقف کیا

ہے۔

یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، ابن عیینہ، ابو احمد زبیری نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۱۵۹- سعید بن حکیم (د، س) قشیری

یہ بہز کا بھائی ہے، اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

اس کی شناخت صرف اس روایت کے حوالے سے ہے، جو داؤد دراق نے اس سے نقل کی ہے۔

۳۱۶۰- سعید بن حیان (د، س)

یہ ابو حیان تمیمی کا والد ہے، اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی۔

اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں اور اس کے حوالے سے اس کے بیٹے نے یہ حدیث نقل کی ہے۔
انا ثالث الشریکین۔

”دو شراکت داروں کے ساتھ، نیز ”میں“ ہوتا ہوں“

یہ روایت امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ نے نقل کی ہے، لیکن اس حدیث میں علت پائی جاتی ہے یہ روایت اسی طرح ابو ہام محمد بن زبرقان نے ابو حیان کے حوالے سے نقل کی ہے، جب کہ جریر نے حیان سے اس کے والد کے حوالے سے ”مرسل“ کے طور پر نقل کی ہے۔
اس کے حوالے سے ایک اور حدیث بھی منقول ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مناقب کے بارے میں منقول ہے۔

امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے: یہ روایت غریب ہے۔

۳۱۶۱- سعید بن حیان حمصی

قتیبہ بن سعید نے اسے دیکھا ہے، ذکر کیا ساجی کہتے ہیں: یہ جھوٹ بولتا تھا۔

۳۱۶۲- سعید بن خالد (ق) بن ابوطویل

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے۔

حرس لیلۃ علی الساحل افضل من عمل الف سنة، السنة ثلاثائة وستون یوما، الیوم مقدارہ الف سنة۔

”ساحل پر ایک رات پہرہ دینا، ایک ہزار سال کے عمل سے افضل ہے، ایسا سال جس کے تین سو ساٹھ دن ہوں اور ایک دن ایک ہزار سال کا ہو“

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ عجیب عبارت ہے، اگر یہ درست ہو، تو اس کا مجموعہ چھتیس کروڑ کی تعداد میں ہوگا۔
ابوزرعہ اور دیگر حضرات نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، یہ حدیث محمد بن شعیب نے اس سے نقل کی ہے۔

۳۱۶۳- سعید بن خالد (د، س، ق) قارظی

اس نے سعید بن مسیب سے روایات نقل کی ہیں، یہ ”صدوق“ ہے۔ نسائی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔
امام دارقطنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ (یعنی اس کا اسم منسوب) مدنی ہے اور اس سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔

۳۱۶۴- سعید بن خالد (د) خزاعی

اس نے ابن منکدر سے روایات نقل کی ہیں، ابوزرعہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس نے عبد اللہ بن فضل مدنی سے سماع کیا ہے، اور اس سے عبد الملک جدی نے سماع کیا ہے، اس میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس سے سلام کا جواب دینے کی روایت منقول ہے۔
امام طبرانی نے اپنی ”سنن“ کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن واه راقع، فسعيد من هلك على رقعته.
”مومن گناہگار، لیکن مغفرت طلب کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ شخص خوش نصیب ہے جو اپنی مغفرت پر مر جائے۔
اس روایت کو نقل کرنے میں سعید نامی راوی منفرد ہے۔

لفظ ”واہی“ کا مطلب گناہگار اور لفظ ”راقع“ کا مطلب مغفرت طلب کرنے والا ہے۔

۳۱۶۵۔ سعید بن خثیم (ت، س) ہلالی

اس نے یزید بن ابوزیاد، مسلم ملائی سے روایات نقل کی ہیں۔
اس کے حوالے سے اس کے بھتیجے احمد بن راشد نے روایات نقل کی ہیں۔ یحییٰ بن معین نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، اس سے اس کے بھتیجے احمد بن راشد نے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، ازدی کہتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے۔
ابن عدی کہتے ہیں: اس نے جو روایات نقل کی ہیں، وہ غیر محفوظ ہیں۔
ابراہیم بن عبد اللہ بن جنید کہتے ہیں: یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا: یہ شیعہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا: یہ شیعہ ہے، لیکن ثقہ ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: محاملی کی ”الذعاء“ میں اس کی عالی اسناد ہم تک پہنچی ہیں۔

۳۱۶۶۔ سعید بن داؤد (ع) زنبری

اس نے امام مالک سے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین کہتے ہیں: یہ ثقہ نہیں تھا، امام ابوزرعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔
امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس نے امام مالک سے ”مقلوب“ اشیاء روایت کی ہیں، اس نے ورقاء کا ابوزناد کے حوالے سے نقل کردہ صحیفہ مقلوب کر دیا اور اسے امام مالک کے حوالے سے ابوزناد سے بیان کر دیا، اس کی حدیث کو صرف تائیدی روایت کے طور پر نوٹ کیا جاسکتا ہے، اہل عراق نے اس سے احادیث نقل کی ہیں۔

اس نے امام مالک کے حوالے سے ان کی سند کے ساتھ حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے۔

ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الزبير يوم خيبر اربعة اسهم: سهين لفرسه، سهما له، سهما لقرابته

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو چار حصے عطا کیے تھے، دو حصے ان کے گھوڑے کے، ایک حصہ ان کا اور ایک حصہ ان کی قرابت کا“

اثر م کہتے ہیں: میں نے ابو عبد اللہ سے کہا: چند برس پہلے آپ نے مجھے زہری سے احادیث نوٹ کرنے کی ہدایت کی تھی، تو وہ بولے: اے میرے بھائی! مجھے علم نہیں لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ وہ اختلاط کا شکار ہو گیا ہے۔

عقیلی کہتے ہیں: اس کی کنیت ابو عثمان ہے اور اسے ابن ابو زہر کہا جاتا ہے، احمد بن علی کہتے ہیں: میں نے مجاہد بن موسیٰ سے سعید بن داؤد زہری کے بارے میں دریافت کیا، تو وہ بولے: میں نے عبد اللہ بن نافع صالح سے سوال کیا، میں نے کہا: اے ابو محمد! سعید بن داؤد یہ کہتا ہے: جب امام مالک نے ”موطا“ تحریر کی، تو خلیفہ مہدی نے انہیں یہ حکم دیا کہ وہ اسے ایک صندوق میں رکھ دیں، اور جب حج کا موقع آئے تو اسے لوگوں کے ذریعے عراق بھجوادیں تو امام مالک سے کہا گیا: آپ غور کر لیں، کیونکہ اہل عراق اس کے لیے اکٹھے ہوں گے، اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو آپ اسے ٹھیک کر لیں، تو امام مالک نے چار آدمیوں کے سامنے پڑھا، جن میں ایک میں (یعنی سعید بن داؤد زہری) تھا تو عبد اللہ بن نافع صالح بولے: سعید نے غلط بیانی کی ہے، اللہ کی قسم! میں تیس یا پینتیس سال تک امام مالک کے ساتھ، صبح و شام اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں، (اس دوران) بہت کم ایسا ہوا کہ میں ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پایا، میں نے انہیں کبھی کسی کے سامنے (اصلاح کے لیے) ”موطا“ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: سعید ”قوی“ نہیں ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت نے اس سے روایات نقل کی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”الادب المفرد“ میں اس سے روایت نقل کی ہے۔

۳۱۶۷- سعید بن دینار دمشقی.

اس نے ربیع بن صبیح سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

اذا دخل اهل الجنة الجنة اشتاقوا الى الاخوان، فيسير سرير هذا الى سرير هذا.. الحدیث.

”اہل جنت، جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو اپنے بھائیوں سے (ملاقات کے) مشتاق ہونگے، تو اس کا پلنگ چل کر

اُس کے پلنگ تک جائے گا“ الحدیث

۳۱۶۸- سعید بن دہشم

یہ نعیم بن حماد کا استاد ہے۔

اس نے ایک منکر روایت نقل کی ہے، جس کا متن یہ ہے:

الملائكة تفرح بخروج الشتاء لاجل المساكين.

”مساکین کی وجہ سے، فرشتے سردی کے رخصت ہونے پر خوش ہوتے ہیں“

یہ روایت نعیم نے اس کے حوالے سے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل

کی ہے

۳۱۶۹- سعید بن ذی لعوہ

اس نے امام شعیبی سے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ، ابو حاتم اور ایک جماعت نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، اس میں مجہول ہونا پایا جاتا ہے۔

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ دجال ہے، یہ کہتا ہے، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نشہ آور چیز پیتے ہوئے دیکھا ہے، یہ روایت وکیع نے سفیان، ابواسحاق کے حوالے سے، اس سے نقل کی ہے، جس نے (اس کی سند میں، راوی کا نام) سعید بن ذی حدان بیان کیا ہے، اسے وہم ہوا۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس نے لوگوں سے برخلاف روایات نقل کی ہیں۔

ابو حیان تمیمی نے شعیبی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

حرمت الخمر وہی من خسة، الخمر ما خامر العقل.

”جب شراب کو حرام قرار دیا گیا، تو یہ پانچ چیزوں سے بنائی جاتی تھی، نمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ دے“

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: نشہ آور چیز کے بارے میں یہ اہل کوفہ کی سب سے زیادہ ”ثبت“ حدیث ہے جو ان لوگوں نے اس کے برخلاف نقل کی ہے۔

۳۱۷۰- سعید بن ذؤیب (س) مروزی.

اس نے سلیمان بن حرب، ابن عیینہ، عبدالرزاق سے روایات نقل کی ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ”سنن“ کے علاوہ، اس سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ ”سنن“ میں ایک شخص کے حوالے سے، اس سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

دیگر حضرات نے یہ کہا ہے: ”صالح الحدیث“ ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ ”الثقات“ میں کیا ہے۔

۳۱۷۱- سعید بن ذی حدان، کوفی،

ابواسحاق کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایات نقل نہیں کی ہیں۔ یہ بات ابن مدینی نے بیان کی ہے۔

۳۱۷۲- سعید بن راشد مازنی سماک.

اس نے عطاء، زہری اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”سنا الحدیث“ ہے۔

عباس دوری نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”متروک“

ہے۔

اس کی نقل کردہ مفرد (یعنی جنہیں نقل کرنے میں یہ منفرد ہو) روایات میں سے ایک روایت یہ ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے

ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من اذن فهو یقیم.

”جو اذان دے، وہی اقامت کہے“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:
 لو جیء بالسّموات السبع والارضین السبع فوضعت فی کفة المیزان، جیء بلا الہ الا اللہ فوضعت فی
 الکفة الاخری لرجحت بہن.
 ”اگر سات آسمانوں اور سات زمینوں کو لا کر میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو لا کر دوسرے
 پلڑے میں رکھا جائے تو وہ (دوسرا پلڑا) بھاری ہوگا“

۳۱۷۳۔ سعید بن راشد (ت، ق)

شاید اس کا نام سعید بن ابوراشد ہے اس نے یعلیٰ بن مرہ سے روایات نقل کی ہیں جب کہ اس کے حوالے سے صرف عبد اللہ بن
 عثمان بن عثیم نے روایات نقل کی ہیں۔
 فضائل میں اس کی نقل کردہ اس حدیث کو، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ”حسن“ قرار دیا ہے:

حسین منی وانا من حسین
 ”حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں“

۳۱۷۴۔ سعید بن ابوراشد.

اس نے عطاء سے اور اس سے مروان بن معاویہ نے روایات نقل کی ہیں اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی شاید یہ سماک ہے۔

۳۱۷۵۔ سعید بن رحمہ بن نعیم مصیسی.

اس نے ابن مبارک سے روایات نقل کی ہیں اس نے ان سے کتاب ”الجبہا“ روایت کی ہے۔
 امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ثبوت راویوں کے برخلاف نقل کرنے کی وجہ سے اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔
 اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:
 من اعان ظالما باطل لیدحض بہ حقا فقد برء من ذمۃ اللہ وذمۃ رسوله.
 ”جو شخص باطل معاملے میں ظالم کی مدد کرتا ہے، تاکہ حق کو پرے کر دے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ اور اس کے رسول کے ذمہ
 سے لائق ہو جاتا ہے“

۳۱۷۶۔ سعید بن ابورزین.

اس نے اپنے بھائی سے روایات نقل کی ہیں اور اس سے لیث بن ابوسلیم نے روایات نقل کی ہیں اس کی شناخت پتہ نہیں چل
 سکی۔

۳۱۷۷- سعید بن رفاع

۳۱۷۸- سعید بن ابورعدہ

اس نے ابن سیرین سے روایات نقل کی ہیں (سعید بن رفاع اور سعید بن ابورعدہ) دونوں راوی مجہول ہیں۔

۳۱۷۹- سعید بن رواحہ بصری

یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کون ہے؟ ازدی کہتے ہیں: یہ ضعیف اور مجہول ہے۔

۳۱۸۰- سعید بن زربی (ت) ابو عبیدہ بصری۔

یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے، امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس کے پاس عجیب و غریب روایات ہیں، امام نسائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ”ثقف“ نہیں ہے، امام دارقطنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔

اس نے ثابت بنانی اور ابولیح ہذلی سے روایات نقل کی ہیں

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

ان حسن الصوت زينة القرآن.

”خوبصورت آواز، قرآن کی زینت ہے“

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے۔

قدمنا البصرة مع ابی موسیٰ وهو امیر فتهجد، فلما اصبح قيل له: اصلح الله الامير، لو رايت الي نسوة وقد اتينك يستمعن لقراءتك. فقال: لو علمت ان احدا يستمع قراءتي لذينت كتاب الله بصوتی ولحبرت تحبیرا.

”ہم لوگ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ بصرہ آئے، وہ امیر تھے، نماز تہجد ادا کرتے ہوئے، (انہوں نے خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کی) اگلی صبح ان سے کہا گیا: اللہ تعالیٰ امیر کو سلامت رکھے، کاش آپ ملاحظہ فرماتے کہ خواتین تک آپ کی تلاوت سننے کے لیے آئی ہوئی تھیں، تو وہ بولے: اگر مجھے پتہ ہوتا کہ کوئی میری تلاوت کو غور سے سن رہا ہے، تو میں اپنی آواز کے ذریعے اللہ کی کتاب کو آراستہ کرتا اور اسے اچھی طرح مزین کرتا“۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

الصبر عند الصدمة الاولى.

”صبرِ صدمہ کے آغاز میں ہوتا ہے“۔

۳۱۸۱- سعید بن زرعہ (ت)۔

ابن نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے دنیا کی محبت کے بارے میں روایت نقل کی ہے۔

اس سے حسن بن ہمام نے روایات نقل کی ہیں یہ دونوں مجہول ہیں
 (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: مرزوق شامی نے بھی اس سے روایات نقل کی ہیں ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ
 ”الثقات“ میں کیا ہے۔

”جامع ترمذی“ میں اس کے حوالے سے بخاری کو پانی کے ذریعے کم کرنے کی حدیث منقول ہے۔

۳۱۸۲- سعید بن زکریا (ت، ق) قرشی مدائنی۔

اس نے زمعہ بن صالح سے روایات نقل کی ہیں یہ ”صدوق“ ہے، بعض حضرات نے اسے کچھ ”لیثین“ قرار دیا ہے۔
 اثرم بیان کرتے ہیں: میں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا: ہم نے اس سے احادیث
 نوٹ کی تھیں، پھر ہم نے اسے ترک کر دیا، اس کی ذات کے حوالے سے، میرے نزدیک اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن یہ علم حدیث کا
 عالم نہیں ہے
 یحییٰ بن معین کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے، یحییٰ بن معین اس کی تعریف کیا
 کرتے تھے۔

محمود بن خدش کہتے ہیں: میں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ بن معین سے اس کے بارے میں دریافت کیا: تو ان دونوں نے اسے
 ”ثقة“ قرار دیا

امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں نے یحییٰ بن معین سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے: یہ راوی ”لیس بشیء“

ہے۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ اتا قوی نہیں ہے صالح جزرہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

۳۱۸۳- سعید بن زکریا

یہ اسماعیل کا بھائی ہے یہ مجہول ہے یہ قریشی ہے۔

۳۱۸۴- سعید بن زون علی بصری

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے امام
 بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی حدیث کی متابعت نہیں کی گئی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے۔
 ایک جماعت نے اس کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے:

یا انس، اسبغ الوضوء یزد فی عمرک.. الحدیث.

”اے انس! اچھی طرح وضو کرو یہ چیز تمہاری عمر میں اضافہ کرے گی۔“

کثیر بن عبداللہ ابلی نے یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرنے میں اس کی متابعت کی ہے۔

امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ انتہائی ضعیف ہے، امام دارقطنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔
امام ابو عبد اللہ حاکم فرماتے ہیں: اس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ”موضوع“ روایات نقل کی ہیں۔
احمد بن ہبہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ ”ابوالحسن سعید بن زون“ نامی اس راوی کا یہ بیان نقل کیا ہے:

كنت عند انس فسعته يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم ثمانى حجج، فقال: يا انس اسبع
الوضوء يزد في عمرك، سلم على من لقيت من امتي تكثر حسناتك، اذا دخلت على اهلك فسلم
عليهم يكثر خير بيتك، صل الضحى فانها صلاة الاوابين، وقر الكبير، ارحم الصغير ترافقني يوم
القيامة.

”میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا، میں نے انہیں یہ بیان کرتے ہوئے سنا: میں نے آٹھ سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے انس! اچھی طرح وضو کرو، یہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے گا، میری امت کے جس بھی فرد سے تمہاری ملاقات ہو تم اسے سلام کرو، یہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے گا، جب تم اپنے گھر جاؤ تو انہیں سلام کرو، تمہاری گھر میں بھلائی زیادہ ہوگی، چاشت کی نماز ادا کرنا، یہ رجوع کرنے والوں کی نماز ہے، بڑے کی تعظیم کرو، چھوٹے پر شفقت کرو، تمہیں قیامت کے دن میرا ساتھ نصیب ہوگا۔“

یہ حدیث ”منکر“ ہے۔

۳۱۸۵- سعید بن زیاد (د، س) شیبانی.

اس نے زیاد بن صبیح سے روایات نقل کی ہیں، امام دارقطنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: مجھے اس کے حوالے سے صرف مصلوب کرنے والی حدیث کا علم ہے، پھر انہوں نے فرمایا: اس پر اعتبار کیا جاسکتا ہے لیکن اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

۳۱۸۶- سعید بن زیاد بن فائد بن زیاد بن ابو ہند داری.

اس راوی نے اپنے آباؤ اجداد کے حوالے سے حضرت ابو ہند داری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے:
من لم يرض بقضائي فليطلب ربا سوائي.

”جو شخص میرے (تقدیر کے) فیصلے پر راضی نہیں ہوتا ہے اسے میرے علاوہ کوئی اور پروردگار تلاش کرنا چاہیے۔“
اسی سند کے ساتھ یہ بھی منقول ہے:

”نعم الطعام الزبيب يشد العصب، يذهب الوصب، يطفء الغضب، يطيب النكهة، يذهب البغم،
يصفى اللون.“

”کشمش کھانے کی عمدہ چیز ہے، یہ پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے، درد کو ختم کرتی ہے، غضب کو بجھاتی ہے، مزاج کو خوشگوار کرتی ہے اور بلغم کو ختم کرتی ہے۔“

ازدی کہتے ہیں: ”متروک“ ہے۔

ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے اور یہ کہا ہے: مجھے نہیں معلوم اس میں خرابی اس کی وجہ سے ہے؟ اس کے والد کی وجہ سے ہے؟ یا اس کے دادا کی وجہ سے ہے؟

۳۱۸۷- سعید بن زیاد (حب، د، ح، سی)۔

اس نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے دیگر حضرات یہ کہتے ہیں: اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی۔

سعید بن ابولہلال اس کے حوالے سے روایات نقل کرنے میں منفر دے۔

۳۱۸۸- سعید بن زید (حب، م، د، ت، ق) ابو حسن

یہ حماد بن زید کا بھائی ہے، اس کا انتقال زید بن حماد سے پہلے ہو گیا تھا۔

علی نے یحییٰ بن سعید کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ضعیف ہے، سعدی بیان کرتے ہیں: امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے یہ کہا ہے: یہ قوی نہیں ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ یہ مستقل مزاج نہیں ہے۔

امام ابو یعلیٰ موصلی نے اپنی سند کے ساتھ اس کے حوالے سے حضرت عروہ بن جعد باری رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی اجلبة من الغنم، فاعطانی دینارا، فقال: ابتع لنا منها شاة بدینار. قال فاشتریت شاتین بدینار، فبعت احداها بدینار وقدت الاخری مع الدینار الیہ، فدعا لی فی صفقة یمینی بالبرکة. فان کنت لایبع الرقیق بالکناسة فتبلغ الجاریة عشرة الف واکثر، فما ارجع ام. اهلنی حیث اربع اربعین الفا

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا ایک ریوڑ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دینار عطا کیا اور فرمایا: کہ ہمارے لیے ایک دینار کے عوض میں

بکری خرید لو، تو میں نے ایک دینار کے عوض میں دو بکریاں خرید لیں، پھر ان میں سے ایک بکری کو ایک دینار کے عوض میں فروخت کیا اور پھر دوسری بکری کو ایک دینار کے ہمراہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کیے ہوئے سودوں میں برکت کی دعا کی، پھر یہ عالم ہو گیا کہ میں کناسہ (کے بازار میں) کوئی غلام یا (کنیز) فروخت کرتا تھا، تو کنیز کی قیمت دس ہزار تک یا اس سے زیادہ ہو جاتی تھی اور جب میں اپنے گھر واپس آتا تھا، تو مجھے چالیس ہزار تک منافع ہو چکا ہوتا تھا“

اسد بن موسیٰ نے اپنی سند کے ساتھ ابو عالیہ رفیع کا بیان نقل کیا ہے:

حدثني عشرون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او اكثر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من كان له هوى سوى الجماعة يغضب ويرضى ويعرف فلا تعدونه شيئاً.

نبی اکرم ﷺ کے بیس اصحاب نے نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان مجھے بیان کیا ہے: ”جو شخص جماعت کے علاوہ کوئی خواہش رکھے گا تو خواہ وہ غضب ناک ہو یا راضی ہو یا وہ معاملات کا انتظام کرنے والا ہو تو تم اسے کچھ بھی شمار نہ کرو۔“

اس کا انتقال 167 ہجری میں ہوا۔

۳۱۸۹- سعید بن سالم (د، س) قداح.

اس نے ابن جریج کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایات نقل کی ہیں جب کہ اس سے امام شافعی اور علی بن حرب نے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات یہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عثمان داری کہتے ہیں: یہ اس پائے کا نہیں ہے۔

محمد بن مقرئ کہتے ہیں: میں نے اس سے روایات نوٹ کی ہیں، یہ ”مرجئی“ تھا۔

عبدالجمید بن ابورؤاد یہ کہا کرتے تھے: میں اس طرح کے مشکوک چیزیں لانے والے کو حدیث بیان نہیں کرتا، سفیان بن عیینہ اور مقرئ۔

ابن عدی نے اس کے حوالے سے کچھ احادیث نقل کی ہیں اور یہ کہا ہے: یہ میرے نزدیک ”صدق“ ہے۔

پھر انہوں نے اس کے حوالے سے یہ منکر روایت نقل کی ہے، جو امام ابویعلیٰ نے اپنی ”سند“ کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے:

من قرا القرآن ظاهراً او نظراً اعطى شجرة فى الجنة، لو ان غراباً افرخ تحت ورقة منها ثم ادرك ذلك الفرخ فنهض لادركه الهرم قبل ان يقطع تلك الورقة.

”جو شخص قرآن کو دیکھ کر یا زبانی طور پر پڑھتا ہے، اسے جنت میں درخت دیا جاتا ہے، اگر کوئی ”کوا“ اس کے ایک پتے کے

نیچے بچدے، پھر وہ بچہ اس کے نیچے اڑنا شروع کرے تو اس ایک پتے کو عبور کرنے سے پہلے وہ بوڑھا ہو جائیگا“

طبرانی نے ”معجم کبیر“ میں یہ روایت فریابی کے حوالے سے، محمد بن یحییٰ سے نقل کی ہے۔

ابوزرعہ کہتے ہیں: یہ ”صدق“ کے قریب ہے، امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس کا محل ”صدق“ ہے۔

۳۱۹۰- (صح) سعید بن ابوسعید (ع) مقبری.

یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا شاگرد اور ان کے شاگرد کا بیٹا ہے۔ یہ بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن اختلاط کا شکار نہیں ہوا۔

شعبہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے: اس نے عمر رسیدہ ہونے کے بعد ہمیں احادیث بیان کیں۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ابن مدینی اور ابو زرعہ اور نسائی کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے، ابن خراش اور دیگر حضرات یہ کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے۔

ابن سعد کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے لیکن انتقال سے چار سال پہلے یہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا۔

اس کا انتقال 125 ہجری میں، اور ایک قول کے مطابق 123 ہجری میں ہوا۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: میرا نہیں خیال کہ اس کے اختلاط کے دوران کسی نے اس سے (روایات کو) حاصل

کیا ہوگا، کیونکہ ابن عیینہ اس کے پاس آئے انہوں نے اس کا لعاب بہتے ہوئے دیکھا، تو اس سے (احادیث کا علم) حاصل نہیں کیا۔

امام مالک اور لیث نے اس سے روایات نقل کی ہیں، یہ بات کہی گئی ہے: اس کے بارے میں سب سے زیادہ ”ثبت“ لیث ہیں۔

۳۱۹۱۔ سعید بن سعید (سی) تغلمسی۔

اس نے سعید بن عمیر سے روایات نقل کی ہیں، ازدی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قوی قرار دیا ہے، کعب نے

اس سے استفادہ کیا ہے۔

۳۱۹۲۔ سعید بن ابوسعید زبیدی

اس نے ہشام بن عروہ سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ بقیہ نے اس سے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی اور اس

کی نقل کردہ روایات ساقط الاعتبار ہیں۔

ابن عدی کہتے ہیں: اس کی (نقل کردہ) احادیث محفوظ نہیں ہیں۔

بقیہ نے، سعید زبیدی، بشر بن منصور، علی بن جدعان، ابن میتب کے حوالے سے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی

ہے:

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: یا سلیمان، کل طعام وشراب وقعت فیہ دابة لیس لها دم فباتت

فهو الحلال اكله وشربه ووضوءه.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے سلمان! ہر وہ کھانے یا پینے کی چیز، جس میں کوئی ایسا جانور گر کر (مر جائے) جس کا خون نہ

ہو، تو اس چیز کو کھانا، پینا اور اس سے وضو کرنا جائز ہے“

۳۱۹۳۔ سعید بن ابوسعید (ت، ق)

یہ ابن حزم کا غلام ہے، موسیٰ بن عبیدہ کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایات نقل نہیں کی ہیں۔

۳۱۹۴۔ سعید بن ابوسعید عیار صوفی۔

اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، تو یہ ”صدوق“ ہوگا، یہ مشہور شخص ہے، تاہم اس نے بشر بن احمد اسفرائینی سے جو روایات نقل کی ہیں، ابوصالح

مؤذن نے ان میں ضمن کیا ہے۔ (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس بات کا احتمال موجود ہے کہ اس کی اس سے ملاقات ہوئی ہو، کیونکہ ”سعید“ ان افراد میں سے ایک ہے جن کی عمر ایک سو سال سے زیادہ ہوئی۔

ابن طاہر کہتے ہیں: اس نے شیخ ابو نصر سراج کی کتاب ”اللمع“ روایت کی ہے، اس وجہ سے، اس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:، اس کے عالی (اسناد والی روایت میں سے) بعض ہمیں بھی ملی ہیں۔ اس کا انتقال 457 ہجری میں ہوا۔

۳۱۹۵- سعید بن سفیان (ت).

اس نے شعبہ سے روایات نقل کی ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قوی قرار دیا ہے، ابن مدینی کہتے ہیں: اس کی حدیث رخصت ہوگئی، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کا محل ”صدق“ ہے۔

۳۱۹۶- سعید بن سفیان اندلسی.

اس نے (علم حدیث کی طلب میں) سفر کیا اور اسحاق دبری تک پہنچ گیا۔ ابن فرضی کہتے ہیں: یہ آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گیا تھا۔

۳۱۹۷- سعید بن سفیان (ق) سلمی.

اس نے امام جعفر صادق سے روایات نقل کی ہیں، ابن ابوفدیکنے اس سے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قوی قرار دیا ہے۔

۳۱۹۸- سعید بن سلام عطار.

عبدالرزاق کے ہم عصر لوگوں میں سے کسی نے ثور بن یزید اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، ابو مسلم کجی، کدیبی، (اور ان کے) طبقے کے افراد نے اس سے روایات نقل کی ہیں، ابن نمیر نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حدیث ایجاد کرنے کے حوالے سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کہتے ہیں: یہ ”بصری“ ضعیف ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ کذاب ہے۔

اس کی نقل کردہ منکر روایات میں سے ایک وہ ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی

ہے:

استعينوا على انجاح الحوائج بالكتبان، فان كل ذي نعمة محسود.

”ضروریات کی تکمیل کے لیے، پوشیدہ رکھنے سے مدد حاصل کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔“

احمد بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: سعید بن سلام بصری میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۳۱۹۹- سعید بن سلمہ بصری

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہے۔

۳۲۰۰- سعید بن سلیمان بن فہد.

(سعید نامی یہ) دونوں راوی مجہول ہیں۔

۳۲۰۱- سعید بن سلمہ (م، س) بن ابو حسام بصری

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اعتماد کیا ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے روایت نقل کی ہے اور انہوں نے اسے ضعیف قرار دیا

ہے

وہ کہتے ہیں: یہ عمر رسیدہ شخص ضعیف ہے، ہم نے حدیث میں زیادت کی وجہ سے یہ روایت (اس راوی کے حوالے سے) نقل کی

ہے۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں نے یحییٰ بن معین سے اس کے بارے میں دریافت کیا، تو وہ اس سے واقف نہیں تھے۔

ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر ”اشقات“ میں کیا ہے۔

اس نے ابن منکدر اور عمرو بن ابو عمرو سے روایات نقل کی ہیں، اس سے تہذیبی، عبد اللہ بن رجا اور ایک جماعت نے روایات نقل کی

ہیں۔

۳۲۰۲- سعید بن سلمہ مدنی

اس نے یہ حدیث نقل کی ہے: ”اس کا پانی طہارت کے حصول کا ذریعہ ہے، تو یہ ”صدوق“ ہے۔

مغیرہ بن ابو بردہ کے حوالے سے، اس روایت کو نقل کرنے میں یہ منفرد ہے، تاہم امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

۳۲۰۳- سعید بن سلمان (ت).

اس نے یزید بن نعامہ سے روایات نقل کی ہیں، اس سے صرف عمران القصیر نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر ”اشقات“ میں کیا ہے۔

۳۲۰۴- (صح) سعید بن سلیمان (ع) بن کنانہ واسطی سعدویہ حافظ.

یہ ثقة، مشہور اور علم حدیث کا ماہر ہے، یہ کپڑے کا کام کرتا تھا۔

اس نے حماد بن سلمہ اور ان کے طبقے کے افراد سے سماع کیا ہے، اور معاویہ بن صالح کی زیارت کی ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ (نے براہ راست جب کہ) صحاح ستہ کے بقیہ مؤلفین نے ایک واسطے کے ساتھ، (اور ان

حضرات کے علاوہ) خلف عکمری، احمد بن یحییٰ حلوانی نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ثقہ اور مامون ہے، شاید یہ عفان سے زیادہ ثقہ ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: آپ جتنی چاہیں، یہ اتنی

”تصحیف“ کر دیتا تھا، امام دارقطنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: (محدثین نے) اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔

ایک قول کے مطابق یہ ایک سو سال تک زندہ رہا تھا، اس نے ساٹھ حج کیے تھے، اس بنیاد پر اس نے علم کا حصول اس وقت شروع کیا ہوگا جب یہ تیس برس سے زیادہ کا ہو چکا تھا، یحییٰ بن معین کہتے ہیں: یہ عمرو بن عون سے زیادہ عقلمند تھا۔

صالح بن محمد جزرہ کہتے ہیں: میں نے سعید بن سلیمان کو سنا، ان سے دریافت کیا گیا: آپ لفظ ”حدثنا“ استعمال کیوں نہیں کرتے انہوں نے جواب دیا: ہر وہ چیز جو میں تمہیں حدیث کے طور پر بیان کروں، وہ میں نے (کسی استاد سے بذات خود) سنی ہوگی۔

میں کبھی کسی حدیث میں تدلیس نہیں کرتا، انہوں نے یہ بھی کہا: کاش میں وہ سب کچھ بیان کر سکوں، جو میں نے سنا ہے، تو پھر مجھے تدلیس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

ابن عساکر نے اس کے دادا کے نام کے بارے میں وہم کیا ہے، جن کا نام ”شیط“ تھا، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

ان کا انتقال 225 ہجری میں ہوا۔

۳۲۰۵- سعید بن سلیمان شیطی بصری

یہ شیط کا نواسہ ہے اس نے حماد بن سلمہ سے روایات نقل کی ہیں، یہ کم درجے کا ”صالح الحدیث“ ہے۔

ابوزرعہ کہتے ہیں: یہ ”قوی“ نہیں ہے، امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس میں غور و فکر کی گنجائش ہے، امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں اس کے حوالے سے احادیث بیان نہیں کرتا۔

۳۲۰۶- سعید بن سلیمان دمشقی

اس نے یحییٰ ذماری سے روایات نقل کی ہیں، ایک جماعت نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ مجہول ہے۔

۳۲۰۷- سعید بن سلیم

اور ایک قول کے مطابق (اس کے باپ کا نام) سلیمان صبی ہے، اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، اور ایک قول کے مطابق ”ضعبی“ ہے۔

ابن عدی کے علاوہ اور کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔

اس راوی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہز جیشا الی البشركین، فیہم ابو بکر و ذکر الحدیث بطولہ.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف بھیجنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا، ان لوگوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے“

اس کے بعد اس نے طویل حدیث ذکر کی ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے (ذہبی کہتے ہیں): جی ہاں! ازدی نے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے: یہ ”متروک“ ہے۔
احمد بن حنبلہ بن تاج الامناء نے اپنی ”سند“ کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: اذا اخذت كريمتي عبدى لم ارض له ثوابا دون الجنة.

قلت: يا رسول الله، ان كانت واحدة! قال: وان كانت واحدة.

”نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جب میں اپنے کسی بندے کی دو پسندیدہ چیزوں (یعنی آنکھوں کی بینائی) کو لے لیتا ہوں، تو میں اس (بندے) کے لیے جنت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہوتا۔
(راوی کہتے ہیں) میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! اگر ایک (آنکھ کی بینائی رخصت ہو؟) نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر ایک کی ہو (تو بھی یہی اجر و ثواب حاصل ہوگا)“

۳۲۰۸- سعید بن سماک بن حرب

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ رازی کہتے ہیں: یہ متروک الحدیث ہے اس سے محمد بن سواء نے روایات نقل کی ہیں۔

۳۲۰۹- سعید بن سمرعان (د، س، ت)۔

اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، اس میں مجہول ہونا پایا جاتا ہے، ازدی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور دیگر حضرات نے اسے قوی قرار دیا ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے۔

۳۲۱۰- سعید بن سنان (م، د، ت، ق)، ابوسنان شیبانی

یہ کوئی ہے، لیکن اس نے ”رے“ میں سکونت اختیار کی۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”قوی“ نہیں ہے، ایک مرتبہ انہوں نے کہا: یہ ایک نیک شخص تھا، لیکن حدیث (کے الفاظ) کو قائم نہیں رکھتا تھا، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان سے پہلے یحییٰ بن معین نے اسے ”ثقہ“ قرار دیا ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

كنا نؤمر بالسواك اذا قمنا من الليل.

”ہمیں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ جب ہم رات کے وقت بیدار ہوں تو مسواک کریں“

ابوداؤد طیالسی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

قال رجل: يا رسول الله، الرجل يعمل عملا يسره، فان اطعم عليه اعجبه! فقال: له اجران: اجر السر، اجر العلانية.

”ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ! ایک شخص کوئی عمل کرتا ہے جو اسے مسرور کرتا ہے اور اگر کسی دوسرے کو اس بارے میں پتہ چلے تو یہ بات اسے اچھی لگتی ہے، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اس شخص کو دو اجر ملیں گے، پوشیدہ (عمل کرنے) کا اجر اور اعلانیہ (عمل کرنے کا) اجر“

یہ بات بیان کی گئی ہے: یہ (راوی) ایک سو سال زندہ رہا تھا، اس نے ساٹھ حج کیے تھے اس بنیاد پر تو اس تیس سال کے لگ بھگ عمر کے حصول کا آغاز کیا تھا۔

ابن عدی کہتے ہیں: اس کے حوالے سے کچھ منفرد روایات منقول ہیں مجھے یہ امید ہے کہ اس نے جان بوجھ کر غلط بیانی نہیں کی ہو گی۔

۳۲۱۱- سعید بن سنان (ق) ابو مہدی حمصی.

امام احمد رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، یحییٰ بن معین کہتے ہیں: یہ ثقہ نہیں ہے ایک مرتبہ انہوں نے کہا ہے: یہ راوی کوئی چیز نہیں ہے جو زبانی کہتے ہیں: مجھے یہ اندیشہ ہے اس کی نقل کردہ احادیث! ایجاد کی ہوئی، ہوگی۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے اور امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے: یہ ”متروک“ ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

يا ثوبان، لا تسكن الكفور، فان ساكن الكفور كساكن القبور، لا تامر من على عشرة فان من تامر على عشرة جاء مغلولة يده الى عنقه، فكه الحق او وثقه الظلم.

”اے ثوبان! تم دیہات میں سکونت اختیار نہ کرو، کیونکہ دیہات میں سکونت اختیار کرنے والا قبرستان میں سکونت اختیار کرنے والے کی مانند ہے اور تم دس آدمیوں کے بھی امیر نہ بننا، کیونکہ جو شخص دس آدمیوں کا امیر بنے گا وہ (قیامت کے دن) اس حالت میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ گردن پر باندھے ہوئے ہوں گے یا تو حق اس کے ہاتھوں کو کھلوادے گا یا ظلم اس کے ہاتھوں کو مزید مضبوطی سے بندھوادے گا“۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

نزلت الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية - في نفقات الخيل واهلها معانوں علیہا.

(بیہ آیت) ”جو رات اور دن پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر اپنے اموال خرچ کرتے ہیں“ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں

نازل ہوئی جو گھوڑوں اور ان کے مالکوں پر خرچ کرتے ہیں؛ ایسے لوگوں کی مدد کی جائے گی“
اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

وآخرین من دونہم لا تعلمونہم - قال: الجن، لن یخبل الشیطان انسانا فی دارہ فرس عتیق.
”دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کے علاوہ ہیں جن سے تم واقف نہیں ہو“ اس سے مراد جن ہیں، شیطان ایسے کسی شخص کو خراب نہیں کرتا جس کے گھر میں آزاد گھوڑا ہو۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:
اقامة حد احب الی اللہ من ان ینزل غیث اربعین لیلة فی بلاد اللہ.
”حد کا جاری ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی شہر میں چالیس دن تک بارش نازل ہوتی رہے“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:
لا تغالبوا امر اللہ، فان من غالب امر اللہ غلبہ، من ہجرہ ساء، لا یبالی اللہ باى انف العباد
ارغم، لا تکنونوا کفلاں وفلان عبدا حتی قلنا این ہذان، فترا حتی کانا لا یقومان الی الصلاة حتی
ینضح نساؤہما فی وجوہہما الباء، فاوغلوا فی رفق.

”اللہ تعالیٰ کے حکم کو مغلوب کرنے کی کوشش نہ کرو؛ کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا، وہ حکم اس پر غالب آجائے گا اور جو شخص لا تعلقی اختیار کرے گا، وہ حکم اس کے ساتھ برائی کرے گا۔“

اللہ تعالیٰ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ کون سے بندے کی ناک زیادہ خاک آلود ہے؟ تم فلاں شخص کی مانند اور فلاں شخص کی مانند نہ ہو جانا جو عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ ایک مرتبہ ہم نے دریافت کیا: کہ وہ دونوں کہاں ہیں؟ تو تم دونوں نے دیکھا کہ وہ دونوں نماز کے لیے اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک ان کی بیویاں ان کے چہروں پر پانی نہیں چھڑکتی ہیں تو تم اور زمی کا معاملہ کرنے کی پوری کوشش کرو۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

قال رجل: یا رسول اللہ، ارایت الارض علی ما ہی؟ قال: علی الباء، الباء علی صخرة خضراء،
الصخرة علی ظہر حوت یتلقى طرفاہ تحت العرش.

”ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے؟ زمین کس چیز پر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانی پر اور پانی ایک سبز چٹان پر ہے اور وہ چٹان ایک تیل کی پشت پر ہے جس کے دو کنارے عرش کے نیچے ہیں۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

السلطان ظل اللہ فی ارضه یاوی الیہ کل مظلوم، اذا جارت الولاة قحطت السماء، اذا منعت الزکاة

هلكت المواشي، اذا ظهر الزنا ظهر الفقر والسكنة، اذا اخفرت الذمة اديل الكفار.
 ”سلطان زمین میں اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا ہے ہر مظلوم اسی کی پناہ میں آتا ہے جب حکمران ظلم کرنے لگیں تو آسمان سے
 قحط نازل ہوتا ہے جب زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہو تو مویشی ہلاکت کا شکار ہونے لگتے ہیں جب زنا پھیل جائے تو غربت اور
 مسکینی پھیل جاتی ہیں جب ذمہ کی خلاف ورزی کی جائے تو کفار کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت شداد بن اوس، کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:
 ان الدنيا عرض حاضر، یا کل منها البر والفاجر، ان الآخرة وعد صادق، يحكم فيها ملك قادر، يحق
 فيها الحق، يبطل فيها الباطل، فكونوا ابناء الآخرة، لا تكونوا ابناء الدنيا، فان كل امر يتبعها ولدها.
 ”بے شک دنیا سامنے موجود سامان ہے جس میں سے ہر نیک اور گنہگار شخص کھاتا ہے اور آخرت سچا وعدہ ہے جس میں
 قدرت رکھنے والا بادشاہ فیصلہ دے گا وہ اُس میں حق کو حق ظاہر کر دے گا اور باطل کو باطل ظاہر کر دے گا تو تم لوگ آخرت
 کے بیٹے بنو، اور دنیا کے بیٹے نہ بنو، کیونکہ ہر بیٹا اپنی ماں کے پیچھے جاتا ہے۔“

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبني كنيسة في الاسلام، لا يجد ما خرب منها.
 ”نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: اسلامی سلطنت میں کوئی گرجا نہیں بنایا جائے گا اور جو گرجا خراب ہو جائے اُس کی تعمیر
 نہیں کی جائے گی۔“

اسی سند کے ساتھ یہ روایت بھی منقول ہے:

من وصل صفا وصله الله، من قطع قطعه الله.

”جو شخص صفا کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کو ملاتا ہے اور جو شخص اسے منقطع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُسے منقطع کرتا ہے۔“

ابو مہدی سے بہت سے احادیث منقول ہیں اور یہ شخص واضح طور پر ضعیف ہے۔ جو زبانی کہتے ہیں: ابوالیمان نے اس کی فضیلت
 اور عبادت گزاری کی وجہ سے اس کی تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے: ہم اس کے وسیلے سے بارش کے نزول کی دعا کرتے تھے اس پر اللہ کی
 رحمت نازل ہو ایک قول کے مطابق اس کا انتقال 168 ہجری میں ہوا۔

۳۲۱۲۔ سعید بن سوید۔

ابن عدی نے مختصر طور پر اس کا ذکر کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی حدیث کی متابعت نہیں کی گئی۔

۳۲۱۳۔ سعید بن سیرین۔

ابن ابوحاتم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، یہ مجہول ہے۔

۳۲۱۴۔ سعید بن شریحیل۔

اس نے زید بن ابوفانی سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۲۱۵۔ سعید بن مسعر، ابوالاحمد دارمی۔

اس نے حماد بن سلمہ سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۲۱۶۔ سعید بن صالح سلمی

میں اس سے واقف نہیں ہوں، ابن مندہ نے اپنی ”امالی“ میں اس راوی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتلني جبرائيل بمرآة بيضاء فيها نكتة سوداء الحديث
”نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: جبرائیل میرے پاس سفید آئینہ لے کر آئے، جس میں ایک سیاہ نکتہ تھا۔“

۳۲۱۷۔ سعید بن عبد اللہ (ت، ق) جہنی

اس نے محمد (بن عمر) بن علی سے روایات نقل کی ہے، یہ بن وہب کا استاد ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قوی قرار دیا ہے۔

۳۲۱۸۔ سعید بن عبد اللہ

اس نے حسن (بصری) سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۲۱۹۔ سعید بن عبد اللہ

اس نے فلاں کے حوالے سے حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، یہ راوی مجہول ہیں۔

۳۲۲۰۔ سعید بن صباح نیشاپوری

یہ یحییٰ کا بھائی ہے، ابن عدی نے اس کا ذکر کیا ہے، ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں اس سے واقف نہیں ہوں۔
ابن عدی کہتے ہیں: مجھے یہ امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر ابن عدی نے اس راوی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی
ہے، جس کی سند غریب ہے:

اصنعوا لآل جعفر طعاما. ”جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔“

۳۲۲۱۔ سعید بن طہمان

اس کی نقل کردہ حدیث منکر ہے، یہ بات امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے ”الذیل“ میں ذکر کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کرتے
ہوئے اس کے حوالے سے کوئی منکر چیز ذکر نہیں کی، ازدی کہتے ہیں: یہ حجت نہیں ہے، (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں): اس نے حضرت
عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، یہ قطعی کے نام سے معروف ہے۔

۳۲۲۲۔ سعید بن عامر (ق)

اس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایات نقل کی ہیں۔ اس سے لیث بن ابوسلمہ کے علاوہ اور کسی نے روایت نقل نہیں کی ہے۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی شناخت نہیں ہو سکی، دارمی نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۳۲۲۳۔ سعید بن عبداللہ (د، ت) بن جریح سلمی بصری۔

اس نے اپنے آقا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، اس سے اعمش اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ مجہول ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ ”الثقات“ میں کیا ہے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے منقول حدیث کو ”صحیح“ قرار دیا ہے۔

۳۲۲۴۔ سعید بن عبداللہ بن ضرار۔

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے، اس سے واصل احدب نے روایات نقل کی ہیں۔

۳۲۲۵۔ سعید بن عبداللہ بن بصری

یہ ”ثقة“ نہیں ہے، خطیب بغدادی نے اس راوی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔

السفر قطعة.. الی ان قال: فلیعجل الی اهلہ فزاد فیہ ولیتخذ لہم ہدیة، لو لم یجد الا حجرا فلیلقہ فی محلاتہ - ای حجرا القداحتہ

”سفر کرا ہے“ آگے چل کر یہ الفاظ ہیں: تو اسے اپنے گھر جلدی چلے جانا چاہیے، اس نے اس روایت میں یہ حصہ زائد نقل کیا ہے: ”اور اسے گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ لینا چاہیے اور اگر کچھ نہیں ملتا تو اپنے تھیلے میں پتھر ہی ڈال لینا چاہیے۔“

تو یہ حصہ جھوٹ ہے جسے حدیث کے ساتھ شامل کر لیا گیا ہے۔

۳۲۲۶۔ سعید بن عبدالجبارز بیدی حمصی۔

اس نے روح بن جناح سے روایات نقل کی ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ نہیں ہے، ابن عدی کہتے ہیں: اس نے بصرہ میں سکونت اختیار کی، ابن مدینی کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے، تہذیب کہتے ہیں: میں نے اسے بصرہ میں دیکھا ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا نذر فی معصیة، لا یبین فی معصیة، کفارتہ کفارة یبین۔

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: معصیت کے بارے میں نذر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور معصیت کے بارے میں قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔“

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

حجبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعطانی درہما.

”(راوی بیان کرتے ہیں:) میں نے نبی اکرم ﷺ کو چھپنے لگائے تو آپ نے مجھے ایک درہم عطا کیا۔“

۳۲۲۷- سعید بن عبد الجبار

اس نے محمد بن جابر خفی سے روایات نقل کی ہیں۔ اس سے محمد بن خالد رعی نے روایات نقل کی ہیں اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔

۳۲۲۸- سعید بن عبد الجبار بن وائل.

اس نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا سے روایت نقل کی ہیں یہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے اس سے تقریباً پانچ روایات منقول ہیں امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”یہ قوی“ نہیں ہے۔

(امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس کے حوالے سے اس کے بھتیجے محمد بن حجر اور عبد اللہ بن عمر بن ابان نے روایات نقل

کی ہیں۔

۳۲۲۹- سعید بن عبد الجبار (م، د) قرشی کرابیسی

یہ امام مسلم رحمہ اللہ کا استاد ہے اور ثقہ ہے امام ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”صدوق“ ہے (امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس نے حماد بن سلمہ اور امام مالک سے روایات نقل کی ہیں۔

اس کا انتقال 236 ہجری کے آخر میں ہوا۔

۳۲۳۰- سعید بن عبد الرحمن (م، د، س، ق) الحلی قاضی مدنی.

اس نے سہیل ابن ابوصالح اور عبید اللہ بن عمر سے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین اور دیگر حضرات نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، ابن عدی کہتے ہیں: اس سے غریب لیکن حسن روایات منقول ہیں اور مجھے یہ امید ہے کہ وہ مستقیم ہوں گی یہ راوی وہم کا شکار ہو کر موقوف روایت کو مرفوع روایت یا مرسل روایت کو موصول روایت کے طور پر نقل کر دیتا ہے تاہم یہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا جہاں تک ابن حبان رحمہ اللہ کا تعلق ہے تو انہوں نے اس کے بارے میں شدت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے: اس نے ثقہ راویوں کے حوالے سے موضوع روایات نقل کی ہیں۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: علیک بالعلانیة، ایاک والسر،

”نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: تم پر علانیہ طور پر کرنا لازم ہے اور پوشیدہ طور پر کرنے سے بچ کر رہو۔“

یہ روایت محمد بن بشر نے اپنی سند کے ساتھ حسن بصری رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے طور پر نقل کی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ زیادہ مستند ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من نسی صلاة فلم يذكرها الا مع الامام فليتم صلاته، ثم يقضى ما فاته، ثم يعيد التي صلاها مع

الاصحاح.

”جو شخص نماز کو بھول جائے اور پھر وہ نماز اُسے اُس وقت یاد آئے جب وہ امام کی اقتداء میں ہو تو اُسے پہلے اپنی نماز پوری کرنی چاہیے اور پھر فوت ہو جانے والی نماز کی قضا کرنی چاہیے اور پھر اُس نماز کو دوبارہ ادا کرنا چاہیے جو اُس نے امام کی اقتداء میں ادا کی تھی۔“

فسوی نے اسے ”لین“ قرار دیا ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ بغداد کا قاضی بنا تھا، اس سے احادیث روایت کرنے والوں میں لیث بن سعد شامل ہیں، جو اس سے عمر میں بڑے ہیں (ان کے علاوہ) ابن وہب اور علی بن حجر (شامل ہیں)۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ صالح ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ساجی کہتے ہیں: یہ ایسی روایات نقل کرتا ہے جن میں اس کی متابعت نہیں کی گئی۔

۳۲۳۱۔ سعید بن عبد الرحمن رقاشی

یہ ابو حرہ کا بھائی ہے، یحییٰ القطان نے اسے ”لین“ قرار دیا ہے، جب کہ ایک جماعت نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، ابن عدی کہتے ہیں: یحییٰ القطان نے اس کے بارے میں توقف کیا ہے، ویسے میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، اس نے ابن سیرین کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے:

اتقوا اللہ واتقوا الناس. ”اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور لوگوں سے بچ کر رہو۔“

۳۲۳۲۔ سعید بن عبد الرحمن اموی.

اس کی اُن سے نسبت ولاء کے اعتبار سے ہے، اس نے حنظلہ بن علی سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے صرف اسحاق بن سلیمان رازی نے روایات نقل کی ہیں، اسے ”ثقة“ قرار دیا گیا ہے۔

۳۲۳۳۔ سعید بن عبد الرحمن (س) ابوشیبہ زبیدی.

اس نے سعید بن جبیر سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

ابو احمد بن عدی کہتے ہیں: اس کی (کردہ) حدیث کی متابعت نہیں کی گئی۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس نے مجاہد اور ابن ابوملیکہ سے (احادیث کا) سماع کیا ہے۔

اس سے عبد الواحد بن زیاد نے روایات نقل کی ہیں، اس کی (نقل کردہ) حدیث کی متابعت نہیں کی گئی۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس کے حوالے سے، ”شہد چکھنے“ والی روایت منقول ہے، جو اس نے ابن ابوملیکہ

کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے، یہ روایت ”غریب“ ہے۔

”رے“ کے قاضی، ابن ابو حاتم نے اس کے بارے میں کہا ہے: اس سے جریر، ابن فضیل اور حکام نے روایت نقل کی ہیں۔

۳۲۳۴- (صح) سعید بن عبدالعزیز (م، عمو) تنوخی دمشقی

یہ ”دمشق کے مفتی ہیں اور جلیل القدر ائمہ میں سے ایک ہیں۔

یہ ”ثقة“ ہیں، تاہم زہری (سے روایات نقل کرنے) میں زیادہ پایہ کے نہیں ہیں، حمزہ کنانی نے اس طرف اشارہ کیا ہے، یہ آخر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، ابو مسہر کہتے ہیں: یہ مرنے سے پہلے اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ اور ”ثبت“ ہیں۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: انہوں نے علم قرأت ابن عامر سے سیکھا تھا، جب کہ مکحول اور ایک گروہ سے (احادیث کا سماع کیا، اس سے عبدالرحمن بن مہدی، ابو مسہر، ابو نصر التمار اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔ یہ (احادیث زبانی طور پر) یاد کرتے تھے، کیونکہ یہ کہتے ہیں: میں نے کبھی کوئی حدیث (تحریری طور پر) نوٹ نہیں کی۔ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ حجت ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: شام میں، کسی اور کی (نقل کردہ) حدیث ان سے زیادہ مستند نہیں ہے۔

ولید بن مزید کہتے ہیں: امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا اور سعید بن عبدالعزیز وہاں موجود ہوتے، تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے: ابو محمد (یعنی سعید نامی اس راوی) سے دریافت کرو۔ (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: یہ عبادت گزار اور پرہیزگار افراد میں سے ایک تھے۔ ولید بن مزید کہتے ہیں: سعید بن عبدالعزیز سے پوچھا گیا، بنیادی ضرورت کے رزق سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ایک دن بھوک ہو اور ایک دن سیر ہو۔ ان کا انتقال 167 ہجری میں ہوا۔ یہ رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور انہیں ہم سے راضی کر دے۔

۳۲۳۵- سعید بن عبدالکریم

اس سے ابو بکر بن عیاش نے روایات نقل کی ہیں، ازدی کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے۔

ابو علی بن الحلال نے اس راوی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔

انس بن مالک، قال: بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی عائشة، فقلت لها: اسرعی، فانی ترکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثهم بحدیث لیلة النصف، فقالت: یا انیس، اجلس حتی احديثک عن لیلة النصف من شعبان، کانت لیلتی، فدخل معی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لحاف، فانتبہت من اللیل فلم اجده، فطفت فی حجرات نسائه وذكر الحدیث بطولہ.

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا، (یعنی انہیں بلوایا) میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا: آپ جلد کیجیے، کیونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو نصف شعبان کی رات کے بارے

میں بتاتے ہوئے چھوڑا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اے انس! تم بیٹھو تا کہ میں تمہیں نصف شعبان کی رات کے بارے میں بتاؤں۔ یہ میری (باری کی) مخصوص رات تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لحاف میں لیٹ گئے، رات میں کسی وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر موجود پایا۔ میں نے آپ کی تمام ازواج کے حجروں کا چکر لگایا۔ (اس کے بعد راوی نے طویل حدیث ذکر کی ہے)

۳۲۳۶- سعید بن عبد الملک بن واقد حرانی

اس نے ابویح رقی سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں: (محدثین) اس کے بارے میں کلام کرتے ہیں، یہ جھوٹی روایات نقل کرتا ہے۔ ابن علان نے اس راوی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔

قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال فقال: ناد في الناس ان الخليفة ابوبكر، ان الخليفة بعده عمر، ثم عثمان، ثم قال: يا بلال، امض، ابي الله الا ذاك.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما باہر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے) فرمایا: لوگوں میں اعلان کر دو، (میرے بعد) خلیفہ ابوبکر ہوگا، اس کے بعد خلیفہ عمر ہوگا، پھر عثمان ہوگا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے بلال! رہنے دو، (یعنی یہ اعلان نہ کرو) کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے گا“،

یہ روایت ”موضوع“ ہے۔ (حسن بن موسیٰ) رسی نامی راوی کا محل انشاء اللہ ”صدق“ ہے،

۳۲۳۷- سعید بن عبید اللہ (خ، ت، س، ق) بن جبیر (بن حبیہ) ثقفی

اس نے اپنے چچا زیاد اور عمرہ سے روایات نقل کی ہیں، اس سے روح، مکی بن ابراہیم اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ اور یحییٰ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، امام دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”یہ ”قوی“ نہیں ہے۔

۳۲۳۸- سعید بن عبید اللہ بن ولید وصافی

ابو حاتم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

۳۲۳۹- سعید بن عبید بن کثیر

اس سے ابونضر نے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے

۳۲۴۰- سعید بن عثمان کریمی

اس نے غندر اور دیگر سے روایات نقل کی ہیں، اس نے ”اصہبان“ میں منکر احادیث بیان کی ہیں۔

۳۲۴۱- سعید بن عثمان معافری

اس نے امام مالک کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، یہ راوی معروف نہیں ہے۔

۳۲۲۲- سعید بن عثمان

اس نے عمر بن شمر کے حوالے سے، بلند آواز میں ”بسم اللہ“ پڑھنے کی روایت نقل کی ہے۔

۳۲۲۳- سعید بن عثمان بلوی

اس نے کچھ تابعین سے روایات نقل کی ہیں، صرف عیسیٰ بن یونس نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

۳۲۲۴- سعید بن عجلان

اس نے سعید بن جبیر سے روایات نقل کی ہیں، ازدی کہتے ہیں: اس میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔

۳۲۲۵- (صحیح) سعید بن ابو عمرو (ع)

یہ اپنے زمانے میں اہل بصرہ کے امام تھے، (ان کی کنیت) ”ابونضر“ ہے، یہ بنو عدی کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کے والد کا نام مہران ہے، ان کی کچھ تصانیف بھی ہیں، یہ آخری عمر میں (حافظے میں) تغیر کا شکار ہو گئے تھے، ان پر ”قدریہ“ (فرقے کے سے نظریات رکھنے) کا الزام ہے۔

اس نے ابو جاء عطار دی، ابونضرہ عمیدی سے روایات نقل کی ہیں، ان دونوں راویوں سے اس کی نقل کردہ روایات ”صحیح مسلم“ میں موجود ہیں۔

یزید بن زریع، خالد بن حارث، روح، یحییٰ القطان اور خلق کثیر نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

ابونعیم کہتے ہیں: میں نے اس سے دو احادیث نوٹ کیں، پھر یہ اختلاط کا شکار ہوا، تو میں اٹھ گیا اور میں نے اسے ترک کر دیا۔

بندار کہتے ہیں: عبدالاعلیٰ، جو ”قدری“ تھا، نے ہمیں حدیث بیان کی، وہ کہتا ہے: سعید نے ہمیں حدیث بیان کی، یہ بھی ”قدری“

تھا، وہ کہتا ہے: قتادہ سے روایت منقول ہے۔ وہ بھی ”قدری“ تھا۔

یحییٰ بن معین کہتے ہیں: یحییٰ القطان کہتے ہیں: جب میں شعبہ یا ہشام یا (سعید) بن ابو عمرو بہ سے کوئی حدیث سن لوں، تو پھر میں اس

بات کی پروا نہیں کرتا کہ میں نے وہ روایت ان کے دوسرے ساتھیوں سے (سنی ہے یا) نہیں سنی ہے، کیونکہ یہ لوگ ”ثقة“ ہیں۔

عبدہ بن سلیمان کہتے ہیں: میں نے اختلاط (کے زمانے میں) سعید سے (احادیث کا) سماع کیا ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یزید زریع کا سعید سے سماع قدیم ہے (یعنی اختلاط سے پہلے زمانے کا ہے) وہ دور کا سفر کر کے

بھی حدیث حاصل کرتے تھے۔

ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ابراہیم بن عبداللہ کی ہزیمت کے بعد، سعید اختلاط کا شکار ہوئے تھے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ اس کے بعد تیرہ سال زندہ رہے، ابراہیم کی ہزیمت کا واقعہ 145 ہجری میں پیش

آیا تھا۔

وہ کہتے ہیں: یزید بن ہارون نے ”واسط“ میں ان سے سماع کیا ہے، ان سے سماع کرنے میں، لوگوں میں سب سے زیادہ مثبت ”عبدہ“ ہیں۔

سعید کے اختلاط پر جراح بن مخلد کا یہ بیان دلالت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے مسلم بن ابراہیم کو یہ کہتے ہوئے سنا: سعید بن ابی عروبہ نے مجھ سے کہا: جنہم کا داروغہ ”مالک“ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟
عبدان اہوازی نے مسلم بن ابراہیم کا یہ قول نقل کیا ہے: میں نے سعید سے تصانیف نوٹ کی تھیں، میرے والد کا میرے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو میں نے تور جلا یا، اور وہ (تصانیف) اس میں ڈال دیں۔

ابن مہدی کہتے ہیں: غندر نے سعید بن ابی عروبہ سے سماع کیا ہے، یعنی (ان کے) اختلاط (کے زمانے) میں کیا ہے۔
ابو عمر حوضی کہتے ہیں: ہم سعید بن ابی عروبہ کے پاس گئے، میں اس سے سماع کرنا چاہتا تھا، تو میں اس سے ایسا کلام سنا، جو کبھی نہیں سنا تھا: انہوں نے کہا: ”ازد“ چوڑائی والے ازد ہیں، انہوں نے ایک بیمار بکری ذبح کی، انہوں نے مجھے کھلانا چاہا تو میں نہیں مانا، انہوں نے مجھے مارا، تو میں رو پڑا۔ تو مجھے پتہ چل گیا، یہ اختلاط کا شکار ہو چکا ہے، تو میں نے اس سے سماع نہیں کیا۔
یحییٰ قطان کہتے ہیں: خلد بن حارث کا سعید سے سماع ”املاء“ کے طور پر ہے۔

سفیان بن حبیب، شعبہ اور سعید کے بارے میں آگاہی رکھتے تھے۔ حفص بن عبد الرحمان نیشاپوری بیان کرتے ہیں: سعید بن ابی عروبہ نے مجھ سے کہا: جب تم میرے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرو تو یہ کہو: سعید لنگڑے نے، قتادہ اندھے کے حوالے سے، حسن کبڑے سے، (منقول) حدیث ہمیں بیان کی۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: قتادہ ہشام اور سعید ”قدریہ“ فرقی کے نظریات رکھتے تھے، تاہم وہ (اپنا یہ عقیدہ) پوشیدہ رکھتے تھے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: سعید نے، حکم، حماد، عمرو بن دینار، ہشام ابوزناد (ان سب میں سے) کسی سے بھی حدیث کا سماع نہیں کیا۔ لیکن اس نے ان سب کے حوالے سے احادیث روایت کی ہیں۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے تھے: یہ تالیس کیا کرتا تھا۔
ابن عمار موصلی کہتے ہیں: کعب اور معانی عمران کی سعید سے نقل کردہ روایات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیونکہ ان دونوں نے اس کے اختلاط کا شکار ہو جانے کے بعد اس سے سماع کیا تھا۔

یحییٰ بن معین کہتے ہیں: کعب نے اس کے اختلاط (کے زمانے) میں اس سے سماع کیا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا: اپنے بارے میں میرا یہ خیال ہے: میں نے اس کے حوالے سے صرف ٹھیک حدیث ہی بیان کی ہے۔

یزید بن زریع بیان کرتے ہیں: میں نے سعید بن ابی عروبہ کو یہ کہتے ہوئے سنا: جس نے اختلاف (سے متعلق) سماع نہیں کیا، تم اسے عالم شمار نہ کرو۔

وہیب نے ایوب کا یہ قول نقل کیا ہے: ایسا شخص سمجھ بوجھ حاصل نہیں کر سکتا، جو سعید بن ابی عروبہ کے حجرے میں داخل نہ ہوا ہو۔

انصاری نے سعید بن ابی عروبہ کا یہ قول روایت کیا ہے: جو شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہتا ہے، وہ تنگ دست ہو جاتا ہے۔
شعیب بن اسحاق نے سعید بن ابی عروبہ کا یہ قول نقل کیا ہے: ہم لوگ قنادہ کے ہمراہ ابن سیرین کے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں
ایک شعر سنایا۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: سعید بن ابی عروبہ کے پاس کوئی کتاب (یعنی تحریری نوٹس) نہیں تھے۔ وہ سب کچھ زبانی یاد کرتے
تھے۔

ابوعوانہ کہتے ہیں: اس وقت میں سعید ابی عروبہ سے بڑا حافظ (الحدیث) اور کوئی نہیں تھا۔
(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس نے حسن، ابورجاء عطاردی، ابونضرہ اور ایک مخلوق سے روایات نقل کی ہیں۔
ابن عدی کہتے ہیں: سعید ”ثقة“ لوگوں میں سے ایک ہیں ان کی بہت سی تصانیف ہیں۔
جس نے ان سے (ان کے) اختلاط کے (زمانے میں) سنا ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔
عبدالاعلیٰ سامی نے ان سے سب سے زیادہ روایات نقل کی ہیں، پھر شعیب بن اسحاق، عبدہ بن سلیمان، عبدالوہاب خفاف ہیں۔
ان (سے روایت نقل کرنے میں) سب سے زیادہ ”ثبت“ یزید بن زریع، خالد بن حارث اور یحییٰ القطان ہیں۔
ان کی تمام تصانیف (عبدالوہاب) خفاف نے روایت کی ہیں۔
(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: ان کا انتقال 156 ہجری میں، 80 برس کے لگ بھگ عمر میں ہوا۔

۳۲۲۶- سعید بن عقبہ

اس نے اعمش سے روایات نقل کی ہیں ابن عدی کہتے ہیں: یہ مجہول اور غیر ثقہ ہے اس کی کنیت ابوالفتح ہے۔
اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے جسے انہوں نے مرفوع حدیث کے
طور پر روایت کیا ہے۔

انا مدينة العلم.

”میں علم کا شہر ہوں“

ابن عقبہ کہتے ہیں: میں اس سے واقف نہیں ہوں۔

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: شاید یہ روایت سعدی نے ایجاد کی ہے۔

سعدی نے ابوالفتح کے حوالے سے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کے آباؤ اجداد کے حوالے سے، بحیراراہب کا یہ بیان
کیا ہے:

سبعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول: اذا شرب الرجل کاسا من خمر.

”میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: ”جب کوئی شخص شراب کا ایک گلاس پیتا ہے“۔

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ روایت جھوٹی ہے، کیونکہ بحیراراہب نے بعثت کا زمانہ نہیں پایا۔

۳۲۲۷- سعید بن عمارہ (ق)

حارث بن نعمان سے اس نے روایات نقل کی ہیں؛ ازدی کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے۔
(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس سے بقیہ علی بن عباس اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں؛ یہ جائز الحدیث ہے۔

۳۲۲۸- سعید بن عمرو

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۲۲۹- سعید بن ابو عمرہ

سلیمان (سعید نامی سابقہ دونوں راوی) مجہول ہیں۔

۳۲۳۰- سعید بن عمیر

سعید بن سعید تغلبی، سعید بن عمیر سے یہ روایت نقل کرنے میں منفرد ہے؛ جو اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔

یا علی انا اخوک فی الدنیا والآخرة
”اے علی! میں دنیا اور آخرت میں تمہارا بھائی ہوں“
یہ روایت موضوع ہے۔

۳۲۳۱- سعید بن عنبہ رازی

اس نے عباد بن عوام سے روایات نقل کی ہیں؛ بیجی کہتے ہیں: یہ کذاب ہے۔
امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کو سچا قرار نہیں دیا گیا۔

۳۲۳۲- سعید بن عنبہ

اس نے جعفر بن حیان سے روایات نقل کی ہیں۔
ابن جوزی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس میں طعن نہیں کیا گیا۔ تو پھر کس وجہ سے اس کا ذکر کیا جائے۔

۳۲۳۳- سعید بن عنبہ

یہ ”ابو عریان“ کا استاد ہے؛ یہ مجہول ہے۔

۳۲۳۴- سعید بن عیسیٰ بن معن کلبی

اس نے امام مالک کے حوالے سے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے۔ لیکن اس تک پہنچنے والی اس کی سند تاریک ہے۔

۳۲۵۵- سعید بن عیسیٰ کریزی

اس نے معتمر بن سلیمان سے روایات نقل کی ہیں، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔

۳۲۵۶- سعید بن غزوآن (د)

اس نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت مُقعد سے، تبوک میں ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے گزرنے کے بارے میں روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس نے ہماری نماز کو کاٹ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نشان کاٹ دے۔ یہ شام کا رہنے والا ہے اور اس نے تھوڑی روایت نقل کی ہیں، میں نے اس کے یا اس کے والد کے بارے میں محدثین کا کوئی کلام نہیں دیکھا۔ اور نہ ہی یہ پتہ چل سکا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ اور نہ حضرت مُقعد (کے بارے میں پتہ چل سکا) کہ وہ کون ہیں؟ عبدالحق اور ابن قطان کہتے ہیں: اس کی سند ضعیف ہے۔

۳۲۵۷- سعید بن غنیم، ابوشیبہ کلاعی

یہ اسماعیل بن عیاش کا استاد ہے، اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی ہے۔

۳۲۵۸- سعید بن فضل

اس نے عاصم الاحول سے روایات نقل کی ہیں، یہ بصری ہے۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے، دیگر حضرات نے اسے قوی قرار دیا ہے۔

۳۲۵۹- سعید بن قطن قطعی

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے، بعض حضرات نے اس کی تائید کی ہے۔ اس سے حماد بن سلمہ، سلام بن ابوطیغ نے روایات نقل کی ہیں۔ یہ ”ابن ابوطہمان“ ہے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

۳۲۶۰- (صح) سعید بن کثیر (خ، م) بن عقیق مصری

یہ ثقہ اور امام ہیں، ان سے ایسی روایات منقول ہیں، جنہیں منکر قرار دیا گیا ہے۔ حافظ ابوسعید بن یونس کہتے ہیں: ان کی احادیث کو منکر قرار دیا گیا ہے۔

جو زبانی کہتے ہیں: یہ اختلاط کا شکار شخص تھا اور ثقہ نہیں تھا، اس کے کئی بدعتی نظریات بھی تھے۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ لوگوں کی کتابوں میں سے (احادیث) پڑھ کر سنا تا تھا، ویسے یہ ”صدوق“ ہے۔

ابن یونس کہتے ہیں: یہ علم نسب، گزشتہ واقعات، عربوں کے گزرے ایام اور تاریخ کا سب سے بڑا عالم تھا، اس بارے میں یہ جبران کن حیثیت کا مالک تھا۔ یہ ادیب اور فصیح تھا، منطقی (استدلال کی صلاحیت) رکھتا تھا، شاعر تھا، اہل محفل کو کتاہٹ کا شکار نہیں ہونے دیتا

تھا۔

ابن عدی کہتے ہیں: جوز جانی نے جو کہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نے کسی کو بھی سعید بن عفیر کے بارے میں کلام کرتے ہوئے نہیں سنا، اور نہ ہی مجھ تک یہ اطلاع پہنچی ہے کہ کسی نے اس کے بارے میں کلام کیا ہو، یہ لوگوں کے نزدیک ”ثقة“ ہے، البتہ سعدی یعنی جوز جانی نے دوسرا سعید بن عفیر مراد ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس کا انتقال 226 ہجری میں ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 80 برس تھی۔

اس نے امام مالک اور لیث بن سعد سے احادیث کا سماع کیا ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ تمام روایات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے ان میں ان دو کے علاوہ اور کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جسے ”مکرر“ قرار دیا جاسکے۔ پھر ابن عدی نے وہ دو روایات بیان کی ہیں، جو سعید کے بیٹے عبید اللہ نے اپنے والد سے نقل کی ہیں۔ عبید اللہ نامی یہ راوی ضعیف ہے، تو مناسب یہ تھا کہ ان روایات کو عبید اللہ کے حالات میں ذکر کیا جاتا، سعید کو اس کے بغیر ہی رکھا جاتا۔

جی ہاں! سعید کے حوالے سے، ایک مکرر روایت منقول ہے۔ جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے۔

یہ روایت عمرہ کے واجب نہ ہونے کے بارے میں ہے۔ میں نے یہ روایت یحییٰ نامی راوی کے تذکرہ میں بیان کی ہے، کیونکہ سعید اس سے زیادہ ”ثقة“ ہے۔

۳۲۶۱۔ سعید بن کثیر (س) بن مطلب بن ابووداعہ سہمی،

یہ عبد اللہ، جعفر اور کثیر کا بھائی ہے، اس نے اپنے چچا جعفر بن مطلب سے روایات نقل کی ہیں، ابن جریر کے علاوہ میں نے ایسا اور کوئی شخص نہیں دیکھا، جس نے اس سے روایات نقل کی ہوں۔

اس سے، ایام تشریق میں روزہ ختم کر دینے سے متعلق حدیث منقول ہے۔

۳۲۶۲۔ سعید بن ابوکرب (ق)

ابن مدینی کہتے ہیں: یہ مجہول ہے۔ ابواسحاق سبیعی کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایات نقل نہیں کی ہیں۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: جی ہاں! سلیمان بن کیسان تیم نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

اس کے حوالے سے ایک حدیث منقول ہے، جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

ویل للعراقیب من النار ”(کچھ) ایڑھیوں کے لیے جہنم کی بربادی ہے“

ابوزرعہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

۳۲۶۳۔ سعید بن کرز

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس سے یحییٰ بن کثیر عزی نے روایات نقل کی ہیں۔

۳۲۶۳- سعید بن لقمان

اس نے بعض تابعین سے روایات نقل کی ہیں، ازدی کہتے ہیں: اس کی (نقل کردہ) حدیث سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔
محمد بن فرات نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۲۶۵- سعید بن محمد مدنی

اس نے محمد بن منکدر سے روایات نقل کی ہیں، ابن کاسب، ابراہیم بن منذر نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔
امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی (نقل کردہ) حدیث کوئی چیز نہیں ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے، اس کی کنیت ابو عثمان ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الفاقة، فامرته ان يتزوج.

”ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے فاقہ کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شادی کرنے کا حکم دیا“

۳۲۶۶- سعید بن محمد (ت، ق) الوراق، کوفی

یہ معروف ہے، یحییٰ بن سعید انصاری اور دیگر حضرات نے اس سے روایات نقل کی ہیں، اس کی کنیت ابو الحسن ہے۔
ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے، ابن سعد اور دیگر حضرات کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ نہیں ہے۔
امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”متروک“ ہے۔

ابن عدی اس کے حوالے سے بعض احادیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں: اس کی (نقل کردہ) روایات سے ضعف نمایاں ہو جاتا ہے۔
ان میں سے ایک روایت وہ ہے جو اس نے اپنی سند کے ساتھ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مرفوع حدیث کے طور پر نقل کی ہے۔
ما زالت اكلة خيبر تعاودني كل عام، فهذا اوان انقطاع ابهرى.
”خیبر میں جو (زہر آلود) کھانا کھایا تھا، اس کا اثر ابھی تک ہے اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میری شہ رگ کاٹی جا رہی ہے“
احمد بن حنبل، علی بن حرب اور ایک جماعت نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۲۶۷- (صح) سعید بن محمد (رخ، م، د، ق) جرمی

اس نے حاتم بن اسمعیل اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں، اس سے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایات نقل کی

ہیں۔

یہ ثقہ ہے، تاہم یہ شیعہ ہے، ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”صدوق“ ہے۔

۳۲۶۸۔ سعید بن محمد بکر اوی

سہمی بیان کرتے ہیں: میں نے اسما علیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: یہ ابوہام ہے اور بصرہ کا رہنے والا ہے، اس میں ”لین“ (ہونا) پایا جاتا ہے۔

۳۲۶۹۔ سعید بن محمد (د، س) بن جبیر بن مطعم قرشی

اس کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے، جو عبداللہ بن حبشی شعمی سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی گئی ہے:

من قطع سدرۃ صوب اللہ راسہ فی النار

”جو شخص بیری کے درخت کو کاٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سر کو جہنم میں داخل کرے گا“

ابن جریج، عثمان بن ابوسلیمان زوفلی کے حوالے سے، اس راوی سے، اس روایت کو نقل کرنے میں منفرد ہے۔

اس روایت میں ایک علت بھی پائی جاتی ہے، معمر نے، عثمان نامی اسی راوی کے حوالے سے، اس روایت کو، ثقیف قبیلے سے تعلق

رکھنے والے ایک شخص کے حوالے سے، عروہ بن زبیر سے ”مرسل“ روایت کے طور پر نقل کیا ہے۔

اس کے حوالے سے اس کے چچا زاد عثمان بن ابوسلیمان بن جبیر، ابن ابوزب، قاسم بن مطیب نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ ”الثقات“ میں کیا ہے۔

۳۲۷۰۔ سعید بن محمد بن سعید جو انی کوفی

اس نے کعب اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، یہ بعد کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔

۳۲۷۱۔ سعید بن محمد بن نصر۔

اس نے حسن بن عبدالواحد قزوینی سے روایات نقل کی ہیں۔

یہ پتہ نہیں ہے، کہ یہ دونوں کون ہیں؟ یہ بات ابونجیب ارموی نے کہی ہے۔

۳۲۷۲۔ سعید بن محمد ذہلی احوال

اس نے محمد بن یونس کدیسی سے روایات نقل کی ہیں، یہ ”منکر الحدیث“ ہے۔ یہ بات ابو بکر خطیب نے کہی ہے۔

۳۲۷۳۔ سعید بن محمد طوسی۔

یہ مکی بن عبدان کا استاد ہے، ابو احمد حاکم کہتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے۔

۳۲۷۴- سعید بن مرزبان (ت، ق)، ابوسعید بقال الاعور

یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا آزاد کردہ غلام ہے، یہ کوفہ کا رہنے والا ہے اور مشہور ہے۔

اس نے حضرت انس، رضی اللہ عنہ ابو وائل، عکرمہ کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، اس سے شعبہ، ابواسام، (یعنی) اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

فلاس نے اسے ”متروک“ قرار دیا ہے، ابن معین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس کی حدیث کو نوٹ نہیں کیا جائیگا، ابوزرعہ کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے، لیکن ”تدلیس“ کرتا ہے، امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

ما كان من حق قلته او لم اقله فانا قلته.

”جو بھی بات حق ہو، خواہ وہ میں نے (درحقیقت) کہی ہو یا نہ کہی ہو، وہ بات میں نے ہی کہی ہوگی (یعنی تم لوگ یہی سمجھنا)“ یہ روایت ”منکر“ ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

من شك ان المحشر ههنا - يعنى الشام - فليقرا: هو الذى اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لادول المحشر قال لهم النبى صلى الله عليه وسلم: اخرجوا. قالوا: الى اين؟ قال: الى ارض المحشر.

”جو شخص اس بارے میں شک کرے کہ میدان محشر یہاں، یعنی شام میں ہوگا، اسے یہ آیت تلاوت کرنی چاہیے۔

”وہی وہ ذات ہے جس نے اہل کتاب میں سے کفر کرنے والوں کو پہلے حشر کے لیے، ان کے علاقوں سے نکال دیا“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا: تم لوگ نکلو! انہوں نے دریافت کیا: کس طرف؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ارض محشر کی طرف“

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

زينوا القرآن باصواتكم.

”قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعے آراستہ کرو“

ابن عدی کہتے ہیں: یہ ان ضعیف راویوں میں سے ایک ہے، جن کی حدیث کو جمع کیا جائیگا۔

۳۲۷۵- سعید بن مزاحم (د، س)

یہ عمر بن عبدالعزیز کا غلام ہے، اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔ تہیہ کے علاوہ میں نے ایسا شخص نہیں پایا، جس نے اس

سے روایات نقل کی ہوں۔

۳۲۷۶۔ سعید بن مسلمہ (ت، ق) بن ہشام بن عبد الملک بن مروان اموی

اس نے اعمش، اسماعیل بن امیہ اور ان دونوں کے علاوہ (دوسرے لوگوں) سے روایات نقل کی ہیں۔
عثمان دوری نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ ضعیف ہے، ابن عدی کہتے ہیں: مجھے یہ امید ہے، اسے ”متروک“ قرار نہیں دیا جائیگا۔
اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

دخل رسول الله صلى الله وسلم المسجد وعن يمينه ابوبكر، عن شباله عمر، فقال: هكذا نبعث يوم القيامة.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف حضرت ابوبکر تھے اور بائیں طرف حضرت عمر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہم قیامت کے دن اسی طرح مبعوث کیے جائیں گے۔“

اس کے حوالے سے یہ روایت بھی منقول ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

إذا اتاكم كريم قوم فاكرموه.

”جب تمہارے پاس کسی قسم کا کوئی معزز شخص آئے، تو اس کی عزت افزائی کرو۔“
یہ روایت اس سے محمد بن صباح جرجرائی نے سنی ہے۔

۳۲۷۷۔ سعید بن معروف بن رافع بن خدیج

ازدی کہتے ہیں: اس کے ذریعے حجت قائم نہیں ہو سکتی، پھر انہوں نے اس راوی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

التسوا الجار قبل الدار والرفیق قبل الطريق.

”گھر سے پہلے پڑوسی، اور سفر سے پہلے رفیق سفر تلاش کرو۔“

یہ روایت اس سے ابان بن محمد نے نقل کی ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: ابان نامی راوی ”متروک“ ہے، تو (خرابی کا سارا ملبہ) اسی پر ہوگا۔

۳۲۷۸۔ سعید بن معن

اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔ بعض حضرات نے اسے ”متمم“ قرار دیا ہے۔

اس نے امام مالک سے روایت نقل کی ہے، تاہم ان تک جانے والی سند تاریک ہے۔

علی بن محمد بن حاتم قومسی نے اس راوی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة حفها بالريحان، حف الريحان بالحناء، ان المختضب بالحناء لتصلى عليه ملائكة السماء .
 ”نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، تو اسے ریحان (نامی پودے) کے ذریعے ڈھانپ دیا، اور ریحان کو مہندی کے ذریعے ڈھانپ دیا، مہندی لگانے والے شخص کے لیے آسمان کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔“

حسن بن یوسف فہام نے بھی یہ روایت ابن حشیش سے نقل کی ہے، تو ہو سکتا ہے: اسی نے اس کو ایجا دیا کیا ہو۔

۳۲۷۹- سعید بن ابو مغیرہ

اسے ابن مغیرہ صیاد بھی کہا گیا ہے، اس نے مجالد سے روایات نقل کی ہیں، اسے ضعیف قرار دیا گیا ہے۔

۳۲۸۰- سعید بن منصور (ع) (بن شعبہ) خراسانی

یہ حافظ (الحدیث) اور ثقہ ہے، یہ ”سنن“ کا مؤلف ہے، اس نے امام مالک اور ان کے طبقے کے افراد سے سماع کیا ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اچھے الفاظ میں اس کی تعریف کی ہے، جس کی وجہ سے اس کا معاملہ بہتر ہوا۔

امام ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ ”متقن“ اور ”ثبت“ راویوں میں سے ایک ہے، ابن خراش اور دیگر حضرات کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے۔ جہاں تک یعقوب نسوی کا تعلق ہے، وہ یہ کہتے ہیں: جب یہ اپنے بیان میں کوئی غلطی دیکھتا ہے، تو اس سے رجوع نہیں کرتا۔

۳۲۸۱- سعید بن مہلب (بخ)

اس نے سعید بن جبیر سے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی ہے، اسے ”ثقہ“ قرار دیا گیا ہے۔

۳۲۸۲- سعید بن مہاجر (د)

ابو جودی شامی اس سے روایت کرنے میں منفرد ہے، اسے ”ثقہ“ قرار دیا گیا ہے۔

۳۲۸۳- سعید بن موسیٰ ازدی

اس نے امام مالک سے روایات نقل کی ہیں۔

ابن حبان رحمہ اللہ نے اس پر احادیث ایجاد کرنے کا الزام عائد کیا ہے، پھر انہوں نے اس کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے، جو اس

راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، کے حوالے سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے

لولا المنابر لهلك اهل القرى

”اگر منابر نہ ہوتے، تو بستیوں کے رہنے والے ہلاکت کا شکار ہو جاتے“

هدية الله الى المؤمن السائل على باب داره

اسی سند کے ساتھ یہ بھی منقول ہے۔

”دروازے پر موجود سائل مومن کی طرف اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے

ان موسیٰ کان یشی فناداه الجبار: یا موسیٰ، فالتفت یبینا وشمالا، فلم یر احدا، ثم ناداه الثانية فالتفت فلم یر احدا وارتعد، ثم نودی انی انا الله. فقال: لیبیک! وخر ساجدا. فقال: ارفع راسک ان احببت ان تسکن فی ظل عرشى فکن للیتیم کلاب الرحیم، للارملة کالزوج العطوف، یا موسیٰ کما تدین کما تدان، یا موسیٰ من لقینى وهو جاحد بمحمد ادخلته النار، لو کان ابراهیم خلیلی وموسىٰ کلیبی. قال: الهی، من محمد؟ قال: ما خلقت خلقا اکرم علی منه، کتبت اسمه فی العرش قبل ان اخلق السموات بالفی الف سنة.

”حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے ہوئے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا، اے موسیٰ! انہوں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، لیکن انہیں کوئی نظر نہیں آیا، پھر (پروردگار) نے انہیں دوبارہ پکارا، انہوں نے پھر (ادھر ادھر) دیکھا، لیکن انہیں کوئی نظر نہیں آیا، وہ گھبرا گئے، پھر آواز آئی: بے شک میں اللہ ہوں، حضرت موسیٰ نے کہا: میں حاضر ہوں، وہ سجدے میں گر گئے، پروردگار نے فرمایا: تم اپنا سر اٹھاؤ، اگر تم میرے عرش کے سائے میں رہنا چاہتے ہو، تو یتیم کے لیے مہربان باپ کی مانند ہو جاؤ، بیواؤں کے لیے مہربان شوہر کی مانند ہو جاؤ، اے موسیٰ علیہ السلام! تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اے موسیٰ علیہ السلام! جو شخص ایسی حالت میں میری بارگاہ حاضر ہو کہ وہ ”محمد“ کا انکار کرتا ہو، تو میں اسے جہنم میں داخل کروں گا، خواہ وہ میرا خلیل ابراہیم، یا میرا کلیم موسیٰ ہی کیوں نہ ہو، حضرت موسیٰ نے عرض کی: اے میرے معبود! حضرت محمد ﷺ کون ہیں؟ پروردگار نے فرمایا: میں نے ایسی کوئی مخلوق پیدا نہیں کی، جو میرے نزدیک اس سے زیادہ معزز ہو، میں نے آسمانوں کو پیدا کرنے سے بیس لاکھ سال پہلے اس کا نام عرش پر لکھ دیا تھا“

اس کے بعد اس نے طویل ”موضوع“ حدیث ذکر کی ہے۔

۳۲۸۴- سعید بن میسرہ بکری بصری ابو عمران.

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس سے ”منکر“ روایات منقول ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے: یہ ”منکر الحدیث“ ہے، امام ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ ”موضوع“ روایات نقل کرتا ہے، حاکم کہتے ہیں: اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ”موضوع“ روایات نقل کی ہیں، یحییٰ قطان نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔

سعید بن میسرہ بیان کرتے ہیں:

سبعت انسا - وسئل - عن المصافحة فقال: سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا التقى السلطانان فتصافحا لم يتفرقا حتى يغفر لهما.

میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو سنا، ان سے مصافحہ کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا: میں نے نبی اکرم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”جب دو مسلمان ملیں اور مصافحہ کریں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے

لا خیر فی صب الباء ، انه من الشيطان - یعنی كثرة الباء للوضوء .

”پانی بہانے میں بھلائی نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے“ (راوی کہتے ہیں) یعنی وضو کے دوران زیادہ پانی بہانا۔ اسی سند کے ساتھ یہ بھی منقول ہے:

صلی علی حمزة سبعین صلاة.

” (نبی اکرم ﷺ نے) 70 مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی تھی“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

القدریة يقولون: الخیر والشر بایدینا، لیس لهم فی شفاعتی نصیب.

”قدریہ (فرقے کے لوگ) یہ کہتے ہیں: بھلائی اور برائی ہمارے اختیار میں ہے، ان لوگوں کا میری شفاعت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔“ اسی سند کے ساتھ یہ بھی منقول ہے:

كان الحجر من یاقوت الجنة فمسحه المشرکون فاسود.

”حجر اسود، جنت کا یاقوت تھا، مشرکین کے چھونے کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے

من دانی فی المنام فانه لا یدخل النار.

”جس نے مجھے خواب میں دیکھا، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا“

ابن عدی نے اس کے حوالے سے یہ روایات نقل کرنے کے بعد یہ کہا ہے: یہ تارک معاطلے (کاشکار شخص) ہے۔

۳۲۸۵- سعید بن میمون (ق)

اس نے نافع سے روایات نقل کی ہیں، عبداللہ بن عاصمہ اس سے، سچنے لگوانے سے متعلق روایت نقل کرنے میں منفرد ہے۔

۳۲۸۶- سعید بن نشیط

یہ ابن لہیعہ کا استاد ہے، اس کی شناخت نہیں ہو سکتی، یہ مجہول ہے

۳۲۸۷- سعید بن ابونصر سکونی

اس نے ابن ابی لیلیٰ قاضی سے روایات نقل کی ہیں، ابوزرعہ نے اسے ”متروک“ قرار دیا ہے۔

۳۲۸۸- سعید بن نعمان

اس نے عطاء سے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے
(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس نے ایک ”اثر“ روایت کیا ہے۔

۳۲۸۹- سعید بن نمران

اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، یہ جنگ یرموک میں شریک ہوا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں کام کرتا رہا ہے۔ یہ مجہول ہے۔

۳۲۹۰- سعید بن ہاشم فیومی مصری

اس نے امام مالک سے روایات نقل کی ہیں، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ضعیف الحدیث“ ہے۔
یوسف بن یزید قرطیسی نے اس راوی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لا تسبوا الدهر، فان اللہ هو الدهر۔

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: زمانے کو براندہ کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے (کو تبدیل کرنے والا) ہے۔“

ابو بکر خطیب کہتے ہیں: میرے علم کے مطابق سعید نامی راوی کے علاوہ اور کسی نے یہ روایت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل نہیں کی۔

۳۲۹۱- سعید بن ہاشم مخزومی

اس نے نافع بن ابوعنیم سے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔ اس نے جو روایات نقل کی ہیں، وہ منکر ہیں۔
بلکہ اس نے نافع، اعرج کے حوالے سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک سو کے لگ بھگ روایات نقل کی ہیں، جن میں منکر روایات بھی ہیں۔

ابن عدی کہتے ہیں: اگر تقاریق میں سے، اس کی حدیثوں کو جمع کیا جائے، تو وہ پچاس حدیثوں تک بھی نہیں پہنچیں گی، جو اس نسخے کے علاوہ ہوں، جو ابوزناد کے حوالے سے سعید سے منقول ہے۔ اس کا شمار مدنی راویوں میں ہوتا ہے۔

ابن جوزی کہتے ہیں: جہاں تک سعید بن ہاشم طبری، سعید بن ہاشم عتکی، سعید بن ہاشم بکری کا تعلق ہے، تو ہمیں ان میں کسی قدرح کا علم نہیں ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: ہم نے انہیں کتب رواۃ میں بھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی ان کا تذکرہ ابن ابوحاتم کی کتاب میں ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کون ہیں؟

۳۲۹۲- سعید بن ہبیرہ مروزی

اس نے حماد بن سلمہ اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، اس نے بہت سی (احادیث یا ان کے مجموعہ جات) تحریر کیے ہیں۔

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ثقہ لوگوں سے موضوع روایات نقل کرتا ہے، یا تو اس نے خود انہیں ایجاد کیا ہے۔ یا پھر وہ اس کے لیے ایجاد کی گئیں، تو اس نے ان میں حصہ لیا۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

لا تضربوا اہماء کم علی کسر اناکم، فان لها آجالا کآجال الناس.

”اپنی کنیزوں کو، برتن توڑنے پر نہ مارو، کیونکہ لوگوں کی (زندگی کی) مقررہ مدت کی طرح ان (برتنوں) کی بھی مقررہ مدت ہے“

۳۲۹۳- سعید بن ابوالہلال (ع)

یہ ثقہ اور معروف ہے، اس کی روایات ”کتب ستہ“ میں مذکور ہیں۔

اس نے نافع اور نعیم مجمر سے روایات نقل کی ہیں اس سے سعید مقبری نے روایات نقل کی ہیں، جو اس کے شیوخ میں سے ایک ہیں۔ صرف ابن حزم نے یہ کہا ہے: ”یہ قوی“ نہیں ہے۔

۳۲۹۴- سعید بن ہناد بوہمی

ابن ابوحاتم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے حالات بیان کیے ہیں یہ مجہول ہے۔

۳۲۹۵- سعید بن ہند خزاز

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ثقہ“ نہیں ہے یہ بات ابن جوزی نے نقل کی ہے۔

۳۲۹۶- سعید بن واصل

اس نے شعبہ اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں۔ اس سے عباس دوری اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابوحاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”لین الحدیث“ ہے ابن مدینی کہتے ہیں: اس کی حدیث رخصت ہو گئی تھی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔

۳۲۹۷- (صح) سعید بن یحییٰ (خ، س، ق، لخمی، سعدان، ابو یحییٰ کوفی)

اس نے دمشق میں رہائش اختیار کی اس نے عمش اور ابن ابوخالد سے روایات نقل کی ہیں جب کہ ہشام بن عمار، علی بن حجر اور متعدد دافراد نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقہ“ قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے: یہ ثقہ اور مامون ہے، امام ابوحاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کا محل صدق ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ اس پائے کا نہیں ہے۔

۳۲۹۸- سعید بن یحییٰ (خ، ت) ابوسفیان حمیری.

اس کا ذکر اس کی کنیت سے متعلق (باب میں) آئے گا، یہ درمیانے درجے کا ہے۔

۳۲۹۹- سعید بن یزید بن الصلت

اس نے ابن جریر سے روایات نقل کی ہیں اس کی شناخت نہیں ہو سکی اس نے ایک منکر روایت نقل کی ہے۔
عقلمانی بیان کرتے ہیں: اس کی متابعت نہیں کی گئی اور وہ روایت غلطی پر مبنی ہے۔

۳۳۰۰- سعید بن یزید (س) احمسی۔

اس نے امام شعبی کے حوالے سے سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے ”طلاق بتہ“ والی عورت سے متعلق حدیث نقل کی ہے اور اس سے ابو نعیم نے روایت نقل کی ہے اس نے اس روایت میں کچھ ایسے الفاظ نقل کیے ہیں جن کے ثابت ہونے کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ابو حاتم نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے: یہ شیخ ہے ابن قطان کہتے ہیں: اس کی عدالت ثابت نہیں ہوئی ہے۔

۳۳۰۱- سعید بن یوسف یمامی رحبی شامی

اس سے اسماعیل بن عیاش نے روایات نقل کی ہیں ابن معین رضی اللہ عنہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے امام نسائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ”قوی“ نہیں ہے۔

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس کے حوالے سے ایسی روایات منقول ہیں جو اس نے یحییٰ بن ابوکثیر سے نقل کی ہیں تاہم ابن ابوحاتم نے ”بحری“ اور ”یمامی“ کے درمیان فرق کیا ہے انہوں نے پہلے والے کو مجہول قرار دیا ہے اور ”یمامی“ کے بارے میں یہ کہا ہے: یہ ”حمصی رحبی“ ہے یہ مشہور نہیں ہے میں اس کی حدیث کو منکر نہیں سمجھتا۔

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس کے حوالے سے منکر حدیث منقول ہے۔

امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اسحاق بن یزید کہتے ہیں: یہ فرادیس ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جاج ثمالی رضی اللہ عنہ جنہیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے ان سے یہ روایت نقل کی ہے کہ: انہیں حضرت نفیر بن مجیب رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی جو قدیم صحابہ میں سے ایک ہیں وہ بیان کرتے ہیں:

ان فی جہنم سبعین الف واد فی الوادی سبعون الف شعب الحدیث بطولہ
”جہنم میں ستر ہزار وادیاں ہیں اور ہر وادی میں ستر ہزار گھائیاں ہیں“ اس کے بعد طویل حدیث ہے۔

۳۳۰۲- سعید بن یوسف بحری،

۳۳۰۳- سعید الرعینی۔

اس نے احنف سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۳۰۴- سعید حرشی

اس نے اسماعیل بن عبد اللہ سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۳۰۵- سعید

اس نے ابوالاسود سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۳۰۶- سعید (د) مولیٰ نمران۔

اس نے اپنے آقا زید بن نمران سے روایات نقل کی ہیں (سعید نامی سابقہ پانچوں راوی) مجہول ہیں۔

۳۳۰۷- سعید مؤدب

دارمی کہتے ہیں: میں نے یحییٰ بن معین سے اس کے بارے میں دریافت کیا: تو وہ بولے: میں اس سے واقف نہیں ہوں۔

۳۳۰۸- سعید انصاری (د)

اس نے حصین بن وحوح سے روایات نقل کی ہیں اس کے حوالے سے روایت نقل کرنے میں اس کا بیٹا عمرو یا عزہ منفرد ہے۔

۳۳۰۹- سعید قیسی (ع)

اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایات نقل کی ہیں؛ سلیمان تیمی اس سے روایت نقل کرنے میں منفرد ہے۔

۳۳۱۰- سعید تمار۔

اس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں؛ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس میں غور فکر کی گنجائش ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

”من مات وهو يرى السيف على امتي لقي الله وفي كفيه مكتوب: آيس من رحمتي

”جو شخص ایسے حالت میں مرے کہ وہ میری امت پر تلوار اٹھانے کا قائل ہو تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو

اس کی دونوں ہتھیلیوں پہ یہ لکھا ہوگا ”یہ میری رحمت سے مایوس ہے“۔

(سعیر، سفر)

۳۳۱۱- سعیر بن خمس (م، ت، س)۔

اس نے حبیب بن ابوثابت، ابواسحاق سے روایات نقل کی ہیں؛ جب کہ حسین جعفی، یحییٰ بن یحییٰ اور ایک جماعت نے اس سے

روایات نقل کی ہیں۔

یحییٰ بن معین نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔ امام ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس سے استدلال کیا جاسکتا۔

ابو فضل شہید کہتے ہیں: اس نے تھوڑی روایات نقل کرنے کے باوجود ان میں غلطیاں بھی کی ہیں اس کے بیٹے مالک کی پیدائش اس

واقعی کے بعد ہوئی تھی؛ جب لوگ اسے (مردہ سمجھ کر) قبرستان لے گئے تھے؛ تاکہ اسے دفن کریں، لیکن پھر اس نے حرکت کی اور اپنے گھر واپس آ گیا، یہ اس کے بعد بھی کئی سال تک زندہ رہا۔

یہ بات بیان کی گئی ہے: اس کے حوالے سے دس روایات منقول ہیں۔

۳۳۱۲۔ سفر بن نسیر (ق) حمصی

اس نے بعض تابعین سے روایات نقل کی ہیں۔

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: معاویہ بن صالح اور دیگر حضرات نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

(سفیان)

۳۳۱۳۔ سفیان بن ابراہیم کوفی۔

ازدی نے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے: یہ بھٹکا ہوا اور ضعیف ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: اسماعیل بن صبیح نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الا ترضی یا علی اذا جمع اللہ الناس فی صعید واحد ان

اقوم عن یمین العرش وانت عن یشیمی، تکسی ثوبین ابیضین، فلا ادعی بخییر الادعیات.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے فرمایا: اے علی! کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک میدان میں

اکٹھا کرے گا، تو میں اس وقت عرش کے دائیں طرف ہوں گا اور تم میرے دائیں ہونگے، تمہیں دو سفید لباس پہنائے جائیں

گے اور جس بھی بھلائی کے ہمراہ مجھے بلایا جائے گا، تمہیں بھی بلایا جائے گا۔“

عبداللہ مومن نامی راوی بھی خرابی کا شکار ہے اور یہ روایت انتہائی منکر ہے۔

۳۳۱۴۔ سفیان بن حسین (عمو، متق) واسطی

یہ صدوق اور مشہور ہے، ایک قول کے مطابق اس کی کنیت ابوالحسن ہے اور یہ امیر عبداللہ بن حازم سلمی کا آزاد کردہ غلام ہے اور ایک

قول کے مطابق یہ عبدالرحمن بن سلمہ قرشی کا آزاد کردہ غلام ہے۔

اس نے زہری کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، جن میں یہ اضطراب کا شکار ہوتا ہے، اس کے علاوہ حکم، یونس بن عبید اور ایک گروہ

سے روایات نقل کی ہیں۔

اس سے شعبہ نے روایات نقل کی ہیں، جو اس کے معاصرین میں سے ہیں، ان کے علاوہ ہشیم، عباد بن عوام، یزید بن ہارون نے اس،

سے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: زہری کے بارے میں یہ زیادہ مستند نہیں ہے۔

عباس دوری نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاہم یہ زہری کے بڑے شاگردوں میں سے ایک نہیں ہے، اس کی نقل کردہ حدیث میں ضعف پایا جاتا ہے۔

ابن ابوشیبہ نے ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: زہری کے علاوہ (حضرات سے) روایت نقل کرنے میں یہ ثقہ ہے، اس نے زہری سے حج کے موقع پر سماع کیا تھا۔

یعقوب بن ابوشیبہ نے یحییٰ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ مؤدب تھا لیکن قوی نہیں تھا۔

ابوداؤد یحییٰ کا یہ قول نقل کرتے ہیں: یہ حافظ (الحدیث) نہیں ہے اور نہ ہی زہری کے حوالے سے قوی ہے۔

عثمان بن سعید بیان کرتے ہیں: میں نے یحییٰ بن معین سے اس کے بارے میں دریافت کیا، تو وہ بولے: یہ ثقہ ہے، تاہم زہری سے حدیث نقل کرنے میں یہ ضعیف الحدیث ہے۔

احمد بن عبداللہ عجمی کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے، عثمان بن ابوشیبہ کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے، لیکن حدیث میں تھوڑا سا اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔

ابن سعد کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے، تاہم اپنی حدیث میں بہت زیادہ غلطی کرتا ہے، یعقوب بن ابوشیبہ کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے، لیکن اس کی حدیث میں ضعف پایا جاتا ہے۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”صالح الحدیث“ ہے، اس کی حدیث کو نوٹ کیا جائے گا اور ابن اسحاق کی طرح اس سے بھی استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: زہری کے علاوہ میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ زہری سے مقلوب روایات نقل کرتا ہے، جب یہ زہری کے علاوہ کسی اور سے حدیث نقل کرے تو اس کی حدیث ”ثبت“ راویوں کی حدیث سے زیادہ مشابہت رکھتی ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے، زہری کا صحیفہ اس کے سامنے مختلط ہو گیا تھا، تو یہ وہم کی بنیاد پر اس سے روایات نقل کرتا تھا۔

ابن عدی کہتے ہیں: زہری کے علاوہ میں یہ ”صالح الحدیث“ ہے، اور زہری سے اس نے ایسی روایات نقل کی ہیں، جو لوگوں کی نقل کردہ روایات کے برخلاف ہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استشہاد کیا ہے انہوں نے اس کے حوالے سے ”الادب المفرد“ اور دیگر کتابوں میں روایات نقل کی ہیں۔ جب کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب (صحیح مسلم) کے مقدمہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ جب کہ سنن اربعہ کے مصنفین نے بھی اس کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں۔

یحییٰ بن معین کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے، ابو یعلیٰ کہتے ہیں: یحییٰ بن معین سے کہا گیا: سفیان بن حسن کی، زہری، سالم کے حوالے سے، ان کے والد سے ”صدقات“ کے بارے میں نقل کردہ روایت (کا حکم کیا ہے؟) تو انہوں نے فرمایا: اس میں کسی نے اس کی متابعت نہیں

کی تو یہ روایت مستند نہیں ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: ابن صائد نے اپنی سند کے ساتھ، زہری کے حوالے سے اس کی مانند روایت نقل کی ہے۔

ایک جماعت نے یہ روایت، زہری کے حوالے سے، ”موقوف“ روایت کے طور پر نقل کی ہے

امام بیہقی ”جانور کے ٹانگ مار کر (نقصان کرنے)“ سے متعلق باب میں نقل کرتے ہیں:

امام شافعی فرماتے ہیں: اس جانور کو پیچھے لے کر چلنے والے اور ہانک کر لے جانے والے شخص کو تاوان ادا کرنا ہوگا، جو نقصان اس

جانور نے اپنے ہاتھ، پاؤں، منہ یا دم کے ذریعے کیا ہوگا۔

امام بیہقی، حضرت براء بن عتبہؓ کی نقل کردہ حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں: عبدالحق بن علی نے اپنی سند کے ساتھ، حضرت

ابو ہریرہؓ کے حوالے سے، نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان نقل کیا ہے:

الرجل جبار.

” (جانور کے) پاؤں (مارنے سے مرنے والے کا خون) رائیگاں جائے گا“

امام شافعی فرماتے ہیں: اس متن میں غلطی پائی جاتی ہے، کیونکہ حافظان حدیث نے ان الفاظ کی تحقیق نہیں کی۔ امام بیہقی نے بھی

یہی بات کہی ہے۔

یہ روایت امام مالک، ابن جریج معمر اور ایک جماعت نے زہری کے حوالے سے نقل کی ہے، لیکن انہوں نے اس میں ”ٹانگ“ کا

ذکر نہیں کیا۔ کسی نے بھی سفیان بن حسین کے ان الفاظ کی متابعت نہیں کی۔

”ٹانگ کے ذریعے (مرنے والے کا خون) رائیگاں جائے گا“ یہ الفاظ وہم پر مشتمل ہیں۔

امام مالک اور حافظان حدیث کی ایک جماعت نے زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے۔

بلغنی ان عائشة وحفصة اصبحتا صائبتین متطوعتین فاهدی لہم طعاما فافطرتا علیہ، فقال النبی

صلی اللہ علیہ وسلم: اقصیا یوما مکانہ.

”مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے، ایک مرتبہ سیدہ عائشہؓ اور سیدہ حفصہؓ نے نفل روزہ رکھا ہوا تھا، پھر ان کی خدمت میں

کھانا تحفے کے طور پر پیش کیا گیا تو انہوں نے اسے کھا کر روزہ ختم کر دیا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم دونوں اس کی جگہ ایک

دن روزہ رکھ لینا“۔

امام بیہقی بیان کرتے ہیں: یہ روایت جعفر نے برقان، صالح بن ابوالاخصر، سفیان بن حسین، زہری، عروہ کے حوالے سے سیدہ

عائشہؓ سے نقل کی ہے۔

ان راویوں نے اس میں زہری کے حوالے سے وہم کیا ہے، کیونکہ ایک اور سند کے ساتھ یہ بات منقول ہے: ابن جریج بیان کرتے

ہیں: میں نے ابن شہاب زہری سے کہا: کیا عروہ نے سیدہ عائشہؓ اور سیدہ حفصہؓ کے حوالے سے، آپ کو یہ حدیث بیان کی ہے؟

”سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں: ایک مرتبہ میں نے اور حفصہؓ نے (نفلی) روزہ رکھا ہوا تھا“

تو زہری نے جواب دیا: میں نے عروہ سے اس بارے میں کوئی روایت نہیں سنی ہے۔ البتہ لوگوں نے ایک ایسے شخص کے حوالے سے یہ حدیث مجھے بیان کی ہے، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں آیا جایا کرتا تھا۔

اسی طرح امام عبدالرزاق اور زبجی نے ابن جریج کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔

امام ترمذی بیان کرتے ہیں: میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے، اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا: عروہ سے منقول ہونے کے حوالے سے، یہ روایت مستند نہیں ہے۔

ذہبی نے بھی اسے طرح کہا ہے۔

ان دونوں حضرات نے ابن جریج کے اس بیان سے استدلال کیا ہے: وہ کہتے ہیں: میں نے زہری کو یہ روایت، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے، ”مرسل“ روایت کے طور پر نقل کرتے ہوئے سنا ہے۔

امام ابوداؤد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: مسدد نے، اپنی سند کے ساتھ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے:

من ادخل فرسا بین فرسین وقد امن ان یسبق فهو قمار.

”جو شخص دو گھوڑوں کے درمیان گھوڑا داخل کرے، اور وہ اس بات سے مامون ہو کہ اسے مسبق کیا جائیگا، تو یہ قمار ہے“

امام ابوداؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں: محمود بن خالد نے اپنی سند کے ساتھ، زہری کے حوالے سے، اسی روایت کو معنوی طور پر نقل کیا ہے۔ چند دیگر اہل علم سے بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے، اور یہ روایت زیادہ مستند ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے

من بات و فی یدہ غمر الحدیث.

”جو شخص ایسی حالت میں رات بسر کرے کہ اس کے ہاتھ میں (گوشت کی) بو ہو“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے۔

من بات و فی یدہ غمر الحدیث.

”جو شخص ایسی حالت میں رات بسر کرے کہ اس کے ہاتھ میں (گوشت کی) بو ہو“

عمر بن علی نے یہ روایت، اپنی سند کے ساتھ، زہری، سالم کے حوالے سے ان کے والد سے نقل کی ہے۔ تو ہو سکتا ہے، اس میں غلط فہمی عمر بن علی نامی راوی کو ہوئی ہو۔

سفیان بن حسین کا انتقال سفیان ثوری سے پہلے ہو گیا تھا، حالانکہ وہ ان کے معاصرین میں سے ہیں۔

سلیمان بن کثیر کے حوالے سے، زہری کے حوالے سے، اس کی مانند روایت منقول ہے۔

یہ روایت ایک جماعت نے، زہری کے حوالے سے، ”موقوف“ روایت کے طور پر نقل کی ہے۔

یعقوب بن شیبہ بیان کرتے ہیں: میں نے یحییٰ بن معین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: سفیان بن حسین ”مؤدب“ تھے لیکن ”قوی“ نہیں

تھے۔

ابوداؤد نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ حافظ (الحدیث) نہیں تھے۔ عباس دوری نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: اس (راوی) میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عثمان بن سعید نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ثقہ ہے لیکن زہری کے بارے میں یہ ضعیف ہے۔
امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”صالح الحدیث“ ہے، اس کی حدیث کو نوٹ کیا جائیگا۔ البتہ اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا اور یہ ابن اسحاق کی مانند ہوگا۔

عباد بن عوام نے، سفیان نامی اس راوی کے حوالے سے، زہری سعید، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے۔

الرجل جبار.

”جانور) ٹانگ مارنے سے (مرنے والے کا خون) رائیگاں جائے گا“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے من بات و فی یدہ غبر الحدیث.

”جو شخص ایسی حالت میں رات بسر کرے کہ اس کے ہاتھ میں (گوشت کی) ٹوہو“

بعض حضرات نے یہ روایت عمر بن علی کے حوالے سے نقل کی ہے وہ یہ کہتے ہیں:

یہ سفیان بن حسین، زہری، سالم کے حوالے سے ان کے والد سے منقول ہے۔

تو ہو سکتا ہے: اس میں عمر بن علی نامی راوی اختلاط کا شکار ہوا ہو۔

یہ روایت عمر بن علی کے حوالے سے، ہشام بن عروہ ان کے والد کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی منقول ہے۔

۳۳۱۵- سفیان بن زیاد (ق).

اس نے حجاج بن نصیر سے روایات نقل کی ہیں، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تذکرہ ”الثقات“ میں کیا ہے۔

۳۳۱۶- سفیان بن زیاد مخزومی

اس نے عیسیٰ بن یونس سے روایات نقل کی ہیں، تو خطیب نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں: ابن عساکر کے سامنے ان دونوں کے حالات خلط ملط ہو گئے، تو وہ وہم کا شکار ہو گئے۔

۳۳۱۷- سفیان بن زیاد غسانی

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، اس سے خالد بن حمید مہری نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے؟

۳۳۱۸- سفیان بن زیاد رواسی

اس نے ابن عیینہ سے روایات نقل کی ہیں۔ اس سے ابن ابی دنیانے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی۔

۳۳۱۹- سفیان بن زیاد

اس نے فیاض بن محمد سے روایات نقل کی ہیں، اس سے عثمان بن خزاذ نے روایات نقل کی ہیں۔

۳۳۲۰- سفیان بن زیاد

یہ عبد اللہ بن مبارک کا شاگرد ہے اور امام اور ثبوت ہے۔

۳۳۲۱- سفیان بن زیاد بصری

یہ ”راس“ کے نام سے معروف ہے۔ اس نے حماد بن زید، ابن عیینہ اور فلاس سے روایات نقل کی ہیں۔

ابو حاتم نے اس کی شان کو عظیم قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں: یہ حافظان حدیث میں سے ایک ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: اس کا انتقال 200 ہجری کے بعد، جوانی کے عالم میں ہوا تھا۔ یہ ابن ابی دنیا کا استاد

نہیں ہے۔

۳۳۲۲- سفیان بن زیاد عقیلی (بصری)

اس نے ابو عاصم سے روایات نقل کی ہیں، اسے ”ثقفہ“ قرار دیا گیا ہے اور یہ منکر راویوں میں سے ایک ہے۔

۳۳۲۳- سفیان بن زیاد

اس نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، داؤد بن فریج کے علاوہ کسی نے بھی اس سے روایت نقل نہیں کی ہے۔

یہ ثبوت راویوں میں سے ایک ہے۔

۳۳۲۴- سفیان بن زیاد (خ، عمو) عصفری، ابوورقاء

اس نے عکرمہ اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں، یعلیٰ، محمد یہ دونوں عبید کے بیٹے ہیں، انہوں نے اس سے روایات نقل کی

ہیں، محدثین نے اسے ”ثقفہ“ قرار دیا ہے۔

۳۳۲۵- (صح) سفیان بن سعید (ع)

یہ حجت اور ثبوت ہے، اس پر اتفاق پایا جاتا ہے، البتہ یہ ضعیف راویوں کے حوالے سے تدلیس کرتا ہے۔ لیکن اسے (غیر

مستند راویوں) پر نقد کرنے (کا ملکہ) حاصل ہے۔ اس شخص کے قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، جو یہ کہتا ہے: سفیان ”تدلیس“ کرتے تھے

اور جھوٹے راویوں سے روایات نقل کرتے تھے۔

۳۳۲۶۔ سفیان بن ابوسراج

اس نے مغیرہ بن سوید سے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے، اسی طرح اس کا استاد بھی مجہول ہے۔

۳۳۲۷۔ سفیان بن عامر

یہ بخارا کے قاضی تھے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں تھے۔

ازدی کہتے ہیں: سفیان بن عامر غفاری کو (محدثین) نے ”متروک“ قرار دیا ہے۔

۳۳۲۸۔ سفیان بن عقبہ (عو) کوفی

یہ قبیصہ کا بھائی ہے، یحییٰ بن معین سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا: تو وہ بولے: میں اس سے واقف نہیں ہوں۔

ابن عدی نے اس کے حوالے سے پانچ روایات نقل کی ہیں جو حمزہ زیات اور ثوری سے منقول ہیں اس کے بعد وہ یہ کہتے

ہیں: میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ابن نمیر کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اس سے ابو کریب، عبداللہ بن محمد بن شا کر اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں، یہ ”صدوق“ ہے۔

۳۳۲۹۔ سفیان بن ابو عوجاء (د، ق)

اس نے حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ اس حدیث میں غور و فکر کی گنجائش ہے، یعنی یہ حدیث کہ

”جس شخص کو قتل یا عضو کے ضائع ہو جانے کے حوالے سے نقصان پہنچے، تو اسے تین میں سے کسی ایک چیز کو قبول کرنے کا اختیار

ہوگا۔“

اس کے بعد انہوں نے پوری حدیث ذکر کی ہے۔

یہ روایت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن ماجہ نے ابن اسحاق کے حوالے سے حارث بن فضیل کے حوالے سے اس شخص سے نقل کی

ہے۔

اس شخص کی شناخت اس حدیث کے علاوہ نہیں ہو سکی۔ اور یہ ایک منکر حدیث ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت

ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من اصاب بدم او خبل فهو بین احدی ثلاث: ان یقتص، او یعفو، او یاخذ العقل، فان اخذ واحدة

ثم تعدی بعد ذلك فله النار خالدًا مخلدًا فیہا ابدًا.

”جسے قتل یا کسی عضو کے کاٹنے کے حوالے سے (نقصان پہنچا ہو) اسے تین میں سے کسی ایک بات کا اختیار ہوگا یا تو وہ

قصاص لے یا معاف کرنے یا دیت لے، اگر وہ ان میں سے کوئی ایک چیز لے لیتا ہے اور پھر وہ اس سے آگے بڑھنے کی

کوش کرتا ہے تو اسے جہنم ملے گی۔ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔

امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن ماجہ نے یہ روایت مختلف سندوں کے ساتھ محمد بن اسحاق سے نقل کی ہے۔

۳۴۳۰۔ (صح) سفیان بن عیینہ (ع) ہلالی

یہ ثقہ اور جلیل القدر حضرات میں سے ایک ہیں ان سے استدلال کرنے پر امت کا اتفاق ہے یہ تدریس کرتے تھے لیکن ان کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ صرف کسی ثقہ راوی کے حوالے سے تدریس کرتے تھے۔

یہ قوی حافظے کے مالک تھے۔ زہری کے شاگردوں میں ان سے کم عمر کا شخص کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ان میں سب سے زیادہ مثبت تھے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: عمرو بن دینار کے بارے میں یہ سب سے زیادہ مثبت تھے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں: میں اور علی بن مدینی بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ زہری کے حوالے سے روایات نقل کرنے میں سب سے زیادہ مثبت کون ہے؟ تو علی بن مدینی نے کہا: سفیان بن عیینہ۔ میں نے کہا: امام مالک کیونکہ امام مالک کم غلطی کرتے ہیں جب کہ سفیان بن عیینہ نے زہری کے حوالے سے تقریباً بیس روایات میں غلطی کی ہے۔

پھر میں نے ان میں سے اٹھارہ روایات ذکر کر دیں، پھر میں نے کہا: اب آپ وہ روایات پیش کر دیں، جن میں امام مالک نے غلطی کی ہے تو علی بن مدینی صرف دو یا تین روایات پیش کر سکے۔ پھر میں واپس آیا (اور تحقیق کی) تو پتا چلا سفیان بن عیینہ نے بیس سے زیادہ روایات میں غلطی کی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: امام مالک نے زہری کے حوالے سے تقریباً تین سو روایات نقل کی ہیں، اسی طرح سفیان بن عیینہ نے بھی ان سے تقریباً تین سو روایات نقل کی ہیں۔

محمد بن عبد اللہ بن عمار الموصلی، نے یحییٰ بن سعید قطان کا یہ قول نقل کیا ہے: میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ سفیان بن عیینہ 197 ہجری میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، تو جس شخص نے اس دوران ان سے سماع کیا ہے، اُس کا سماع کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس دوران ان سے محمد بن عاصم نے سماع کیا ہے، جو اس بلند جزء کا مصنف ہے، میرا غالب گمان یہ ہے، صحاح ستہ کے تمام مؤلفین نے 197 ہجری سے پہلے ان سے احادیث کا سماع کیا ہے۔

198 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا اس سال کسی نے ان سے ملاقات نہیں کی، کیونکہ ان کا انتقال حاجیوں کی آمد سے چار ماہ پہلے

ہوا تھا۔

یہ کلام یحییٰ بن سعید القطان کا ہونا، بعید از امکان ہے، میں اسے ابن عمار نامی راوی کی غلطی شمار کرتا ہوں، کیونکہ قطان کا انتقال 198 ہجری میں صفر کے مہینے میں ہوا تھا، جب حاجی آجاتے ہیں اور یہ وہ وقت ہے، جب انہیں حجاز کے بارے میں اطلاعات ملی تھیں، تو پھر یحییٰ بن سعید کو یہ کیسے پتا چل گیا: کہ سفیان اس دوران اختلاط کا شکار ہو چکے ہیں اور پھر انہوں نے اس بارے میں گواہی بھی دے دی، حالانکہ وہ خود اس وقت موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔

ہوسکتا ہے کہ انہیں 197 ہجری کے دوران ہی اس بات کی اطلاع مل گئی ہو، باوجودیکہ یحییٰ بن سعید قطان، رجال کے بارے میں سختی

کا مظاہرہ کرتے ہیں، جب کہ سفیان نامی راوی مطلق طور پر ثقہ ہیں باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

۳۳۳۱- سفیان بن لیث کوفی

ان سے امام شعیبی نے روایات نقل کی ہیں ان کی نقل کردہ روایت مستند نہیں ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی حدیث کو نقل کرنے میں سری بن اسماعیل نامی راوی منفرد ہے جو خود ہلاکت کا شکار ہونے والوں میں سے ایک ہے اس نے شعیبی کے حوالے سے سفیان نامی اس راوی سے یہ روایت نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں:

لما قدم الحسن بن علی رضی اللہ عنہما من الکوفة الی البدینة اتیتہ فقلت: یا مذل المؤمنین۔
قال: لا تقل ذاک، فانی سمعت ابی یقول: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تذهب
الایام واللیالی حتی یملک رجل وهو معاویة واللہ ما احب ان لی دنیا وما فیها وانه یهراق فی
محجنة من دم۔

وسمعت ابی یقول: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یقول (من احبنا بقلبه، اعاننا بیده
ولسانہ، کنت انا وهو فی علیین ومن احبنا بقلبه واعاننا بلسانہ وكف یدہ فهو فی الدرجة التي
تلیها ومن احبنا بقلبه وكف عنا لسانہ ویدہ فهو فی الدرجة التي تلیها۔

”جب حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما کوفہ سے مدینہ منورہ آئے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا: اے اہل
ایمان کو ذلیل کرنے والی شخصیت! انہوں نے فرمایا: تم یہ نہ کہو، کیونکہ میں نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے وہ
کہتے ہیں: میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”رات اور دن اس وقت تک ختم نہیں ہوں گے جب تک ایک شخص بادشاہ نہیں بنے گا“

اس سے مراد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ کی قسم! مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی ایک ڈھال میں آنے والے خون بختنا
خون بہایا جائے اور اس کے عوض میں مجھے دنیا اور اس میں موجود سب کچھ مل جائے۔

میں نے اپنے والد کو یہ بیان کرتے ہوئے بھی سنا ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:
”جو شخص دلی طور پر ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہو اور اپنے ہاتھوں اور زبان کے ذریعے ہماری مدد کرے، میں اور وہ ”علیین“ میں
ہوں گے اور جو شخص دلی طور پر ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہو اور زبانی طور پر ہمارا ساتھ دے، لیکن اپنے ہاتھ کو روک لے، وہ اس
کے بعد والے درجے میں ہوگا اور جو شخص دلی طور پر ہم سے محبت رکھتا ہو، لیکن زبان یا ہاتھ کے ذریعے اس کا اظہار نہ کرے
وہ اس کے بعد والے درجے میں ہوگا“

یہ روایت نعیم بن حماد نے ابن فضیل کے حوالے سے سری سے نقل کی ہے۔

ابوالفتح ازدی بیان کرتے ہیں: سفیان نامی اس راوی کے حوالے سے یہ حدیث بھی منقول ہے۔

لا تبضی الامة حتی یلیها رجل واسم البلعوم: قال: وفي لفظ آخر: واسع الصرم، یا کل ولا یشبع.
 ”اس امت (کا وقت اس وقت تک پورا نہیں ہوگا) جب تک اس کا حکمران ایک ایسا شخص نہیں بنے گا جس کا حلق وسیع ہوگا۔ راوی کہتے ہیں دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں: جس کی تھیلی (یعنی پیٹ) کشادہ ہوگا وہ کھائے گا لیکن سیر نہیں ہوگا۔“

راوی کہتے ہیں: سفیان نامی راوی مجہول ہے اور یہ روایت ”منکر“ ہے

۳۳۳۲- سفیان بن محمد فزاری مصیسی۔

اس نے ابن وہب اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں احمد بن حسین صوفی، اسحاق ثقفی اور ایک جماعت نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

ابن عدی کہتے ہیں: یہ حدیث میں سرقہ کرتا تھا اور اسانید کو برابر کر دیتا تھا

اس نے منصور بن سلمہ کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، منصور میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کے والد (امام باقر رضی اللہ عنہ) کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے۔

اذا رايتم فلانا على منبري فاقتلوه

” (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں) جب تم لوگ فلاں شخص کو میرے منبر پر دیکھو تو اسے قتل کر دینا“

یہ روایت خالد بن مخلد نے اپنی سند کے ساتھ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اہل بدر کی ایک جماعت سے نقل کی ہے۔

اس کے حوالے سے ایک روایت بھی منقول ہے جو اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔

یا فاطمة، انی زوجتک سیدا فی الدنیا وانہ فی الآخرة لمن الصالحین، انی لما اردت ان ازوجک امر

اللہ جبرائیل فصف الملائکة، امر شجر الجنان فحملت الحلی والحلل.

” (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا) ”اے فاطمہ! میں نے تمہاری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو دنیا میں سردار ہے اور

آخرت میں نیک لوگوں میں سے ایک ہوگا جب میں نے تمہاری شادی کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم

دیا، تو انہوں نے فرشتوں کی صفیں بنوائیں اور جنت کے درختوں کو حکم دیا تو انہوں نے اپنے اوپر زور اور حلقے ڈال لیے“

یہ روایت جھوٹی ہے۔

اس راوی کے حوالے سے یہ روایت بھی منقول ہے جو اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث کے طور پر نقل

کی ہے۔

من کرامتی انی ولدت مختونا، فلم یر احد سواتی

”میری خصوصیات میں یہ بات شامل ہے کہ میں محتون پیدا ہوا تھا اور کسی نے میری شرمگاہ کو نہیں دیکھا“

۳۳۳۳- سفیان بن معاذ بن قیس مصری

اس نے اپنے والد کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اس سے صرف حرمہ بن عمران نے روایات نقل کی ہیں۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے ”الادب المفرد“ میں روایت نقل کی ہے۔

۳۳۳۴- (صح) سفیان بن موسیٰ (م) بصری

یہ ”صدوق“ ہے اس نے ایوب اور سیار ابو الحکم سے روایات نقل کی ہیں اس سے فلاس، جہضمی اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کتاب ”الثقات“ میں کیا ہے۔
امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ مجہول ہے۔

۳۳۳۵- سفیان بن شیط، بصری

میرے علم کے مطابق ابوسلمہ ہوذی کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایت نقل نہیں کی ہے۔

۳۳۳۶- سفیان بن ہشام، مروزی

اس کی شناخت نہیں ہو سکی شاید یہ ہشام بن سفیان ہے۔

۳۳۳۷- سفیان بن وکیع (ت، ق) بن جراح، ابو محمد واسی

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: محدثین نے کچھ چیزوں کی وجہ سے اس کے بارے میں کلام کیا ہے جو اسے تلقین کی گئی تھیں۔
ابوزرعہ کہتے ہیں: اس پر جھوٹ کا الزام ہے

ابن ابو حاتم کہتے ہیں: میرے والد نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس نسخہ کو نقل کرنے والے نے تبدیلی کی تھی جس کی وجہ سے اس کی نقل کردہ روایات میں خرابی آ گئی اس نسخہ کو نقل کرنے والے نے اس سے کہا: آپ صرف وہ احادیث بیان کریں جو آپ کی تحریر میں ہوں اس نے کہا: ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا پھر اس نے اس نسخے میں سے وہ روایات نقل کیں جو اس میں شامل کردی گئی تھیں۔

ابو احمد نے اس کے حوالے سے پانچ روایات نقل کی ہیں جن کی سند منکر ہے، متن منکر نہیں ہے پھر انہوں نے یہ بات بیان کی ہے:
اس کی حوالے سے اور بھی بہت سی روایات منقول ہیں۔ اور ان میں خرابی یہ ہے، کہ اسے جو تلقین کی جاتی تھی یہ اسے قبول کر لیتا تھا۔
یہ بات بھی بیان کی گئی ہے: اس کا ایک ”وراق“ تھا جو اسے تلقین کرتا تھا تو یہ موقوف روایت کو مرفوع کے طور پر، مرسل کو موصول کے طور پر نقل کر دیتا تھا، یا ایک آدمی کی جگہ دوسرے کا ذکر کر دیتا تھا۔

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کا انتقال 247 ہجری میں ہوا۔ یہ شیخ، فاضل اور صدوق تھا، لیکن یہ برے ”وراق“ کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہوا، جس نے اس کی روایات میں دوسری روایات داخل کر دیں۔ اس سے، اس بارے میں بات کی گئی، لیکن اس نے

رجوع نہیں کیا۔

امام ابن خزیمہ اس کے حوالے سے روایات نقل کرتے تھے، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے: ہمیں ایک ایسے شخص نے حدیث بیان کی، جس کے ذکر سے ہم رک گئے ہیں۔

یہ اس قسم سے تعلق رکھتا ہے، جس کے بارے میں، میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں کہ اگر میں آسمان سے گروں، اور پرندے مجھے اچک لیں، تو یہ چیز میرے لیے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں نبی اکرم ﷺ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کر کے بیان کروں۔ لیکن لوگوں نے اسے خرابی کا شکار کر دیا۔

۱۔ امام ابن خزیمہ اس کے حوالے سے صرف حرف بحرف روایت نقل کرتے تھے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس نے اپنے والد، جریر، عبدالسلام بن حرب سے روایات نقل کی ہیں، اور ابو عروبہ، ابن صاعد اور ایک مخلوق سے بھی روایات نقل کی ہیں۔

امام ترمذی نے اس کے حوالے سے منقول اس روایت کو ”حسن“ قرار دیا ہے جو اس نے، اپنی سند کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن یزید خطمی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے:

عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من يبلغني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما احب فأجعله لي قوة فيما تحب، وما زويت عني مما احب فأجعله لي قوة فيما تحب.

”نبی اکرم ﷺ اپنی دعائیں یہ کہا کرتے تھے: اے اللہ! تو مجھے اپنی محبت، اور اس شخص کی محبت عطا کر دے، جس کی محبت تجھ تک پہنچا دے، اے اللہ! تو نے مجھے جو ایسی چیز دی ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اسے میرے لیے قوت بنا دے، اس بارے میں جسے تو پسند کرتا ہے، اور اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے میری پسند کی چیز عطا کی ہے۔ اسے اپنی پسند کی چیز کے لئے میری قوت بنا دے جیسے تو پسند کرتا ہے۔“

امام ترمذی کہتے ہیں: یہ حدیث ”حسن غریب“ ہے۔

۳۳۳۸۔ سقر بن عبدالرحمن

اس نے شریک سے روایات نقل کی ہیں، مطمئن کہتے ہیں: یہ کذاب ہے، یہ کو فہ کار بننے والا ہے اور بجیلہ قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ عبدالرحمن بن مالک بن مغول کا بیٹا ہے۔

۳۳۳۹۔ سکین بن ابوسراج

اس نے عبداللہ بن دینار سے روایات نقل کی ہیں، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر الزام عائد کیا ہے۔ اس سے روایت نقل کرنے والا شخص ثقہ نہیں ہے۔

۳۳۴۰۔ سکین بن عبدالعزیز (ق، ت، ن، خ) بن قیس عمیدی بصری

اس نے منصور اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”قوی“ نہیں ہے۔

ابن ابومریم اور دارمی نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ثقہ ہے، اس سے عارم اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں۔

۳۳۴۱۔ سکین بن عبدالعزیز

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے
ما عال من اقتصد.

”وہ شخص تنگ دست نہیں ہوتا، جو میانہ روی اختیار کرے“

(سلام)

۳۳۴۲۔ سلام بن حارث

اس نے مالک بن سلیمان ہروی سے روایت نقل کی ہے، اس نے ایک روایت نقل کی ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روایت کو مطلق طور پر ضعیف قرار دیا ہے۔

۳۳۴۳۔ سلام بن ابوخبزہ عطار بصری.

اس نے ثابت اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، یہ سعید بن سلام کا والد ہے۔
ابن مدینی کہتے ہیں: یہ حدیث ایجاد کرتا تھا، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف

ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

عليكم بلائهم عند النوم، فانه يشد البصر، ينبت الشعر

”تم پر سوتے وقت انہما استعمال کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ بینائی کو مضبوط کرتا ہے، اور بال اُگاتا ہے۔“

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملحفة مورسة.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لحاف تھا، جو درس سے رنگا ہوا تھا۔“

قیحہ نے اس سے ملاقات کی ہے، لیکن انہوں نے اس سے حدیث نقل نہیں کی۔

۳۳۴۴- سلام بن رزین

یہ انطاکیہ کا قاضی ہے اس نے اعمش سے روایات نقل کی ہیں۔
اس کی شناخت نہیں ہو سکی، اس کی نقل کردہ روایت جھوٹی ہے، ایک قول کے مطابق اس کا نام سلام بن زید ہے۔
عقیلی نے اس راوی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔

بیننا انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طریق اذا برجل قد صرع، فدنوت منه، فقرأت فی اذنه،
فجلس، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: وماذا قرأت؟ قلت افحسبتم انبا خلقناکم عبثا قال: والذی
نفسی بیدہ لو قرأها موقن علی جبل لزال.

”ایک مرتبہ میں اور نبی اکرم ﷺ کسی راستے پر جا رہے تھے، اسی دوران ایک شخص سامنے آیا، جس پر مرگی کا دورہ پڑا ہوا
تھا، میں نے اس کے کانوں میں تلاوت کی، تو وہ ٹھیک ہو کر بیٹھ گیا، نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: تم نے کیا تلاوت کیا؟
میں نے عرض کی: میں نے یہ پڑھا ”افحسبتم انما خلقناکم عبثا“
نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قسم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی یقین رکھنے والا شخص
اسے کسی پہاڑ پر پڑھ دے تو وہ اپنی جگہ سے ہل جائے۔“

(امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے عبداللہ کہتے ہیں: میرے والد نے یہ کہا: یہ روایت موضوع ہے اور یہ جھوٹے لوگوں کی

روایت ہے۔

۳۳۴۵- سلام بن سعید بصری عطار

یہ سلام بن ابوخرزہ ہے جو ہلاکت کا شکار ہونے والا ہے

۳۳۴۶- سلام بن سلم (ق)

اور ایک قول کے مطابق ابن سلیم تمیمی سعدی خراسانی ثم مدائنی الطویل ہے۔

اس نے زید العمی، منصور بن زاذان، جمید سے روایات نقل کی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سلام بن سلم سعدی الطویل، جس
نے زید العمی سے روایات نقل کی ہیں محدثین نے اسے ”متروک“ قرار دیا ہے۔

احمد بن ابومریم کہتے ہیں: میں نے یحییٰ بن معین سے سلام بن سلم تمیمی کے بارے میں دریافت کیا، تو وہ بولے: یہ ضعیف ہے، اس کی
حدیث کو نوٹ نہیں کیا جائے گا۔

ابن دورق نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: سلام الطویل (نامی) راوی ”لیس بشیء“ ہے عباس دورق نے یحییٰ بن
معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: سلام بن سلم تمیمی یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: سلام بن سلم الطویل یہ
”منکر الحدیث“ ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: سلام بن سلم ”متروک“ ہے ابو زرعمہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔

ابو الربیع زہرائی نے اس راوی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔

الموضوع مرة ومرتين وثلاثا

”وضوايک یا دو یا تین مرتبہ کیا جائے گا“

اس بارے میں عبدالرحیم بن زید العمی نے اس کی متابعت کی ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسح علی الخفین ثلاثة ایام ولیالیہن للساہر ویوم وليلة للمقیم.

”نبی اکرم ﷺ نے موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں، مسافر کو تین دن، تین راتوں اور مقیم کو ایک دن، ایک رات کی (اجازت) دی ہے۔“

اسی سند کے ساتھ یہ روایت بھی منقول ہے، جو اس کی مانند ہے اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم ﷺ سے منقول ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے

ارحم هذه الامة بها ابو بكر، اقواهم في دين الله عمر، افرضهم زيد، اقضاهم علي، اصدقهم حياء عثمان، امين الامة ابو عبيدة، اقرؤهم ابي وابو هريرة وعاء من العلم، سلمان علم لا يدرك، معاذ اعلم الناس بحلال الله وحرامه، ما اظلت الخضراء، لا اقلت الغبراء او البطحاء من ذى لهجة اصدق من ابوذر.

”اس امت میں اس کے بارے میں سب سے زیادہ رحمدل ابو بکر ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں، ان میں سب سے زیادہ قوی عمر ہے، علم وراثت کا سب سے بڑا عالم زید ہے، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے، حیا کے اعتبار سے سب سے سچا عثمان ہے، اس امت کا امین ابو عبیدہ ہے، علم قرأت کا سب سے بڑا ماہر ابی بن کعب ہے، ابو ہریرہ علم کا برتن ہے، سلمان ایک ایسا نشان ہے، جس تک پہنچنا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اور حرام کردہ اشیاء کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا معاذ ہے، اور آسمان نے ایسے کسی شخص پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے اپنے اوپر ایسے کسی شخص کو نہیں اٹھایا، (یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کو شک ہے) جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو“

ابن عدی نے اس کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اور پھر یہ کہا ہے: ان میں سے کسی بھی روایت میں اس کی متابعت نہیں کی گئی۔

ان میں سے ایک روایت وہ ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

كره للمؤذن ان يكون اماما.

”مؤذن کے لیے یہ بات مکروہ ہے، کہ وہ امام ہو“

ابن عدی کہتے ہیں: ہو سکتا ہے، اس میں خرابی اس کی طرف سے، یا پھر زید کی طرف سے ہو۔
اسماعیل بن ابان نے سلام بن سلیمان کے حوالے سے، ابواسحاق کا یہ بیان نقل کیا ہے:

خرجت مع زيد الارقم الى الجمعة فرأى رجلين بينهما شحنة، فوثب حتى حجز بينهما وقال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التارك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس
مؤمنًا بالقرآن ولا بى)

ایک مرتبہ میں حضرت زید ارقم رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جمعہ کے لیے نکلا، تو انہوں نے دو آدمیوں کو دیکھا، جن کے درمیان آپس میں ناراضگی تھی، تو وہ آگے بڑھ کر ان کے درمیان آئے اور بولے: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:
”امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنے والا شخص، قرآن پر اور مجھ پر ایمان رکھنے والا (شمار) نہیں ہوگا۔“
یہ بات بیان کی گئی ہے: اس کا انتقال 177 ہجری کے آس پاس ہوا۔

۳۳۲۷- سلام بن سلیم (ع) ابواحوص حنفی کوفی

یہ صدوق اور ثقہ ہے البتہ دوسرے لوگ اس سے زیادہ ثبت ہیں۔

اس نے آدم بن علی، اسود (بن قیس)، زیاد بن علاقہ اور سماک سے روایات نقل کی ہیں اس سے ابن مہدی، حسن بن ربیع، قتیبہ،
ہناد اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن ابو خثیبہ نے یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ثقہ اور متقن ہے ابن مہدی کہتے ہیں: یہ شریک سے زیادہ ثبت ہے امام
ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: صدوق ہے شریک اور ابو عوانہ میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہیں، اور یہ ابو بکر بن عیاش کے قریب ترین
ہے، اور یہ دونوں زہیر سے کم مرتبے کے ہیں۔

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: اس کا، امام مالک کا اور حماد بن زید کا انتقال ایک ہی سال میں ہوا۔

محدثین نے ابواحوص کی اس روایت پر تنقید کی ہے جو اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشربوا في الظروف ولا تسكروا.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (ہر طرح کے) برتنوں میں پی لو، لیکن نشہ آور چیز نہ پینا۔“

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ابواحوص نامی راوی نے اس میں غلطی کی ہے۔

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: یہ متعدد ”معلول“ حوالوں سے سماک بن حرب سے منقول ہے امام نسائی رضی اللہ عنہ نے یہ

روایت حماد کے حوالے سے اس سے نقل کی ہے اور یہ کہا ہے: یہ روایت ”منکر“ ہے۔

ابواحوص نے غلطی کی ہے، سماک نامی راوی مستند نہیں ہے، کیونکہ وہ تلقین کو قبول کر لیتا تھا۔

امام نسائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: شریک نے اس کے الفاظ اور سند میں مخالفت کی ہے۔

۳۳۳۸۔ سلام بن سلیمان (ت، س) ابو منذر مزی بصری قاری

یہ یعقوب کا استاد ہے، اس نے ثابت، مطر وراق، ابن جدعان اور ایک گروہ سے احادیث کا سماع کیا ہے، اس نے کوفہ میں عاصم سے اور علی ابو عمرو سے قرأت کا علم سیکھا، یہ بات بیان کی گئی ہے: اس نے عاصم، جدری سے بھی علم قرأت سیکھا ہے۔
عفان، عبید اللہ بن عائشہ، ابن عیینہ، زید بن حباب، عبد الواحد بن غمیث اور دیگر حضرات نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔
یحییٰ بن معین کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان سے دوسری روایت یہ منقول ہے: یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس بات کا احتمال موجود ہے، انہوں نے ”سلام طویل“ مراد لیا ہو۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ صدوق اور صالح الحدیث ہے، عقلمندی کہتے ہیں: اس کی حدیث کی متابعت نہیں کی گئی۔
اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبيب الی من الدنيا النساء والطيب، جعل قرۃ عینی فی الصلاة.
”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: دنیا میں سے خواتین اور خوشبو کی محبت مجھے دی گئی ہے، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے۔“

عقلمندی بیان کرتے ہیں: یہ روایت دوسری سند کے ساتھ بھی منقول ہے، لیکن وہ بھی ”دلیلین“ ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: عفان نامی راوی کی روایت کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، اس کی سند قوی ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور سند کے ساتھ بھی یہ روایت نقل کی ہے، جو حارث بن حسان سے منقول ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔

دخلت المسجد واذا رایة سودا الحدیث.

”میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں ایک سیاہ جھنڈا موجود تھا۔“ الحدیث

۳۳۳۹۔ سلام بن سلیمان (ق) بن سوار، ابو العباس ثقفی مدائنی

یہ شبابہ بن سوار کا بھتیجا ہے، ابن عدی اس کی کنیت ”ابو المنذر“ بیان کی ہے، یہ نابینا اور عمر رسیدہ شخص ہے اور عمر کے حوالے سے شبابہ کے معاصرین میں سے ہے۔

ابو عمرو بن العلاء، ابن ابو ذئب اور دونوں کے علاوہ (دیگر افراد) نے اس سے روایات نقل کی ہیں، اس نے دمشق میں رہائش اختیار کی تھی، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”قوی“ نہیں ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے، ابن عدی نے اس کے حوالے سے اٹھارہ روایات نقل کی ہیں اور یہ بات بیان کی ہے: اس کی نقل کردہ زیادہ تر روایات ”حسن“ ہیں، البتہ ان کی متابعت نہیں کی گئی۔

عقلمندی کہتے ہیں: اس کی روایات میں کچھ منکر روایات بھی ہیں۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

قال: معك يا علي يوم القيامة عصا من عصي الجنة تذود بها الناس عن حوضي.
 ”نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے علی! قیامت کے دن تمہارے پاس جنت کا ایک عصا ہوگا، جس کے ذریعے تم کچھ لوگوں کو میرے حوض سے پرے کرو گے“
 اس روایت کوئی حقیقت نہیں ہے۔

(امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: شعبہ نے اسے نقل نہیں کیا ہے۔
 اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: يوم السبت يوم مكر وخديعة، يوم الاحد يوم غرس وبناء،
 يوم الاثنين يوم سفر وطلب رزق، يوم الثلاثاء يوم حديد وباس، يوم الاربعاء لا اخذ ولا عطاء،
 يوم الخميس يوم طلب الحوائج ودخول علي السلطان، يوم الجمعة يوم خطبة ونكاح.
 ”نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہفتے کا دن دھوکہ دہی کا دن ہے، اتوار کا دن درخت لگانے اور تعمیر کرنے کا دن ہے، پیر کا دن سفر کرنے اور رزق طلب کرنے کا دن ہے، منگل کا دن لوہے اور تختی کا دن ہے، بدھ کا دن ایسا ہے کہ نہ کچھ لیا جائے نہ کچھ دیا جائے، جمعرات کا دن کام پورے کروانے اور حکمرانوں کے پاس جانے کا دن ہے اور جمعہ کا دن نکاح کا پیغام بھیجنے اور نکاح کرنے کا دن ہے۔“

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ”الکنی“ میں یہ بات ذکر کی ہے، عباد بن ولید نے سلام بن سلیمان سے ہمیں حدیث بیان کی، جو ثقہ ہے اور ”مدائن“ کا رہنے والا ہے۔

(امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: ہشام بن عمار، احمد بن ابوالحاری، ہارون اخفش قاری، ابو حاتم، عثمان بن سعید دارمی اور ایک گروہ نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔
 اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قرا: (فشاربون شرب الهميم) (الواقعة: ۵۵)، وقرا (خلقكم من ضعف)
 (الروم: ۵۳) (وعلم ان فيكم ضعفا) (الانفال: ۶۶).
 نبی اکرم ﷺ نے یہ آیات تلاوت کی:
 اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الولیبة فی العرس والخرس والعذار
 ”نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ولیمہ (یعنی دعوت) عرس (یعنی شادی) خرس اور عذار کے موقع پر ہوگا“
 راوی کہتے ہیں: خرس سے مراد (بچے کی) ولادت اور عذار سے مراد (اس کے) ختنہ کرنے کا موقع ہے۔
 اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے

من اراد ان يلقي الله طاهرا فليتزوج الحرائر.
 ”جو شخص یہ چاہتا ہے وہ پاک ہونے کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اسے آزاد عورتوں کے ساتھ شادی کرنی چاہیے۔“

عبدالسلام کے علاوہ راویوں نے اسے کثیر سے ”مرسل“ طور پر نقل کیا ہے۔
 اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے
 اول رمضان رحمة، اوسطه مغفرة، آخرة عتق من النار.
 ”رمضان کا پہلا (عشرہ) رحمت، درمیانی (عشرہ) مغفرت اور آخری (عشرہ) جہنم سے آزادی ہے۔“
 اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی ہے۔

۳۳۵۰- سلام بن سوار

اس سے ہشام بن عمار نے روایات نقل کی ہیں یہ اس سے پہلے والا راوی ہے، اس کی نسبت اس کے دادا کی طرف کردی گئی ہے یہ بات آپ جان لیں!

۳۳۵۱- سلام بن شرحبیل (ق)

اس نے حید اور سوار سے روایات نقل کی ہیں اس کے حوالے سے اعمش کے علاوہ اور کسی نے روایت نقل نہیں کی اسے ”ثقة“ قرار دیا گیا ہے۔

۳۳۵۲- سلام بن صبیح

یہ مدائن کا رہنے والا بزرگ ہے ابو معاویہ ضریر اس سے یہ روایت نقل کرنے میں منفرد ہے، جو اس سے قوی سند سے منقول ہے، اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے:

ذکرت القبائل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما تقول في هوازن؟ فقال: زهرة تينم.

قالوا: فما تقول في بني عامر؟ قال: جبل ازهر، ياكل من اطراف الشجر.

قالوا: فتبينم؟ قال: ثبت الاقدام، عظام الهام، رجح الاحلام الحديث.

”وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف قبائل کا ذکر کیا گیا، لوگوں نے عرض کی: ہوازن کے بارے میں آپ

کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: پختہ کلی ہے لوگوں نے دریافت کیا: بنو عامر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایسا خوبصورت اونٹ ہے جو درخت کے پتے کھاتا ہے، لوگوں نے دریافت کیا: تمیم کے بارے

میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مضبوط قدموں والے، بڑے سرو والے، اور ترجیحی تجربے والے (لوگ ہیں)۔۔۔ الحدیث

یہ روایت خطیب نے اپنی تاریخ میں ابو علی بن شاذان سے نقل کی ہے جو اس کی سند کے ساتھ سلام نامی راوی سے منقول ہے۔

ویسے میرا خیال یہ ہے: یہ سلام طویل و اٹھی ہے۔

۳۳۵۳- سلام بن ابوصہباء، ابو منذر بصری فزاری

اس نے ثابت اور قنادہ سے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ حسن الحدیث ہے۔

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: جب یہ کوئی روایت نقل کرنے میں منفر دہو، تو اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے، یہ عدوی ہے، پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عبد اللہ بن ابوالقاسی نے ابوکامل فضیل، سلام بن ابوصہباء، ثابت، بنانی کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

ان فاطمة جاءت تشكو مجل يديها من اثر الطحن، فاتاها النبي صلى الله عليه وسلم بغلام وعليها ثوب، فذهبت تغطي راسها، فخرج رجلاها، فخرج راسها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما هذا ابوك و غلامك.

”سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے چکی پینے کی وجہ سے ہاتھوں کے خراب ہونے کی شکایت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کے ساتھ ان کے ہاں آئے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جسم پر چادر تھی، انہوں نے (اس چادر کے ذریعے) اپنا سر ڈھانپنے کی کوشش کی، تو ان کے پاؤں کپڑے سے باہر ہو گئے، پاؤں ڈھانپنے کی کوشش کی، تو سر ظاہر ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہاں صرف تمہارے والد اور تمہارا غلام ہیں۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

لو لم تذنبوا الخشيت عليكم ما هو اشد من ذلك العجب.

”اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، تو مجھے تمہارے بارے میں اس سے زیادہ شدید چیز کا اندیشہ ہے جو کہ عجب ہے۔“ یہ کتنی اچھی بات ہے، اگر یہ صحیح (حدیث) ہوتی۔

۳۳۵۴- سلام بن عبد اللہ، ابوحفص

اس نے ابوالعلاء سے روایات نقل کی ہیں، ابوسلمہ مقری نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوحاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ذہب الحدیث“ ہے۔

۳۳۵۵- سلام بن ابو عمرہ (ت) خراسانی

اس نے عکرمہ سے روایات نقل کی ہیں، ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ حدیث کوئی شے نہیں ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

صنفان من امتي ليس لهما في الاسلام نصيب، القدرية والمرجئة.

”میری امت کی دو اصناف (یعنی فرقوں) کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، قدر یہ اور مرحہ۔“
 علی بن نزار جو ”لین“ ہے، اس نے یہ روایت عکرمہ سے نقل کی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے، علی بن نزار نے یہ روایت اپنے والد کے حوالے سے عکرمہ سے نقل کی ہے۔

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: سلام بن ابو عمیر کی (نقل کردہ) روایت سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔

۳۳۵۶۔ سلام بن عمرو ویشکری

میرے علم کے مطابق ابو بشر بن وشیہ کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایت نقل نہیں کی ہے۔

۳۳۵۷۔ سلام بن قیس

اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایات نقل کی ہیں اس سے عمرو بن ربیعہ نے روایات نقل کی ہیں ان دونوں کی شناخت نہیں ہو سکی۔
 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی (نقل کردہ) حدیث ”صحیح“ نہیں ہوتی۔

۳۳۵۸۔ (صحیح) سلام بن مسکین (خ، م)

یہ بصرہ کے ثقہ راویوں میں سے ایک ہے، لیکن یہ بات بیان کی گئی ہے، اس پر ”قدریہ“ فرقے سے تعلق رکھنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ بن معین نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”صالح الحدیث“ ہے۔
 (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایات نقل کی ہیں، شیبان بن فروخ، ہدبہ اور خلق کثیر نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ قدریہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔

۳۳۵۹۔ (صحیح) سلام بن ابوطیغ (خ، م) بصری۔

اس نے قتادہ اور ابو حصین سے روایات نقل کی ہیں اس سے ابوالولید، مسدد اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔
 امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بطور خاص قتادہ کے بارے میں، یہ ”مستقیم الحدیث“ نہیں ہے۔
 عبد اللہ بن احمد نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے: یہ ثقہ اور سنت کا عالم ہے، امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:۔ یہ شخص یہ کہتا تھا: میں حجاج (بن یوسف) کے سے نامہ اعمال کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں عمر و بن عبید کے سے نامہ اعمال کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حاکم کہتے ہیں: یہ غفلت اور برے حافظے کی طرف منسوب ہے، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: جب یہ کسی روایت کو نقل کرنے میں منفرد ہو تو اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ

”صالح الحدیث“ ہے۔

ہدیہ نے سلام بن ابومطیع کے حوالے سے ایوب کا یہ قول نقل کیا ہے: گناہگار قاری سے بڑا خبیث اور کوئی نہیں ہے۔ اصمعی نے سلام بن ابومطیع کے حوالے سے ایوب کا یہ قول نقل کیا ہے: میرے (دینی) بھائیوں میں سے کوئی بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اس کی دعاء کا طلبگار ہوتا ہوں، لیکن میں اس کی گواہی کو قابل قبول قرار نہیں دیتا۔ سلام نامی اس راوی سے ایسی روایات منقول ہیں، جو اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہیں اور منفرد ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے:

المستشار مؤتمن ”جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے“

ان میں سے ایک روایت یہ ہے:

الحسب المال، الکرم التقوی.

”حسب، مال ہے اور کرم، تقویٰ ہے“

۳۳۶۰- سلام بن واقد مروزی

عقیلی نے اس کا ذکر کیا ہے اس کے حوالے سے ایسی روایت بھی منقول ہے، جو اس نے محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر سے روایت کی ہے، ابراہیم بن محمد بن یوسف فریابی نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔ عقیلی نے اس کے حوالے سے دو حدیثیں نقل کی ہیں، جو ”منکر“ ہیں۔

۳۳۶۱- سلام بن وہب جندی

اس نے طاؤس کے صاحبزادے کے حوالے سے، ایک ”منکر“ بلکہ جھوٹی روایت نقل کی ہے، عقیلی نے وہ روایت ذکر کی ہے، جو اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

ان عثمان سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال: ما بینہ و بین اسم اللہ الا کبر الا کما بین سواد العین و بیاضها من القرب.

”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں دریافت کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اس کے اور اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے درمیان اتنا ہی (فرق یا فاصلہ) ہے، جتنی آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کے درمیان قربت ہے“

یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے، تاہم اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں: ”قربت ہے“

۳۳۶۲- سلام بن یزید قارئ بصری

عقیلی نے اس کا بھی نام بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں: اس کی حدیث کی متابعت نہیں کی گئی، پھر انہوں نے یہ کہا ہے:

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے

من علمه الله القرآن ثم شكوا الفقر كتب الله عليه الفقر والفاقة الى يوم القيامة.
”جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اور پھر بھی وہ غربت کی شکایت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے، قیامت تک، فقر وفاقہ نوٹ کر دیتا (یعنی مقرر کر دیتا) ہے“
(اس کی سند میں مذکور) جو بیروانی راوی کی طرح داؤد نامی راوی بھی ساقط الاعتبار ہے۔

۳۳۶۳- سلام، قیل ابو سلام

اس نے حماد بن ابوسلیمان سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے۔

(سلامہ)

۳۳۶۴- سلامہ بن روح (س، ق) ایلی.

اس نے عقیل سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس کی (نقل کردہ) حدیث کو نوٹ کیا جائیگا، بوزرعہ کہتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثر اهل الجنة البله.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اہل جنت کی اکثریت سیدھے سادے لوگوں کی ہوگی۔“

ابن عدی نے یہ روایت، 114 آدمیوں کے حوالے سے، اپنی سند کے ساتھ، سلامہ (نامی اس راوی) سے نقل کی ہے۔

ابن عدی نے سلامہ کے حوالے سے متعدد ایسی روایات بھی نقل کی ہیں، جو عقیل سے منقول ہیں۔ ان میں سے ایک روایت وہ ہے،

جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے۔

املكوا العجيين، فانه اعظم للنبركة.

”(کسی کو صدقہ کے طور پر) گندھے ہوئے آٹے کا مالک بناؤ، کیونکہ یہ برکت کے لیے (مناسب) ہے۔“

اس سند کے ساتھ یہ بھی منقول ہے:

انى والساعة كهاتين - و اشار باصبعيه.

”میں اور قیامت ان دو کی طرح ہیں۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کے ذریعے اشارہ کر کے (یہ بات ارشاد فرمائی)

اسی سند کے ساتھ یہ بھی منقول ہے:

ان جبرائیل قال لی: بشر امتک ان من قال: لا اله الا الله دخل الجنة.

”جبرائیل نے مجھ سے کہا: آپ اپنی امت کو یہ بشارت دیدیں، جس نے لا اله الا الله پڑھ لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا“

سلامہ کا انتقال 197 ہجری میں ہوا۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کنیت ابو خربق بیان کی ہے، یہ عقیل کا بھتیجا ہے، اس کا نسخہ ایک ضخیم جزء ہے۔

احمد بن صالح کہتے ہیں: میں نے عنبسہ بن خالد سے سلامہ کے بارے میں دریافت کیا: تو وہ بولے: اس کی عمر اتنی نہیں ہے کہ اس نے عقیل سے سماع کیا ہو۔

میں نے ان سے ”ایلمہ“ میں، اس کے بارے میں دریافت کیا تھا، تو ایک ثقہ شخص نے مجھے بتایا: اس نے عقیل سے سماع نہیں کیا ہے۔

احمد بن صالح کہتے ہیں: میں نے سلامہ کو عقیل کے حوالے سے حدیث ستیفہ نقل کرتے ہوئے سنا ہے، اس نے روایت میں یہ الفاظ

ذکر کیے: **ولا الذی بايع بعة ان تقتلا**

میں نے کہا (درست الفاظ) یہ ہیں: **تسغرة ان يقتلا**، اس نے کہا: جی نہیں۔ میں نے دریافت کیا: ان کا مطلب کیا ہے؟ وہ بولا:

اگر تم بیگنی کو اپنے ہاتھ میں ملو تو وہ پھیل جاتی ہے۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: سلامہ بن روح قوی نہیں ہے، میرے نزدیک اس کا محل، غفلت کا محل ہے، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے

ہیں: یہ ”مستقیم الحدیث“ ہے۔

۳۳۶۵۔ سلامہ بن سلام

یہ ایک عمر رسیدہ شخص ہے، اس نے جو بیاری کذاب سے روایات نقل کی ہیں، ابن جوزی کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے۔

۳۳۶۶۔ سلامہ بن عمر مصری

اس سے ابو سعید بن یونس نے روایات نقل کی ہیں، وہ کہتے ہیں: یہ غلط ملط کر دیتا ہے، اور وہ احادیث بیان کرتا ہے، جو اس نے سنی

نہیں ہوتی ہے۔

۳۳۶۷۔ سلامہ اسدی

اس نے سعید بن جبیر سے روایات نقل کی ہیں، یہ مہبول ہے

۳۳۶۸۔ سلامہ بن قیصر

یہ تابعی ہے اور ارسال کرتا ہے، اس کی (نقل کردہ) حدیث ”صحیح“ نہیں ہوتی۔

(سلم)

۳۳۶۹۔ سلم بن ابراہیم (د، ق) وارق

اس نے مبارک بن فضالہ سے روایات نقل کی ہیں، ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے: یہ کذاب ہے۔

تخلی کی ”دیباچہ“ میں یہ تحریر ہے:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

نقش خاتمہ ابی بکر الصدیق: عبد ذلیل لرب جلیل.

”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پر یہ الفاظ نقش تھے، ”رب جلیل کا ذلیل بندہ“

۳۳۷۰۔ سلم بن باقر، ابو خلیل

اس نے اپنے چچا سے روایات نقل کی ہیں، اس کا کہنا ہے: اس نے عسقلان میں ایک صحابی سے احادیث کا سماع کیا ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام صرف ابو جعفر منصور، کے عہد حکومت تک زندہ رہے تھے، کاش میں نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہوتا، جس نے سلم نامی اس راوی کو ضعیف قرار دیا ہو، وہ شخص نہ دیکھا ہوتا جس نے اس سے استدلال کیا ہے۔ اس کے چچا کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون ہے؟

۳۳۷۱۔ سلم بن جعفر (د، ت)

اس نے حکم بن ابان سے روایات نقل کی ہیں، بعض حضرات نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، یہ ”متروک“ ہے، اس کے شاگرد یحییٰ بن کثیر نے اس کو ”ثقة“ قرار دیا ہے، یہ ”متروک“ ہے۔

۳۳۷۲۔ سلم بن جنادہ (ت، ق) ابوسائب

یہ ”صدوق“ ہے، اس نے حفص بن غیاث سے سماع کیا ہے، ابواحمد حاکم کہتے ہیں: اس کی (نقل کردہ) حدیث میں اس کے برخلاف نقل کیا گیا ہے۔

برقانی کہتے ہیں: یہ ثقة اور حجت ہے، اس میں شک نہیں ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ صالح ہے۔

۳۳۷۳۔ (صح) سلم بن زریر (م، خ)

یہ ثقة اور مشہور ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصول میں اس کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، اور کبھی شواہد میں بھی کی ہے، اس نے زیادہ روایات نقل نہیں کی ہیں۔

اس کے حوالے سے اٹھارہ احادیث منقول ہیں، ابوحاتم نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔

امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”یہ ”قوی“ نہیں ہے۔

۳۳۷۴۔ سلم بن سالم بخنی زاہد۔

اس نے حمید الطویل اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے کہا: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ اس پائے کا نہیں ہے۔ امام ابو زرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی (نقل کردہ) حدیث کو نوٹ نہیں کیا جائیگا۔ یہ مرجئی تھا، یہ نہیں تھا، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، ابن ابوحاتم کہتے ہیں: یعنی یہ سچ نہیں بولتا تھا۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، ابن مبارک، جیسا کہ ابو زرہ نے بعض اہل خراسان کے حوالے سے ان سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں: سلم کے سانپوں سے بچ کے رہنا، کہیں وہ تمہیں ڈس نہ لیں، جو زجانی کہتے ہیں: یہ ثقہ نہیں ہے۔

پھر انہوں نے یہ کہا: میں نے اسحاق بن ابراہیم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: عبداللہ بن مبارک سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا گیا، جو اس راوی نیسورکھانے کے بارے میں نقل کی ہے، کہ 70 انبیاء کی زبانی اسے پاکیزہ قرار دیا گیا ہے، تو ابن مبارک نے کہا: جی نہیں! کسی ایک نبی کی زبانی بھی (اسے پاکیزہ قرار) نہیں دیا گیا، تو یہ نقصان پہنچانے والی تکلیف دہ چیز ہے، تم لوگوں کو یہ حدیث کس نے سنائی ہے؟ لوگوں نے کہا: سلم بن سالم نے، ابن مبارک نے دریافت کیا: کس کے حوالے سے؟ انہوں نے کہا: آپ کے حوالے سے، ابن مبارک نے کہا: میرے حوالے سے بھی (نقل کی ہے)

ابن عدی کہتے ہیں: مجھے یہ امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۳۳۷۵۔ سلم بن سلیمان، ابو ہاشم ضعی بصری

اس نے ابو جہرہ سے روایت نقل کی ہے، عقیلی کہتے ہیں: یہ حدیث کو قائم نہیں رکھتا۔

۳۳۷۶۔ سلم بن عبداللہ زاہد

اس نے قاسم بن معن سے روایت نقل کی ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”واہی“ قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

اکثر خرز اهل الجنة العقیق.

”اہل جنت کے زیادہ تر ہار عقیق سے بنے ہوئے ہوں گے۔“

اس کی نقل کردہ مصیبتوں میں سے ایک روایت وہ ہے جو اس نے قاسم بن معن سے نقل کی ہے، اس کا متن یہ ہے:

قال رجل: یا رسول اللہ، انی ترکت الصلاة قال فاقض. قال: کیف اقضی؟ قال: صل مع کل صلاة صلاة.

”ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے نماز ترک کر دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اس کی قضا کر لو، اس نے عرض

کی: میں قضاء کیسے کروں؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہر نماز کے ساتھ ایک (قضاء) نماز ادا کرو۔“

۳۳۷۷۔ سلم بن عبدالرحمن (م، عو) نخعی

اس نے ابو زرعہ بجلی سے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین نے اسے قوی قرار دیا ہے، جب کہ بعض حافظان حدیث نے اس پر تہمت عائد کی ہے۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں: یہ کذاب ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: اس کی کنیت (اور اسم منسوب) ابو عبد الرحیم نخعی کوئی ہے۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ صالح ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے۔

ثوزی اور شریک نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۳۷۸۔ سلم بن عبدالرحمن جرمی

اگر تو یہ ”بصری“ ہے تو پھر یہ ”صدوق“ ہے، اس نے حضرت سوادہ بن ربیع رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، سلمہ بن رجاء اور مرجئی بن رجاء نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں (اس کے بارے میں) صرف بھلائی سے واقف ہوں۔

۳۳۷۹۔ سلم بن عطیہ (س)

اور ایک قول کے مطابق (اس کا نام) مسلم بن عطیہ ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہی نام ذکر کیا ہے، اس نے عطاء سے روایات نقل کی ہیں، اس سے بدر بن خلیل اسدی اور شعبہ نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ انتہائی ”منکر الحدیث“ ہے۔ پھر انہوں نے اس کے حوالے سے ایک حدیث بھی ذکر کی ہے۔

۳۳۸۰۔ (صح) سلم بن قتیبہ (خ، عو) بابلی

یہ صدوق اور مشہور ہے، تاہم حدیث کی سند میں وہم کا شکار ہو جاتا ہے، یحییٰ بن سعید قطان اس کے بارے میں کہتے ہیں: یہ بوجھ اٹھانے والے اونٹوں میں سے نہیں ہے۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ بکثرت وہم کا شکار ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور ابو زرعہ کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے۔

۳۳۸۱۔ سلم بن قیس (د)

یہ ”علوی“ ہے، اس کا ذکر آگے آئے گا۔

۳۳۸۲۔ سلم بن (محمد) وراق

اس نے عکرمہ بن عمار سے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین اس سے راضی نہیں تھے، یہ سلم بن ابراہیم وراق ہے، جس کا ذکر پہلے گزر

چکا ہے۔ البتہ اس کی کنیت ”ابو محمد“ ہے۔

۳۳۸۳۔ سلم بن مغیرہ، ابو حنیفہ

اس نے امام مالک سے روایات نقل کی ہیں؛ اس سے عبد اللہ بن ابوسعدا لوراق نے روایات نقل کی ہیں۔
امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے؛ ایک مرتبہ انہوں نے کہا: یہ ”قوی“ نہیں ہے۔

۳۳۸۴۔ سلم بن میمون زاہد رازی خواص

اس نے امام مالک اور ابن عیینہ سے روایات نقل کی ہیں؛ اس سے محمد بن عوف اور سعد بن عبد اللہ بن عبد الحکم نے روایات نقل کی ہیں۔
ابن عدی کہتے ہیں: یہ متون روایت کرنے میں منفرد ہے اور اسانید کو مقلوب کر دیتا ہے؛ یہ اکابر صوفیاء میں سے ہے۔
امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ اہل شام کے اکابر عبادت گزاروں میں سے ایک ہے، اس پر تصوف کا رنگ غالب تھا؛ یہاں تک کہ یہ حفظ حدیث اور اتقان کے حوالے سے غفلت کا شکار ہو گیا؛ اس لیے اس سے استدلال نہیں کیا جاتا۔
اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

بایع اعدابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی اجل، فقال علی للاعدابی: ان مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن یقضیک؟ قال: لا ادری. قال: فاته فسله، فاتاہ فسالہ، فقال: یقضیک ابوبکر: و ذکر الحدیث / و آخرہ: اذا مت انا و ابو بکر و عمر و عثمان فان استطعت ان تموت فبت.

”ایک دیہاتی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مخصوص مدت کے بعد ادائیگی کی شرط پر سودا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دیہاتی سے کہا: اگر (اس سے پہلے) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، تو تمہیں کون ادائیگی کرے گا؟ اس نے کہا: مجھے نہیں معلوم، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ سے اس بارے میں دریافت کرو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس بارے میں دریافت کیا: تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابوبکر تمہیں ادائیگی کرے گا۔“

اس کے بعد راوی نے پوری حدیث ذکر کی ہے؛ جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں:

”جب میں، ابوبکر، عمر اور عثمان مرجائیں، اس وقت اگر تم مر سکتے ہو، تو تم بھی مرجانا“

یہ روایت موسیٰ بن سہل رملی نے، احمد بن ابراہیم بن فلاس، سلم بن میمون کے حوالے سے نقل کی ہے۔

عقیلی کہتے ہیں: اس نے ایسی منکر روایات نقل کی ہیں، جن کی متابعت نہیں کی گئی؛ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی (نقل کردہ) حدیث کو نوٹ نہیں کیا جائے گا۔

۳۳۸۵۔ سلم علوی (د) بصری، ابن قیس

یحییٰ بن معین نے اسے ”ثقفہ“ قرار دیا ہے؛ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، شعبہ

نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔

عبداللہ بن ادریس نے شعبہ کا یہ قول نقل کیا ہے: سلم وہ شخص ہے جو لوگوں سے دو دن پہلے ہی، پہلی کا چاند دیکھ لیتا ہے۔ سلم علوی (نامی یہ راوی خود) بیان کرتا ہے: حسن بصری رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا: تم لوگوں اور ان کے پہلی کے چاند کا معاملہ ان کے ساتھ رہنے دو، جب تک تمہارے ساتھ کوئی اور اسے نہیں دیکھ لیتا۔ سلم علوی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه القرع.
”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کد و پند تھے“

ابن عدی کہتے ہیں: سلم نے تھوڑی سی روایات نقل کی ہیں، اس سے تقریباً پانچ روایات منقول ہیں اتنی سی مقدار کی بنیاد پر یہ اندازہ نہیں لگایا جاسکتا کہ یہ ”صدوق“ ہے یا ضعیف ہے، بطور خاص اس صورت میں؛ جب اس کی نقل کردہ روایات میں کوئی منکر روایت بھی نہ ہو۔

امام نسائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ”قوی“ نہیں ہے۔

(سلمان)

۳۳۸۶۔ سلمان بن فروخ

اس نے حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں اس کی شناخت نہیں ہو سکی، اس کی کنیت ”ابو واصل“ ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں: اس سے تقریباً دس احادیث منقول ہیں، جن کی متابعت نہیں کی گئی، اس سے قریش بن حبان نے روایات نقل کی ہیں۔ یہ سلیمان بن فروخ ہے۔

۳۳۸۷۔ سلمان، شامی

اس نے جنادہ بن ابوامیہ سے روایات نقل کی ہیں؛ عاصم الاحول اس سے روایت کرنے سے منفرد ہے۔

(سلمہ)

۳۳۸۸۔ سلمہ بن احمد سمرقندی

اس نے خالد بن یزید عمری سے روایات نقل کی ہیں، جو منکر روایات نقل کرتا ہے، اس میں خرابی کی جڑ خالد ہے۔

۳۳۸۹۔ سلمہ بن ازرق (س، ق)

اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں اس کی (نقل کردہ درج ذیل) حدیث کی شناخت نہیں ہو سکی:

مات میت زمن آل النبی صلی اللہ وسلم، فاجتمع النساء ینکین۔
 ”آل نبی کے زمانہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو خواتین رونے کے لیے اکٹھی ہوئیں،“
 محمد بن عمرو بن عطاء نے اس سے یہ روایت نقل کی ہے، ابن ابوحاتم نے اس شخص کا ذکر نہیں کیا۔

۳۳۹۰۔ سلمہ بن بشر

اس نے حویلہ بنت واہلہ کی حدیث روایت کی ہے اور اس میں ”تدلیس“ کی ہے۔

۳۳۹۱۔ سلمہ بن تمام (س) ابو عبد اللہ شقری کوفی

یہ اعمش کا معاصر ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”یہ ”قوی“ نہیں ہے، تینوں راویوں نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ثقہ ہے۔“

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مانند کہا ہے، اس (راوی) نے ابوقعقاع کا یہ بیان نقل کیا ہے۔

شہدت القادسیة وانا غلام یافع، فجاء رجل الی ابن مسعود، فقال: آتی امراتی اذا شئت! قال: نعم.

قال: واین شئت؟ قال: نعم. قال: کیف شئت، ففطن له رجل، فقال: انه یرید السورة. قال: وما

ذاک؟ قال: یرید ان یاتیها من قبل مقعدتها. فقال: لا محاش النساء علیکم حرام.

”میں جنگ قادسیہ میں شریک ہوا، میں ایک کم سن نوجوان تھا، ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر

ہوا، اور بولا: میں جب چاہوں اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر سکتا ہوں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جی ہاں، اس نے

کہا: جہاں میں چاہوں؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جی ہاں! اس نے کہا: جیسے میں چاہوں؟ ایک شخص کو اس کی بات

سمجھ آ گئی، اس نے کہا: اس کی مراد غلط ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: وہ کیا ہے؟ اس نے کہا: یہ اپنی بیوی کے

ساتھ اس کی پچھلی شرمگاہ میں صحبت کرنا چاہتا ہے، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں! عورتوں کی پچھلی شرمگاہ

تمہارے لیے حرام ہیں۔“

اس نے اپنی سند کے ساتھ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے:

نہینا - او حرم علینا - محاش النساء .

”ہمیں خواتین کی پچھلی شرمگاہوں (میں صحبت کرنے) سے منع کیا گیا ہے، (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں): ہمارے

لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔“

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن علی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا

ہے:

لا ینظر اللہ الی رجل لا یقیم صلبہ فی رکوعہ وسجودہ.

”اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا، جو رکوع اور سجدے میں اپنی پشت سیدھی نہیں رکھتا“

۳۳۹۲- سلمہ بن تمام بصری

اس نے ابن جدعان سے روایات نقل کی ہیں، اس سے ابو حفص فلاس نے روایات نقل کی ہیں۔
ابوزرعہ کہتے ہیں: یہ شیخ ہے اور مجہول ہے۔

۳۳۹۳- سلمہ بن حبیب۔

اس نے عروہ سہمی کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ینتعل وهو قائم۔

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع کیا ہے“

یہ روایت ابراہیم بن طہمان نے حجاج بن حجاج کے حوالے سے اس سے نقل کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی متابعت نہیں کی گئی۔

۳۳۹۴- سلمہ بن حامد

ایک قول کے مطابق اس کا نام مسلمہ بن خالد ہے، اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔ اور اس کی (نقل کردہ) روایت ”منکر“ ہے۔
حامد بن عمر بکراوی نے اس راوی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اتانی جبرائیل یتبسم، فقلت: مم تضحک؟ قال: من رحم معلقة بالعرش تدعو اللہ علی من قطعها. فقال: یا جبرائیل، کم بینہما؟ قال: خمسة عشر ابا.
”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبرائیل مسکراتے ہوئے میرے پاس آئے، میں نے دریافت کیا: آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: رحم (رشتہ داری) کی وجہ سے، کیونکہ وہ عرش کے ساتھ لپٹ کر اس شخص کے خلاف بددعا کر رہا ہے، جو اس کو قطع کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: اے جبرائیل! ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے؟ حضرت جبرائیل نے بتایا: پندرہ اجداد کا۔

یہ روایت ہلال بن بشر نے عبدالعزیز سے نقل کی ہے اور راوی کا نام ”سلمہ“ ذکر کیا ہے۔

۳۳۹۵- سلمہ بن حرب کلابی

اس نے ابو درک سے روایات نقل کی ہیں، اس سے نصر بن علی نے روایات نقل کی ہیں، یہ اپنے استاد کی مانند مجہول ہے۔

۳۳۹۶- سلمہ بن حفص

اس نے یحییٰ بن یمان سے روایات نقل کی ہیں، یہ کوفہ کا ربّہ والا عمر رسیدہ شخص ہے۔

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ احادیث ایجاد کرتا تھا پھر انہوں نے اس کے حوالے سے ایک منکر حدیث ذکر کی ہے۔

۳۳۹۷۔ سلمہ بن رباح

اس سے ابن ابو عمر عدنی نے روایات نقل کی ہیں؛ عبدالرحمن بن ابوحاتم کہتے ہیں: یہ مجہول ہے

۳۳۹۸۔ سلمہ بن رجاء (خ، ت، ق) کوفی

اس نے ابراہیم بن ابوعبلہ اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں؛ ابوزرعہ کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے؛ عباس نے یحییٰ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے؛ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: اس نے ایسی احادیث روایت کی ہیں، جن کی متابعت نہیں کی گئی، ان میں سے ایک روایت یہ ہے، جو اس نے اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے:

قالت: راثیت ابن ابی اوفی یصلی الضحی رکعتین، فقالت له امراته: ما صلیتها الا رکعتین.

فقال: صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الضحی رکعتین حین بشر بالفتح وبراہ اس ابی جہل.

”میں نے حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کو چاشت کی نماز میں دو رکعات ادا کرتے ہوئے دیکھا ان کی اہلیہ نے ان سے کہا: آپ نے تو صرف دو ہی رکعات ادا کی ہیں، تو انہوں نے فرمایا: (غزوہ بدر کے موقع پر) جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی خوشخبری سنائی گئی اور ابو جہل کا سر (آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا) تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کے وقت دو رکعات ادا کی تھیں۔“

۳۳۹۹۔ سلمہ بن روح (ق) بن زبناغ

اس نے اپنے دادا سے مثلہ کرنے کے بارے میں روایت نقل کی ہے؛ صرف اسحاق ابن ابوفروہ نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۴۰۰۔ سلمہ بن ساہور

اس نے عطیہ سے روایات نقل کی ہیں؛ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے؛ اس سے ابونعیم اور سلمہ بن رجاء نے روایات نقل کی ہیں۔

۳۴۰۱۔ سلمہ بن سائب کلبی

یہ بات بیان کی گئی ہے: یہ محمد بن سائب کا بھائی ہے؛ ازدی کہتے ہیں: (محدثین) نے اس پر جرح کی ہے۔

۳۴۰۲۔ سلمہ بن سلیمان ضعی

اس نے ابو عوانہ اور دیگر سے روایات نقل کی ہیں؛ ابن عدی کہتے ہیں: یہ بصری ہے اور ”منکر الحدیث“ ہے۔

۳۴۰۳۔ سلمہ بن سلیمان موصلی

اس نے ابن ابورواد سے روایات نقل کی ہیں، ازدی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، ابن عدی کہتے ہیں: اس کی (نقل کردہ) بعض احادیث کی متابعت نہیں کی گئی۔
اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبع جنازة اطال الصوات، اكثر حديث النفس.
”نبی اکرم ﷺ جب کسی جنازے کے ساتھ جاتے تھے، تو زیادہ دیر خاموش رہتے تھے، اور زیادہ تر سوچتے رہتے تھے۔“
ابن عدی کہتے ہیں: اس بارے میں نافع پر دس قسم کا اختلاف کیا گیا ہے۔

۳۴۰۴۔ سلمہ بن سہل محشل

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: (محدثین) نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔

۳۴۰۵۔ سلمہ بن شریح

اس نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، اسکی شناخت نہیں ہو سکی۔

۳۴۰۶۔ سلمہ بن شریح

اس نے یحییٰ بن محمد سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے، خالد بن حمید اسکندرانی نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۴۰۷۔ سلمہ بن صالح احمر واسطی

اس نے ابن منکدر اور دیگر سے روایات نقل کی ہیں، اس کی کنیت ”ابو اسحاق“ ہے، یہ ”واسطی“ کا قاضی تھا۔
عباس دوری نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ”ثقة“ نہیں ہے،
ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بھی منقول ہے: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے، میں نے اس سے روایات نوٹ کی ہیں
امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، اس کی نقل کردہ منکر روایات میں سے ایک یہ ہے، جو اس نے حماد بن ابوسلیمان کے حوالے سے ابراہیم نخعی کا یہ قول نقل کیا ہے:

ان الصحابة احرموا في البورد.

”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے گھاٹ پر احرام باندھا تھا“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے
ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام.

”جس کی زیادہ مقدار نشہ کر دے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

لیدخلن الجنة قوم من المسلمين قد عذبوا في النار.

”جنت میں کچھ ایسے مسلمان بھی داخل ہونگے، جنہیں جہنم میں عذاب دیا گیا ہوگا۔“

محمد بن صباح نے مسلمہ (نامی اس راوی) سے ایک بڑا نسخہ نقل کیا ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: میں نے اس کے حوالے سے منقول کوئی منکر ”متن“ نہیں دیکھا، البتہ یہ بعض اوقات وہم کا شکار ہو جاتا ہے،

ویسے یہ ”حسن الحدیث“ ہے۔

۳۲۰۸- سلمہ بن صالح الخمی مصری

اس سے ایک روایت منقول ہے، جو اس نے حضرت فضالہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، قباث بن رزین اس سے روایت کرنے

میں منفرد ہے۔

۳۲۰۹- سلمہ بن ابویوسف طفیل

ابن خراش کہتے ہیں: یہ مجہول ہے

۳۲۱۰- سلمہ بن عبد الملک عوصی

ابن حزم کہتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے۔

۳۲۱۱- سلمہ بن عبید اللہ (ت، ق) بن محسن

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں اس سے واقف نہیں ہوں، عقیلی نے اسے ”لین“

قرار دیا ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبید اللہ بن محسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے

من اصبغ منكم آمنا في سريره، معافي في جسمه، عنده طعام يومه، فکانما حیزت له الدنيا.

”جو شخص ذہنی طور پر مطمئن ہو، جسمانی طور پر تندرست ہو، اس کے پاس اس دن کی خوراک ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا

کو سمیٹ دیا گیا“

یہ حدیث حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسی سند کے ہمراہ روایت کی گئی ہے، جس میں ”لین“ ہونا پایا

جاتا ہے وہ روایت اس کی مانند ہے۔

۳۲۱۲- سلمہ بن فضل (د، ت) قرشی

اس نے حمید سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے، ابوزرعہ کہتے ہیں: میں اس سے واقف نہیں

ہوں۔

۳۴۱۳۔ سلمہ بن فضل (د، ت) ابرش

یہ رے (تہران) کا قاضی تھا، اس نے ابن اسحاق سے ”المغازی“ روایت کی ہے اس کی کنیت ابو عبد اللہ ہے، ابن راہویہ نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی (نقل کردہ) احادیث میں بعض منکر ہیں۔
یحییٰ بن معین کہتے ہیں: ہم نے اس سے احادیث نوٹ کی تھیں، ”مغازی“ کے بارے میں کوئی بھی کتاب اس کی (نقل کردہ) کتاب سے زیادہ جامع نہیں ہے۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، زنجی نے سلمہ ابرش (نامی اس راوی) کا یہ قول نقل کیا ہے: میں نے ابن اسحاق سے ”مغازی“ دو مرتبہ سنی ہے اور اس سے ”مغازی“ جیسی ہی احادیث نوٹ کی ہیں۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:
اذا مشى احدكم فاعيا فليهرول، فانه يذهب ذلك عنده.

”جب کوئی چلتے ہوئے تھک جائے تو ذرا تیز رفتاری سے چلے، یہ چیز اس کی تھکاوٹ کو ختم کر دے گی“
ابن عدی کہتے ہیں: مجھے سلمہ کے حوالے سے کوئی ایسی روایت نہیں ملی، جو منکر قرار دیئے جانے کی حد کو پار کر چکی ہو۔
علی بن مدینی کہتے ہیں: ہم لوگ ”رے“ سے اس وقت تک نہیں نکلے جب تک ہم نے سلمہ کی نقل کردہ روایات پھینک نہیں دیں۔
عباس دوری نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: سلمہ ابرش رازی ”شیعہ“ تھا، اس سے روایات نوٹ کی جائیں گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس سے استدلال نہیں کیا جائیگا، امام ابو زرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اہل رے، اس کے عقیدے کی خرابی اور اس کے ظلم کی وجہ سے، اسکی طرف راغب نہیں تھے۔ یہ بات بیان کی گئی ہے: یہ حافظ تھا اور ایک ہی مرتبہ (سن کر) یاد کر لیتا تھا۔
اس نے حجاج بن ارطاة، ایمن بن نائل سے روایات نقل کی ہیں، اس سے یوسف بن موسیٰ، محمد بن حمید اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

یہ نمازی پرہیزگار شخص تھا، قاضی بننے سے پہلے یہ معلم تھا۔

۳۴۱۴۔ سلمہ بن محمد (د، ق) بن عمار بن یاسر، ابو عبیدہ

یہ اپنی ذات کے حوالے سے ”صدوق“ ہے اس نے اپنے دادا سے، مرسل طور پر، روایات نقل کی ہیں۔
اس سے صرف علی بن جدعان نے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

۳۴۱۵۔ سلمہ بن مسلم

ایک قول کے مطابق (اس کا نام سلمہ) بن مسلمہ ہے، اس نے عطاء سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس سے منکر

روایات منقول ہیں۔

۳۳۱۶- (صح) سلمہ بن نبیط (د، س، ق) بن شریط شجعی

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ بات بیان کی گئی ہے: یہ آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گیا تھا۔
وکبج اور ایک جماعت نے یہ کہا ہے: یہ ثقہ ہے۔

۳۳۱۷- سلمہ بن وردان (ت، ق) ابو یعلیٰ جندی مولا ہم مدنی

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ اور مالک بن اوس بن حدثان سے روایات نقل کی ہیں اس نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے۔
اس سے ابن وہب، قعنی، اسماعیل ابن ابوالیس اور متعدد افراد نے روایات نقل کی ہیں۔
امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اس کی نقل کردہ اکثر روایات ”منکر“ ہیں۔
امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے۔
امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے، معاویہ بن صالح، یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں: اس کی حدیث زیادہ پائے کی نہیں ہے۔

ابن عدی نے اپنی سند کے ساتھ، اس راوی کے حوالے سے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا: یا فلان، هل تزوجت؟ قال: لیس عندی ما اتزوج.

قال: الیس معک قل هو اللہ احد الحدیث.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے دریافت کیا: اے فلاں! کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ اس نے عرض کی: میرے پاس ایسی چیز (یعنی مال) نہیں ہے جس کے ذریعے میں شادی کر لوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تمہیں سورہ اخلاص نہیں آتی؟“

حاکم کہتے ہیں: حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اس کی نقل کردہ اکثر روایات منکر ہیں۔

حاکم نے ٹھیک کہا ہے، ابن ماسی کے فوائد میں، عالی سند کے ساتھ، اس کی نقل کردہ ایک حدیث ہم تک بھی پہنچی ہے۔

۳۳۱۸- سلمہ بن وہرام (ت، ق)

اس نے عکرمہ سے ایک نسخہ نقل کیا ہے اس سے زمعه بن صالح نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس نے منکر روایات نقل کی ہیں مجھے یہ اندیشہ ہے یہ ضعیف ہوگا۔

امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے ابن عدی نے اس کے حوالے سے متعدد احادیث نقل کی ہیں پھر یہ کہا ہے: مجھے یہ امید ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے

انه لعن الله المحلل والمحلل له.

”اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے شخص، اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا، (ان دونوں پر) لعنت کی ہے“
اسی سند کے ساتھ یہ روایت بھی منقول ہے:

ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تطلع الشمس من يومها حمراء صافية.
”شب قدر معتدل سی رات ہوتی ہے، نہ گرم ہوتی ہے، نہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اس سے اگلے دن جب سورج نکلتا ہے تو سرخ اور صاف ہوتا ہے“

کو سج کی روایت کے مطابق یحییٰ بن معین نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔ ابو زرعی نامی راوی ”یحییٰ“ ہے۔

۳۴۱۹۔ سلمہ ضعی

اس نے ہشام بن عروہ سے روایات نقل کی ہیں، اس سے ایک منکر حدیث منقول ہے، اس میں مجہول ہونا پایا جاتا ہے۔

۳۴۲۰۔ سلمہ لیشی (د، ق)

اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت نہیں ہو سکی، اس کے بیٹے یعقوب کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایت نقل نہیں کی۔ محمد بن موسیٰ فطری کے حوالے سے (اس سے) یہ حدیث منقول ہے:

لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه.

”اس شخص کا وضو نہیں ہوتا، جو اس (کے آغاز میں) اللہ کا نام نہیں لیتا“

(سلمی، سلیط)

۳۴۲۱۔ سلمی (بن عبد اللہ) ابو بکر (ق) ہذلی

یہ حسن کا شاگرد ہے، اور وہی ہے، یہ کنیت کے حوالے سے زیادہ مشہور ہے۔

ابن عدی نے اس کے حوالے سے بیس احادیث نقل کی ہیں۔

۳۴۲۲۔ سلیط

اس نے بہیہ سے روایات نقل کی ہیں۔ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کون ہے؟

۳۴۲۳۔ سلیط بن عبد اللہ (ق)

اس نے حضرت ابن عمر سے روایات نقل کی ہیں، خالد بن ابوعثمان اس سے روایت نقل کرنے میں منفرد ہے۔

یہ بات بھی کہی گئی ہے: اس سے روایت کرنے والا خالد (کوئی) دوسرا شخص ہے، جب کہ وہ یہی ہے۔

امام ابن ماجہ نے حجاج بن ارطاة کے حوالے سے، اس کے حوالے سے، ذہیل بن عوف سے ایک روایت نقل کی ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی اسناد مجہول ہیں۔

(سلیمان)

۳۴۲۴- سلیمان بن احمد واسطی حافظ

یہ ولید بن مسلم کا شاگرد ہے، یحییٰ نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے، جب کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے۔
ابن ابوقاتم کہتے ہیں: میرے والد (ابوقاتم رازی) امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ بن معین نے اس سے احادیث نوٹ کی تھیں، پھر اس کی حالت تبدیل ہو گئی، یہ شراب نوشی اور گانے بجانے کی طرف مائل ہو گیا تو اس کو ترک کر دیا گیا۔
(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: اس کی کنیت ”ابومحمد“ ہے، اصل کے اعتبار سے یہ دمشق کا رہنے والا ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس میں غور و فکر کی گنجائش ہے، ابن عدی کہتے ہیں: عبدان نے اس کے حوالے سے عجیب و غریب روایات ہمیں بیان کی ہیں، عبدان نے اسے ”ثقتہ“ قرار دیا ہے۔ پھر ابن عدی کہتے ہیں: میرے نزدیک یہ ان لوگوں میں سے ایک ہے، جو حدیث میں سرقہ کرتے تھے۔ اس سے کچھ منفر دروایات بھی منقول ہیں۔
اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من توضا بعد الغسل فلیس منا

”جو غسل کرنے کے بعد وضو کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے“

یہ روایت انتہائی غریب ہے، سلیمان کے علاوہ (کسی دوسرے راوی) نے بھی یہ ولید سے نقل کی ہے۔

۳۴۲۵- سلیمان بن احمد ملطی ثم مصری

یہ بعد کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے، اس نے ابن ثلاج سے روایات نقل کی ہیں، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔

۳۴۲۶- (صح) سلیمان بن احمد بن ایوب نخعی طبرانی

یہ حافظ، ثبت، معمر ہے (اس کی کنیت) ابوقاسم ہے، ان کی روایت کردہ احادیث کی کثرت کی وجہ سے، ان کی انفرادی روایات کو منکر

قرار نہیں دیا گیا۔

حافظ ابوبکر بن مردویہ نے انہیں ”دین“ قرار دیا ہے۔ کیونکہ یہ غلطی کر جاتے تھے اور بھول جاتے تھے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے،

انہوں نے وہم کا شکار ہو کر، احمد بن عبداللہ بن عبدالرحیم برقی سے ”مغازی“ سے متعلق روایات نقل کر دیں۔ حالانکہ ان کی مراد (احمد کا)

بھائی عبدالرحیم تھا۔ تو انہیں یہ غلط نہیں ہوئی۔ ان کے شیخ عبدالرحیم کا نام احمد ہے، تو وہ اسی (غلطی) پر برقرار ہے، اور ”احمد“ کے نام سے،

اس سے روایات نقل کرتے رہے، حالانکہ ”احمد“ کا انتقال، طبرانی کے مصر تشریف لے جانے سے، دس سال، بلکہ اس سے بھی زیادہ سال پہلے ہو گیا تھا۔

احادیث (روایت کرنے) کی کثرت اور ان کی (اسناد کا) ”علو“، طبرانی پر ختم ہے۔ ان کی عمر ایک سو سال ہوئی۔ انہوں نے تیرہ برس کی عمر میں سماع (کا آغاز) کیا تھا۔ وہ 360 ہجری تک زندہ رہے، ان کے شاگرد ”ابن ریزہ“ 440 ہجری تک زندہ رہے تھے اسی لیے ان کی سند عالی ہوتی ہے۔

۳۴۲۷۔ سلیمان بن احمد سر قسطلی

اس نے ابوالعلاء الواسطی اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، یہ کذاب ہے۔ ابن ناصر کہتے ہیں: یہ اپنے سماعات میں (دوسری روایات) لاحق کر دیتا تھا۔

۳۴۲۸۔ سلیمان بن ابراہیم بن زرعہ قیروانی

اس نے ابن اشرس سے روایات نقل کی ہیں، ابوالحسن دارقطنی نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے۔

۳۴۲۹۔ سلیمان بن ابراہیم اصہبانی حافظ

اس نے محمد بن ابراہیم جرجانی اور ان کے طبقے کے افراد سے روایات نقل کی ہیں، انہوں نے ابوعلی بن شاذان (سے استفادے کے لیے ان کی طرف) سفر کیا تھا، یہ 485 ہجری تک زندہ رہے۔

یحییٰ بن مندہ نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے جب کہ ان کے علاوہ دیگر حضرات نے اس کو قبول کیا ہے۔

۳۴۳۰۔ سلیمان بن ارقم (د، ت، س)، ابو معاذ بصری

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کا آزاد کردہ غلام ہے، اس نے حسن (بصری) اور (ابن شہاب) زہری سے روایات نقل کی ہیں (محدثین) نے اسے ”متروک“ قرار دیا ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس سے روایت نقل نہیں کی جائے گی، عباس اور عثمان نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے، جو زجانی کہتے ہیں: یہ ساقط (الاعتبار) ہے، امام ابو داؤد اور دارقطنی کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے، ابو زرعة کہتے ہیں: یہ ”ذاہب الحدیث“ ہے۔

محمد بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں: ہمیں سلیمان بن ارقم کی محفل میں بیٹھنے سے منع کیا جاتا تھا، پھر انہوں نے اس کے بارے میں ایک بڑے معاملے کا ذکر کیا۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ بیان نقل کیا ہے:

کان لا یفارق مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہ سوا کہ وکان ینظر فی المرآة احیاناً، یسرح لحدیثہ احیاناً، یا مر بہ۔

”نبی اکرم ﷺ کے گھر میں آپ کی نماز کے لیے مخصوص جگہ پر، مسواک ہر وقت موجود رہتی تھی، نبی اکرم ﷺ بعض اوقات آئینہ دیکھ لیتے تھے، آپ بعض اوقات اپنی داڑھی شریف سنوار لیتے تھے، اور اس کا حکم بھی دیتے تھے۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من سرہ ان یجد حلاوة الایمان فلیلبس الصوف ویعتقل لسانہ.
”جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ ایمان کی حلاوت کو پالے، اسے اونی لباس پہننا چاہیے اور اپنی زبان کو باندھ کر رکھنا چاہیے۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

لا قود الا بالسیف

”قصاص“ صرف تلوار کے ذریعے لیا جاسکتا ہے۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

لا نذر فی معصیة، کفارتہ کفارة یمین

”معصیت کے بارے میں نذر نہیں ہوتی اور اس کا کفارہ وہی ہے، جو قسم کا کفارہ ہے“

اس حدیث کا آخری حصہ نوٹ نہیں کیا گیا۔

امام شافعی نے اپنی سند کے ساتھ، اس راوی کے حوالے سے حسن بصری رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

ان عائشة وحفصة اصبحتا صائتین.

”ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے روزہ رکھا“

اس راوی نے حسن بصری رضی اللہ عنہ اور زہری کے حوالے سے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

كنت اضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من جميع نسوته في يوم واحد.

”میں نبی اکرم ﷺ کے غسل کے لیے پانی رکھتا تھا، آپ ایک ہی دن میں اپنی تمام ازواج کے پاس تشریف لے جانے کے بعد (ایک ہی مرتبہ غسل کرتے تھے)“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

اطلبوا الخیر عند حسان الوجوه، تسبوا بخیارکم.

”خوبصورت چہروں والوں کے پاس سے بھلائی طلب کرو اور اپنے بہترین لوگوں کے نام پر (اپنے بچوں کے) نام رکھو۔“

کتاب ”الکامل“ میں اس کے حوالے سے بیس سے زیادہ روایات منقول ہیں۔

۳۴۳۱- سلیمان بن ایوب طلمی کوفی

یہ دو سو چہری کے بعد زندہ رہا، یہ منکر روایات نقل کرنے والا ہے، اسے ”ثقة“ قرار دیا گیا ہے۔

امام ابو زرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس کی (نقل کردہ) زیادہ تر روایات کی متابعت نہیں کی گئی۔
عبداللہ بن ابان بیان کرتے ہیں:

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

لم تكن نبوة الا كان بعدها قتل و صلب و مثلة
”نبوت کے بعد قتل، سولی چڑھانا، مثلہ کرنا ہوتا ہے“
اسی سند کے ساتھ یہ بھی منقول ہے۔

سبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوم احد طلحة الخير. ويوم العشيرة طلحة الفياض ويوم
حنين طلحة الجود كان اذا راني قال: سلفي في الدنيا سلفي في الآخرة.

(حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں) غزوہ احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ”طلحہ الخیر“ کا نام دیا، جنگ
عشیرہ کے موقع پر ”طلحہ الفیاض“ کا نام دیا، غزوہ حنین کے موقع پر ”طلحہ الجود“ کا نام دیا۔ جب آپ مجھے ملاحظہ فرماتے تھے
تو یہ ارشاد فرماتے تھے: (یہ) دنیا میں میرا سلف ہے اور آخرت میں میرا سلف ہے۔“

وقال: من التواضع الرضا بالدون من شرف المجالس.

”آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے: تواضع یہ ہے کہ محفل میں نمایاں جگہ سے نیچے بیٹھنے پر راضی رہا جائے۔“

وقال يوم الفتح: انا وجدنا الاطيبين الاكرمين: تيم، زهرة، وجدنا الاخبثين الاشرين، مخزوم،
امية.

”فتح مکہ کے دن آپ نے ارشاد فرمایا: بے شک ہم نے تيم اور زہرہ (قبیلے کے لوگوں) کو پاکیزہ اور معزز پایا ہے، جب کہ
مخزوم اور امیہ (خاندان کے افراد کو) خبیث اور شریر پایا ہے۔“

۳۴۳۲۔ سلیمان بن بکیر

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے ایک شخص نے اس کے حوالے سے ایک حدیث روایت کی ہے۔

۳۴۳۳۔ سلیمان بن بریدہ (م، ع)

یہ ”ثقة“ ہے امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ اس نے اپنے باپ سے سماع کیا ہے۔

۳۴۳۴۔ سلیمان بن بزج

اس نے امام مالک سے روایات نقل کی ہیں ابو سعید بن یونس کہتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے۔

۳۴۳۵۔ سلیمان بن بشار

اس نے ہشیم اور ان کے طبقے کے افراد سے روایات نقل کی ہیں اس نے مصر میں احادیث بیان کی ہیں اس پر احادیث ایجاد کرنے کا

الزام ہے۔

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس نے ”ثبت“ راویوں کے حوالے سے بے شمار جھوٹی روایات نقل کی ہیں۔

ابن عدی نے اسے ”واہی“ قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس کے حوالے سے، اس کی سند کے ساتھ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت

نقل کی ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

کل مسجد فیہ امام و مؤذن فان الاعتکاف فیہ یصلح.

”ہر وہ مسجد جس میں امام اور مؤذن ہو، اس میں اعتکاف کرنا درست ہے“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

مکارم الاخلاق من اعمال اهل الجنة.

”عمدہ اخلاق، اہل جنت کے اعمال میں سے ایک ہے“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

اذا اتی علی یوم لم ازد فیہ خیرا فلا بورک لی فیہ.

”جب مجھ پر کوئی ایسا دن آئے، جس میں، میں نے مزید بھلائی نہ کی ہو، تو میرے لیے اس (دن) میں برکت نہ رکھی جائے۔“

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ دونوں روایات ابو عبد اللہ بقار نے ”رملہ“ میں سلیمان بن بشار کے حوالے سے ہمیں بیان کی تھیں۔

۳۴۳۶۔ سلیمان بن بشیر

یعقوب فسوی نے اس کا شمار ”ضعفاء“ میں کیا ہے۔ شاید یہ سلیمان بن یسیر ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا۔

۳۴۳۷۔ سلیمان بن ثعلبہ

اس نے صلہ بن سلیمان سے روایات نقل کی ہیں؛ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ دونوں مجہول ہیں۔

۳۴۳۸۔ سلیمان بن جابر (ت، س) ہجری

اس نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے:

تعلموا الفرائض.

”وراثت کا علم حاصل کرو۔“

اس سے ایک ایسے شخص نے روایت نقل کی ہے، جس کا نام ذکر نہیں ہوا، یہ عوف کا استاد ہے، سلیمان نامی اس راوی کی شناخت

حاصل نہیں ہو سکی۔

۳۴۳۹۔ سلیمان بن جبیر

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں؛ یہ مجہول ہے۔

۳۲۲۰- سلیمان بن جعفر

ایک منکر روایت میں، یہ بقیہ کا استاد ہے، عقلمندی کہتے ہیں: اس کی متابعت نہیں کی گئی، اس روایت کا متن یہ ہے:

المرجئة والقدرية لا يردون الحوض.

”مرجئہ اور قدریہ (فرتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ) میرے حوض پر نہیں آئیں گے“

۳۲۲۱- سلیمان بن جنادہ (د، ت، ق)

اس نے اپنے والد جنادہ بن امیہ کے حوالے سے، حضرت عبادہ بن النضر سے جنائز کے بارے میں حدیث نقل کی ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے۔

۳۲۲۲- سلیمان بن حجاج

یہ دروردی کا استاد ہے، اس کی شناخت نہیں ہو سکی، اس کا شمار اہل طائف میں کیا گیا ہے۔

دروردی نے، اس کے حوالے سے، مجاہد کے حوالے سے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ بیان نقل کیا ہے

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن طعام المتباہیین وعن طعام المتباریین.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلاوے کا کھانا کھانے اور مقابلے پر کا کھانا کھانے سے منع کیا ہے“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

ان لكل شيء شيعا وشيعا وشيعا الجهاد الرباط

۔ بے شک ہر چیز کی کوئی نمایاں خصوصیت ہوتی ہے اور جہاد کی نمایاں خصوصیت پہرہ داری ہے“

عقلمندی کہتے ہیں: اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

۳۲۲۳- سلیمان بن حسان مصری

اس نے حیوۃ بن شریح سے روایات نقل کی ہیں، عقلمندی کہتے ہیں: اس کی حدیث کی متابعت نہیں کی گئی۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”صحیح الحدیث“ ہے۔

۳۲۲۴- سلیمان بن حکم بن عوانہ کلبی

(محدثین نے) اسے ضعیف قرار دیا ہے، ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: اس نے عوام بن حوشب اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، اس کی نقل کردہ روایات میں، میں نے کوئی منکر روایت نہیں دیکھی، جو میں اس کا تذکرہ کروں۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: عقلی نے دوسندوں کے ساتھ، اس راوی کے حوالے سے روایت نقل کی ہے جس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے۔

الفخر والخیلاء والكبر في اهل المشرق في ربيعة ومضر.

”فخر اور تکبر اہل مشرق میں، ربیعا اور مضر (قبیلے کے لوگوں) میں پائے جاتے ہیں“

اس سند کے ساتھ یہ روایت غریب ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تزوج المرأة على عمتها وعلى خالتها.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے، کہ کسی عورت کے ساتھ، اس کی پھوپھی یا خالہ پر، نکاح کر لیا جائے“

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

قام رجل الى علي رضي الله عنه فقال: يا امير المؤمنين، ما الايمان؟ قال: الايمان على اربع دعائم:

على الصبر، اليقين، العدل، الجهاد، فالصبر على اربع شعب: على الشوق، الشفقة، الزهادة،

والترقب، فمن اشتاق الى الجنة سلا عن الشهوات، من اشفق من النار رجع عن المحرمات، من

زهد في الدنيا تهاون بالمصيبات، من ارتقب الموت سارع الى الخيرات الحديث

”ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے دریافت کیا: اے امیر المؤمنین! ایمان کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے

فرمایا: ایمان چار بنیادوں پر قائم ہے۔ صبر، یقین، عدل، اور جہاد، صبر چار شعبوں میں ہے، شوق، شفقت، زہد، اور اپنی نگرانی،

جو شخص جنت کا مشتاق ہوگا، وہ شہوت سے کنارہ کش رہے گا، اور جو جہنم سے خوفزدہ ہوگا، وہ حرام چیزوں سے منہ موڑ لے گا،

جو دنیا سے بے رغبت ہوگا، اس کے لیے دنیاوی مصیبتیں ہلکی ہوں گی اور جو موت کا منتظر ہوگا، وہ بھلائیوں کی طرف جلدی

کرے گا“۔

۳۴۴۶- (صح) سلیمان بن حیان (ع)، ابو خالد

یہ کوفہ کا رہنے والا ہے، علم حدیث کا عالم اور حافظ ہے، عباس دوری نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ”صدوق“ ہے لیکن

حجت نہیں ہے، علی بن مدینی کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے۔

اس نے لیث، حجاج بن ارطاة سے روایات نقل کی ہیں اس سے احمد، ابوکریب اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن عدی نے (اپنی تصنیف) ”الکامل“ میں اس کے حوالے سے روایات نقل کرنے کے بعد یہ کہا ہے: ان (روایات) میں اس کی

مخالفت کی گئی ہے، یہ ویسا ہی ہے، جیسا اس کے بارے میں یحییٰ بن معین نے کہا ہے: یہ ”صدوق“ ہے، لیکن حجت نہیں ہے، یہ اپنے خراب

حافظے سے روایات نقل کرتا ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ ”کتب“ کے راویوں میں سے ایک ہے، یہ بکثرت روایات نقل کرنے والا ہے اور

دوسروں کی طرح وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔

۳۴۴۷۔ سلیمان بن خارجہ بن زید بن ثابت

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں، اسے ”ثقة“ قرار دیا گیا ہے، میرے علم کے مطابق، لیث کے استاد ولید بن ابولید کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایات نقل نہیں کی ہیں۔

۳۴۴۸۔ سلیمان بن ابو خالد مدائنی بزاز

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں، یہ فعنی کا استاد ہے، اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔

۳۴۴۹۔ سلیمان بن خالد واسطی

اس نے قتادہ سے روایات نقل کی ہیں، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”ضعیف الحدیث“ ہے۔

۳۴۵۰۔ سلیمان بن خربوذ (د)

یہ اعش کے زمانے میں تھا، عثمان بن عثمان نے اس سے روایات نقل کی ہیں، یہ پتا نہیں چل سکا کہ یہ کون ہے؟ اس کی (نقل کردہ) روایت یہ ہے، جو اس نے ایک مدنی بزرگ کے حوالے سے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں:

عمی بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسد لها من بین یدی ومن خلفی.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عمامہ باندھا، تو ایک شملہ اگلی جانب اور ایک شملہ پیچھے کیا۔“

۲۴۵۱۔ سلیمان بن داؤد (س) خولانی، دمشقی

یحییٰ بن حمزہ نے اس سے دیتوں اور صدقات کے بارے میں حدیث روایت کی ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔

یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی شناخت نہیں ہو سکی اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ایک مرتبہ انہوں نے کہا: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے، ایک مرتبہ انہوں نے کہا: یہ شامی اور ضعیف ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: مجھے یہ امید ہے، یہ حدیث صحیح ہوگی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اپنی ”مسند“ میں حکم بن موسیٰ کے حوالے سے نقل کی ہے۔

امام ابو زرہ رحمۃ اللہ علیہ دمشقی کہتے ہیں: میں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، دیتوں کے بارے میں یحییٰ بن حمزہ طویل کی نقل کردہ حدیث

پیش کی تو وہ بولے: یہ شخص اہل جزیرہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نام سلیمان بن ابوداؤد ہے اور یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے، اس کے بعد امام

ابو زرہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابواحمد بن عدی نے یہ بات بیان کی ہے، مجھے یہ بات بتائی گئی، کہ انہوں نے یہ روایت یحییٰ بن حمزہ کی سلیمان بن ارقم کے

حوالے سے زہری سے نقل کردہ روایات کی اصل میں پائی تھی، لیکن حکم بن موسیٰ اس کا ضبط نہیں کر سکے۔

عثمان بن سعید کہتے ہیں: سلیمان بن داؤد خولانی جس سے یحییٰ بن حمزہ سے روایات نقل کی ہیں وہ ضعیف ہے۔
ابن عدی کہتے ہیں: یحییٰ بن حمزہ، نے سلیمان بن داؤد خولانی سے بہت سی روایات نقل کی ہیں مجھے یہ امید ہے کہ وہ ویسا نہیں ہے
جیسا کہ یحییٰ بن معین نے کہا ہے اس کی نقل کردہ روایات حسن اور مستقیم ہیں۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ”اس کا تعلق اہل جزیرہ سے ہے اور یہ سلیمان بن ابوداؤد ہے“ انہوں نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ انہوں نے
سلیمان بن ارقم سے منقول یحییٰ کی اصل میں یہ بات پائی تھی اور یہ کہنا غلط ہے کہ حکم نامی راوی ضبط نہیں کر سکے، کیونکہ حکم نے اس ضبط میں
سلیمان بن داؤد خولانی کا نام ذکر کیا ہے، لیکن وہ (یعنی خولانی) ایک مجہول شخص ہے۔
سلیمان بن داؤد خولانی نے ابوقلابہ جرمی کا یہ بیان نقل کیا ہے:

حدثني عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه
وسلم في قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة عمر بن عبد العزيز.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے دس حضرات نے مجھے یہ بات بتائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا قیام، رکوع، سجود
اسی طرح ہوتا تھا، جیسے (آج کل) عمر بن عبدالعزیز کی نماز کی میں ہوتا ہے۔“

جہاں دیت کے احکام سے متعلق حدیث کا تعلق ہے، تو وہ معمر نے، زہری کے حوالے سے، ابوبکر بن حزم سے نقل کی ہے اور انہوں
نے اسے ”مرسل“ طور پر نقل کیا ہے۔

”تاریخ داریا“ میں یہ مذکور ہے: سلیمان بن داؤد خولانی، عمر بن عبدالعزیز کا معتمد تھا، وہ (معاملات) ان کے سامنے پیش کیا کرتا
تھا۔

ابوالحسن الہروی کہتے ہیں: یہ حدیث اصل میں یحییٰ بن حمزہ کے حوالے سے سلیمان بن ارقم سے منقول ہے، اس بارے میں حکم نامی
راوی کو غلط فہمی ہوئی ہے۔

ابوزرعہ دمشقی کہتے ہیں: درست یہ ہے، (راوی کا نام) سلیمان بن ارقم ہے۔

حافظ ابن مندہ کہتے ہیں: میں نے یحییٰ بن حمزہ کی تحریر میں، ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا، یہ دیکھا ہے، یہ سلیمان بن ارقم کے حوالے سے
زہری سے منقول ہے اور یہی درست ہے۔

صالح جزیرہ بیان کرتے ہیں: دجیم نے ہمیں یہ بات بتائی، میں نے یحییٰ کی کتاب کے اصل مسودے میں، صدقات کے بارے میں
عمر بن حزم کی نقل کردہ روایت دیکھی ہے وہ سلیمان بن ارقم سے منقول ہے۔

صالح کہتے ہیں: میں نے یہ کلام امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے نوٹ کیا ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ بات قابل ترجیح ہے کہ حکم بن موسیٰ کو ضرور اس میں وہم ہوا ہے۔

یعقوب فسوی کہتے ہیں: تمام منقول کتب میں، میرے علم کے مطابق عمرو بن حزم کی کتاب سے زیادہ مستند اور کوئی کتاب نہیں ہے۔
ابن ابوحاتم بیان کرتے ہیں: میرے والد کہتے ہیں: یحییٰ بن حمزہ عراق بھی آئے تھے تو لوگ یہ سمجھے، ”ارقم“ ان کی صفت ہے، اور ان

کا نام داؤد ہے۔

بعض حضرات یہ کہتے ہیں: سلیمان بن داؤد مشقی، یحییٰ بن حمزہ کا استاد ہے، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا۔

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: سلیمان بن داؤد خولانی ثقہ ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک مرتبہ انہوں نے کہا: یہ ضعیف ہے، ابن خزیمہ کہتے ہیں: اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: ہم اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ ”ابن ارقم“ ہے، اس صورت میں وہ حدیث ”ضعیف الاسناد“ ہوگی۔

۳۲۵۲۔ سلیمان بن داؤد یمامی، ابو جمل

یہ یحییٰ بن ابوالکثیر کا شاگرد ہے، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے۔

یہ بات پہلے ہمارے سامنے آچکی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جس کو میں ”منکر الحدیث“ قرار دیدوں، اس سے حدیث روایت کرنا جائز نہیں ہے، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، دیگر حضرات نے یہ کہا ہے: یہ ”متروک“ ہے۔ اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

والذی بعثنی بالحق (نبیاً لا تنقضی الدنیا حتی یقع بہم الخسف والسخ والقذف).

قیل: ومتی ذاک؟ قال: اذا رایت النساء رکن السروج، کثرت القینات، شهادة الزور، شرب المسلمون فی آئیة اهل الشرك الذهب والفضة، استغنی الرجال بالرجال والنساء بالنساء، فاستنفروا واستعدوا.

”اس ذات کی قسم! جس نے مجھے (نبی بنا کر) معبود کیا ہے، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، جب تک (زمین میں) دھنسائے جانے، (چہرے) مسخ کیے جانے، (پتھر) برسائے جانے (کا عذاب) لوگوں پر نازل نہیں ہوگا، عرض کی گئی: ایسا کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا: جب تم دیکھو کہ خواتین (ہودج کی بجائے) زین پر سوار ہونے لگی ہیں، گانے والیوں کی کثرت ہوگئی ہے، جھوٹی گواہی دی جاتی ہے۔ مسلمان، مشرکین کے سونے اور چاندی کے برتنوں میں پیتے ہیں، مرد، مردوں کے ساتھ، اور عورتیں، عورتوں کے ساتھ بے نیاز رہتی ہیں، تو تم (عذاب کا سامنا کرنے کی) تیاری کرلو“۔ اس سند کے ساتھ یہ بھی منقول ہے۔

ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا: تعطی من حرمک، تصل من قطعک، تعفو عن ظلمک۔ ”تین باتیں جس شخص میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لے گا، جس نے تمہیں محروم رکھا، تم اسے دو، جس نے تمہارے ساتھ قطع رحمی کی تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور جس نے تم پر ظلم کیا، اسے تم معاف کر دو“۔ اسی سند کے ساتھ یہ بات بھی منقول ہے:

من بنی لله مسجدا بنی الله له بیتا فی الجنة من در ویا قوت.

”جو شخص اللہ تعالیٰ (کی رضا) کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یا قوت سے بنا ہوا گھر بنا دیتا ہے“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے

من سبم النداء فلم یجب فلا صلاة له.

”جو شخص پکار (یعنی اذان) سنے اور اس کا جواب نہ دے، اس کی نماز نہیں ہوتی“

ابن عدی نے اس کے حوالے سے متعدد روایات نقل کی ہیں۔ اور یہ کہا ہے: اس کی نقل کردہ زیادہ تر روایات کی کسی نے متابعت نہیں کی۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

ان هذه النوائج يجعلن يوم القيامة صفيين من جهنم ينبحن على اهل جهنم كما تنبح الكلاب.

”نوحہ کرنے والی ان عورتوں کو قیامت کے دن جہنم میں ڈھلا جائے گا، یہ اہل جہنم پر یوں بھونکیں گی، جیسے کتے بھونکتے ہیں۔“

بعض حضرات نے غلطی کی اور اس کو سابقہ روایت میں ملا دیا۔ یہ بات اس سے پہلے گزر چکی ہے، ابو جہل یمامی نامی راوی دوسرا ہے، اس میں ضعیف پایا جاتا ہے، وہ اس سے زیادہ مثالی ہے اس کا نام ایوب بن محمد ہے اس نے یحییٰ ابن ابوکثیر سے بھی روایت نقل کی ہے۔

۳۴۵۳- (صح) سلیمان بن داؤد (م، عو)، ابو داؤد طیالسی

یہ بصرہ کے رہنے والے ہیں، حافظ الحدیث ہیں، اور اکابر اہل علم میں سے ایک ہیں۔

یہ ثقہ ہیں، لیکن حدیث (نقل کرنے میں) غلطی کر جاتے ہیں ابراہیم بن سعید جوہری کہتے ہیں: ابو داؤد (طیالسی) نے ایک ہزار احادیث میں غلطی کی ہے امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ابو داؤد محدث اور ”صدوق“ ہیں، لیکن یہ بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ محمد بن منہال ضریر کہتے ہیں: میں پہلے ابو داؤد (طیالسی) پر تہمت عائد کیا کرتا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا: میں نے ابن عون سے سماع نہیں کیا، اس کے ایک سال بعد میں نے ان سے دریافت کیا، کیا آپ نے ابن عون سے سماع کیا ہے؟ تو وہ بولے: جی ہاں! تقریباً بیس (احادیث کا سماع کیا ہے)

فلاس کہتے ہیں: میں نے ابو داؤد طیالسی سے بڑا حافظ الحدیث کوئی نہیں دیکھا ابن مہدی کہتے ہیں: ابو داؤد سب سے زیادہ صدوق

تھے

عامر بن ابراہیم بیان کرتے ہیں: میں نے ابو داؤد طیالسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: میں نے ایک ہزار مشائخ سے احادیث نوٹ کی ہیں یہ بات منقول ہے: ابو داؤد طیالسی تیس ہزار احادیث روایت کرتے تھے، ان میں سے چھ ہزار سات سو احادیث انہوں نے شعبہ سے

خطیب کہتے ہیں: وہ حافظ الحدیث، بکثرت روایات نقل کرنے والے، ثقہ اور ثبت تھے وہ بغداد آئے اور یہاں انہوں نے شعبہ اور مسعودی سے سنا لیا جو وہاں موجود تھے۔

یونس بن حبیب بیان کرتے ہیں: ابوداؤد طیالسی نے شعبہ کی موجودگی میں ان لوگوں کے ساتھ مذاکرہ کیا، تو شعبہ نے ان سے کہا: اے ابوداؤد، ابھی تم نے جو کچھ پیش کیا ہے اس سے زیادہ عمدہ تم نے پہلے کبھی پیش نہیں کیا۔

سیمان بن حرب بیان کرتے ہیں: جب شعبہ اٹھ جاتے تھے تو ابوداؤد طیالسی اپنے حافظے کی بنیاد پر لوگوں کو (احادیث) املاء کرواتے تھے۔ یعنی شعبہ نے پہلے جو روایات ذکر کی ہوئی تھیں۔ (انہیں املاء کروادیتے تھے)

بندار بیان کرتے ہیں: میں نے انہیں (یعنی طیالسی کو) یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: میں نے اصہبان میں، ابتداء میں ہی، کسی درخواست کے بغیر، اکتالیس ہزار احادیث بیان کر دی تھیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابوداؤد طیالسی کے حوالے سے، صرف ایک روایت، موصول طور پر نقل کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ان کا ارسال سب سے زیادہ ”ثبت“ ہے۔

یزید بن زریع بیان کرتے ہیں: شعبہ نے ہمیں دو حدیثیں بیان کیں، میں نے وہ دونوں روایات ابوداؤد طیالسی کو سنا دیں، انہوں نے مجھ سے (سن کر) وہ روایات نوٹ کر لیں، اور پھر وہ دونوں روایات (براہ راست) شعبہ کے حوالے سے بیان کر دیں۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: انہوں نے ان دونوں روایات میں تدلیس کی ہے تو اس میں حرج کیا ہے۔ فلاس کہتے ہیں: جب ابوداؤد طیالسی کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی گئی ”منافق کی نشانیوں“ تو مجھے ایسے کسی شخص کا علم نہیں ہے، جس نے اس کے مرفوع ہونے میں اس کی متابعت کی ہو، اور وہ ثقہ ہو۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ حدیث، منافق کی صفت، کے بارے میں، ہم تک عالی سند کے ساتھ پہنچی ہے۔ طیالسی نے، شعبہ اور منصور کے حوالے سے، مجاہد کا یہ بیان نقل کیا ہے:

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جب کسی کو ثقہ دینا ہوتا تھا تو اسے آپ زم زم پلاتے تھے“

یونس بن حبیب اصہبانی بیان کرتے ہیں: ابوداؤد ہمارے ہاں آئے انہوں نے اپنے حافظے کی بنیاد پر ہمیں ایک لاکھ احادیث املاء کروائیں اور ستر مقامات پر غلطی کی، جب وہ بصرہ واپس تشریف لے گئے تو انہوں نے ہمیں خط لکھا، میں نے ستر مقامات پر غلطی کی تھی، تو تم ان کی اصلاح کر لو۔

ابن عدی کہتے ہیں: ابوداؤد اپنے زمانہ میں، بصرہ کے سب سے بڑے حافظ الحدیث تھے، مجھے نہیں معلوم کہ ابن منہال نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، وہ کس وجہ سے کہا ہے؟

ان سے کچھ ایسی احادیث منقول ہیں، جنہیں انہوں نے مرفوع حدیث کے طور پر نقل کیا ہے، لیکن یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے کہ جو شخص اپنے حافظے کی بنیاد پر چالیس ہزار احادیث املاء کروادے، وہ چند روایات میں غلطی کر جائے۔

امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک بیدار مغز اور ثبت شخص تھے ان کا انتقال 204 ہجری میں ہوا۔

۳۲۴۴- سلیمان بن داؤد منقری شاذکونی بصری حافظ، ابویوب

اس نے حماد بن زید، جعفر بن سلیمان اور ان کے بعد کے افراد سے ملاقات کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔

یحییٰ بن معین نے انہیں اس حدیث کے حوالے سے جھوٹا قرار دیا ہے، جو ان کے حوالے سے روایت کی گئی ہے۔
عبدان اہوازی کہتے ہیں: اس بات سے اللہ کی پناہ کہ ان پر تہمت عائد کی جائے، ان کی تحریریں ضائع ہو گئی تھیں۔ اپنے حافظے کی بنیاد پر احادیث بیان کرتے تھے۔

ابن عدی کہتے ہیں: ابویعلیٰ اور حسن بن سفیان جب اس کے حوالے سے حدیث بیان کرتے تھے، تو یہ کہتے تھے: سلیمان ابویوب نے ہمیں حدیث بیان کی، وہ دونوں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتے تھے، وہ دونوں تدلیس کرتے تھے اور اس (راوی کو) چھپاتے تھے۔
امام ابوحاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک الحدیث“ ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ثقتہ“ نہیں ہے۔

یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: سلیمان شاذکونی نے ہم سے کہا: حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آراء میں سے کوئی ایسا حرف پیش کرو، جو مجھے یاد نہ ہو۔

حنبل کہتے ہیں: میں نے ابو عبد اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا: رجال کے بارے میں، ہم میں سب سے بڑے عالم یحییٰ بن معین تھے، ابواب کے سب سے بڑے حافظ شاذکونی تھے طویل (روایات) کے سب سے بڑے حافظ علی بن مدینی تھے۔
صالح بن محمد حافظ کہتے ہیں: میں نے شاذکونی سے بڑا حافظ الحدیث نہیں دیکھا۔ وہ حدیث (نقل کرنے میں) غلط بیانی کرتے تھے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: شاذکونی، حماد بن زید، بشر بن مفضل اور یزید بن ذریع کی خدمت میں رہے ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں نفع نہیں دیا۔

ابن عدی کہتے ہیں: محمد بن موسیٰ السواق کہتے ہیں: جب ابن شاذکونی کی وفات کا وقت قریب آیا، تو وہ بولے: اے اللہ! میں تیری بارگاہ میں یہ عرض پیش کرتا ہوں، میں اس بارے میں عرض پیش نہیں کرتا کہ میں نے کسی پاکدامن عورت پر زنا کا الزام لگایا ہو، یا کسی حدیث میں تدلیس کی ہو۔

ابن عدی نے اس کے حوالے سے کچھ ایسی روایات نقل کی ہیں، جن میں اس (کی روایت) کے برخلاف نقل کیا گیا ہے، پھر انہوں نے یہ کہا: شاذکونی سے بہت سی مستقیم احادیث منقول ہیں، وہ گئے چنے حافظان حدیث میں سے ایک ہیں، ان کی صورت حال یہ ہے جیسا کہ عبدان نے کہا ہے: یہ حافظ کی بنیاد پر حدیث بیان کرتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس کے باقی کے دو واقعات میں نے اپنی بڑی تاریخ میں ذکر کر دیے ہیں۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من کسح مسجدا او رشہ کان کانه حجج اربعائے حجة، غزا

سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

۳۴۶۰۔ سلیمان بن ابوداؤد

شاید یہ ”بومہ“ (یعنی سابقہ راوی) ہے، کیونکہ دارقطنی کی کتاب میں، ان کی سند کے ساتھ، اس راوی کے حوالے سے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان منقول ہے:

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم طاف لحجة و عمرة طوافا واحدا
”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کے لیے ایک ہی مرتبہ طواف کیا تھا“
ابن قتان کہتے ہیں: سلیمان کی شناخت پتہ نہیں چل سکی ہے۔

۳۴۶۱۔ سلیمان بن ذکوان

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، یہ ضعیف ہے، لیکن اس تک پہنچنے والی سند بھی مستند نہیں ہے۔

۳۴۶۲۔ سلیمان بن ربیع نہدی کوفی

اس نے ابو نعیم اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں، ابوالحسن دارقطنی نے اسے ”متروک“ قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں: یہ مشائخ کے اسماء تبدیل کر دیتا ہے، برقانی نے دارقطنی کا یہ قول نقل کیا ہے: ”ضعیف“ ہے۔

۳۴۶۳۔ سلیمان بن ربیع

اس راوی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے غلام حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے
من کف غضبه کف اللہ عنه عذابه، من اعتذر الی اللہ قبل اللہ عذره.
”جو شخص اپنے غضب پر قابو پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کرے گا۔“

زید بن حباب نے اس سے، یہ روایت نقل کی ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ حدیث منکر ہے۔

۳۴۶۴۔ سلیمان بن رجاء

اس نے عبدالعزیز بن مسلم سے روایات نقل کی ہیں، اس سے محمد بن عمران بن ابولیلی نے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

۳۴۶۵۔ سلیمان بن رزین

اس نے سالم سے روایات نقل کی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کے ذریعے حجت قائم نہیں ہو سکتی۔

۳۴۶۶۔ سلیمان بن زیاد ثقفی واسطی

اس نے شیبان نحوی سے روایات نقل کی ہیں، یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کون ہے؟ اس نے جھوٹی روایت نقل کی ہے، جو اس سے مفصل

غلابی نے روایت کی ہے۔

۳۴۶۷- سلیمان بن زیاد، مصری۔

یہ ”واہی“ ہے ابن یونس کہتے ہیں، ابن وہب سے اس کا روایت کرنا محل نظر ہے، یہ بات بھی کہی گئی ہے: یہ اختلاط کا شکار ہو گیا تھا۔

۳۴۶۸- سلیمان بن زید

اور ایک قول کے مطابق ابن زید ہے (اس کی کنیت اور اسم منسوب) ابوادام محارب بنی کوفی ہے۔

اس نے حضرت ابن ابی اوفی سے روایات نقل کی ہیں اس سے وکیع، عبید اللہ بن موسیٰ اور ایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔ عباس دوری نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ یہ ”ثقة“ نہیں ہے ایک مرتبہ انہوں نے کہا: اس کی (نقل کردہ روایت) ایک نکلے کے برابر بھی نہیں ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ نہیں ہے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”الادب المفرد“ میں اس کے حوالے سے روایت نقل کی ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابن ابی اوفی کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

لا تنزل الرحمة علی قوم فیہم قاطع رحم

”ایسی قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جن کے درمیان قطع رحمی کرنے والا موجود ہو“

۳۴۶۹- سلیمان بن سالم

یہ ابن ابوداؤد حرانی بومہ ہے یہ ضعیف ہے، (اس کا ذکر) پہلے گزر چکا ہے۔

۳۴۷۰- سلیمان بن سالم قطان مدنی۔

اس کی کنیت ابوداؤد قرشی ہے اس نے علی بن زید سے روایات نقل کی ہیں اس سے اسحاق اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس نے ایسی منکر روایت نقل کی ہے، جس کی متابعت نہیں کی گئی اس کا شمار اہل بصرہ میں کیا جاتا

ہے۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

رایت علیاً والذییر التزما، رایت عمر وعلیاً التزما

”میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے دیکھا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے دیکھا ہے۔“

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: (حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں پایا۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ حمید بن عبد الرحمان کا یہ بیان نقل کیا ہے:

ان بسرة بنت صفوان قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من يخطب امر كلثوم؟ فلان وفلان وابن عوف.

فقال: انكحوا عبد الرحمن، فانه من خيار المسلمين، من خيارهم من كان مثله، فاخبرت بسرة امر كلثوم، فارسلت الى اخيها الوليد بن عقبة ان انكح عبد الرحمن الساعة.

”نبی اکرم ﷺ نے سیدہ بسرہ بنت صفوان سے دریافت کیا: ام کلثوم کے لیے شادی کا پیغام کس، کس نے بھجوایا ہے؟ میں نے عرض کی: فلاں، فلاں اور ابن عوف نے، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: عبدالرحمان کی شادی کروادو، کیونکہ وہ بہترین مسلمانوں میں سے ایک ہے، ان کے بہترین افراد میں سے کون ہے، جو اس کی مانند ہو، سیدہ بسرہ نے سیدہ ام کلثوم کو اس بارے میں بتایا، تو (سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا) نے اپنے بھائی ولید بن عقبہ کو پیغام بھجوایا، میری شادی عبدالرحمان سے کروادو۔ اس نے اپنی والدہ کے حوالے سے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ بیان بھی نقل کیا ہے:

لقد هلك حبي وما شبع شبعتين من خبز الشام

”میرے محبوب (یعنی نبی اکرم ﷺ) کا وصال ہو گیا اور آپ نے کبھی (ایک ہی دن میں) دو مرتبہ سیر ہو کر، شام کی (عمدہ) گندم کی روٹی نہیں کھائی“

ابن عدی کہتے ہیں: اس نے جو مقدار روایت کی ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

امام ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ شیخ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے عبدالرحمان حمید کے غلام سلیمان بن سالم ابو ایوب اور ابو داؤد سلیمان بن سالم قرشی بصری نامی اس راوی کے درمیان فرق کیا ہے (یعنی انہیں دو الگ افراد قرار دیا ہے)

۳۴۷۱- سلیمان بن ابوسراج

امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے۔

۳۴۷۲- سلیمان بن سفیان، (ت) ابوسفیان مدنی

اس نے عبداللہ بن دینار، بلال بن یحییٰ سے روایات نقل کی ہیں، ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا: یہ ”ثقة“ نہیں ہے، اور اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ نے کہا ہے، امام ابو حاتم رحمہ اللہ اور دارقطنی کہتے ہیں: یہ

ضعیف ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى الهلال قال: اللهم اهله علينا بالامن والايمان والاسلام، ربى وربك الله.

”نبی اکرم ﷺ جب پہلی کا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: اے اللہ! اسے ہم پر امن، ایمان اور اسلام کے ہمراہ طلوع

کرنا؛ (اے چاند!) میرا اور تمہارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

لما نزلت ”فمنهم شقی وسعید“ (سورہ: ۱۰۵) - سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال: یا عمر، کل میسر
لما خلق له

”جب یہ آیت نازل ہوئی ”ان میں سے کچھ بد بخت ہو گئے اور کچھ نیک بخت ہو گئے“۔ تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (اس بارے میں) دریافت کیا: آپ نے فرمایا: اے عمر! ہر کسی کے لیے وہ چیز آسان کر دی جائے گی، جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا“۔

میرا نہیں خیال کہ اس سے ان دو کے علاوہ کوئی اور روایت بھی منقول ہے۔

۳۳۷۳- سلیمان بن سفیان چہنی مدائنی

اس نے قیس بن ربیع سے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ اور نسائی کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ نہیں ہے۔

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ابن عدی کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، ابن جوزی نے اسی طرح نقل کیا ہے، اس کے بارے میں تینوں کا کلام بھی اسی کی مانند ہے، تو اس سے مجھے اندیشہ ہے، کہیں یہ دونوں ایک ہی شخص نہ ہوں۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابن ابوحاتم اور ابن عدی نے سے صرف پہلے والے کا ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں ابوزرعہ نے یہ کہا ہے: اس نے عبداللہ بن دینار سے تین روایات نقل کی ہیں، اور وہ تینوں منکر ہیں۔

۳۳۷۴- سلیمان بن سلمی رازی

اس نے حارث بن فضیل سے روایات نقل کی ہیں، یہ مہول ہے۔

۳۳۷۵- سلیمان بن سلمہ خباری، ابویوب مصبی

اس نے اسماعیل، بقیہ سے روایات نقل کی ہیں، علی بن حسین بن جنید اور ایک جماعت نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔ ابوحاتم نے اس سے سماع کیا ہے، لیکن انہوں نے اس سے حدیث نقل نہیں کی، وہ یہ کہتے ہیں: ”متروک“ ہے، اس میں مشغول نہیں ہو جائے گا۔

ابن جنید کہتے ہیں: یہ جھوٹ بولتا تھا، اس کے بعد میں اس سے حدیث روایت نہیں کروں گا۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے، ابن عدی کہتے ہیں: اس سے ایسی روایات منقول ہیں، جو منکر نہیں ہیں، باغندی اور دیگر حضرات نے اس کے حوالے سے ہمیں احادیث بیان کی ہیں۔

اس کی نقل کردہ مصیبتوں میں سے ایک یہ روایت ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

لما كلم الله موسى كان جبرائيل ياتيه بحلتين من حلل الجنة، بكرسى مرصع بالجواهر، فيجلس موسى عليه.

”جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، تو جبرائیل جنت کے دو حلقے لے کر آئے، اور جو اہر سے آراستہ ایک کرسی لے کر آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر تشریف فرما ہوئے“
حسین بن اسحاق دیقی کہتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

هدية الله الى المؤمن السائل على باب داره.

”مومن کے دروازے پر موجود سائل اس کی طرف اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے“

خطیب کہتے ہیں: سعید نامی راوی مجہول ہے اور خباری ضعف کے حوالے سے مشہور ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: امام مالک کی طرف اس کی نسبت جھوٹی ہے، باغندی نے بھی اس سے ایک حدیث کا سماع کیا ہے اور انہوں نے اسے منکر قرار دیا ہے۔ وہ روایت یہ ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

العبادة انتظار الفرج من الله

”عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراخی ملنے کا انتظار کیا جائے“

۳۳۷۶- سلیمان بن سلمہ

اس نے سعید بن موسیٰ کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اس کے حوالے سے ایسی روایت منقول ہے جو اس نے عبدالعظیم بن حبیب کے حوالے سے ابن ابوزب سے نقل کی ہے اس پر (احادیث) ایجاد کرنے کا الزام ہے۔

۳۳۷۷- سلیمان بن ابوسلیمان قافلانی

اس نے حسن اور ابن سیرین سے روایات نقل کی ہیں یہ ”متروک الحدیث“ ہے یہ بصرہ کا رہنے والا ہے اور اس نے تھوڑی روایات نقل کی ہیں۔

عباس دوری نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ضعیف ہے ایک مرتبہ انہوں نے کہا: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: سلیمان ابو محمد قافلانی، جس نے ابن سیرین سے روایت نقل کی ہے وہ ضعیف ہے۔

ابن مدینی کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔ یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: میں اس کی (نقل کردہ) حدیث میں حرج نہیں سمجھتا۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

انه نهى عن ثمن الكلب و كسب الزمارة

”نبی اکرم ﷺ نے کتے کی قیمت اور بانسری بجانے والے کی آمدن (استعمال کرنے) سے منع کیا ہے“

۳۴۷۸- سلیمان بن ابوسلیمان یمامی

یہ ابن داؤد ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے جہاں تک ابن عدی کا تعلق ہے، تو انہوں نے ان دونوں راویوں کے درمیان فرق کیا ہے، اس راوی کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے: یہ سلیمان بن ابوسلیمان زہری یمامی ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے۔

لا ينظر الله الى من اتى امرأة في دبرها.

”اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، جو عورت کے ساتھ اس کی پچھلی شرمگاہ میں صحبت کرتا ہے“

پھر ابن عدی نے کئی حوالوں سے، اس سے چند روایات نقل کر کے یہ کہا ہے: اس کی بعض روایات ”منکر“ ہیں۔

(امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: ابوحاتم نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے۔

۳۴۷۹- سلیمان بن ابوسلیمان (ت)

یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا غلام ہے، صرف عوام بن حوشب نے اس سے روایات نقل کی ہیں، ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں: میں اس سے واقف نہیں ہوں۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے

لما خلق الله الارض جعلت تميد، فالقى الجبال عليها فاستقرت الحديث.

”جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ڈولنے لگی، تو اللہ نے اس پر پہاڑ رکھ دیے تو وہ ٹھہر گئی“ الحدیث

۳۴۸۰- سلیمان بن شعیب (ت) بن لیث بن سعد مصری

اس نے ابن لہیعہ سے روایات نقل کی ہیں، ابن یونس کہتے ہیں: یہ منکر روایات نقل کرتا ہے، عقیلی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ حدیث غیر محفوظ ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے۔

لما اشتبكت الحرب يوم خيبر قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه الحرب قد اشتبكت فاخبرنا باكرم اصحابك عليك، فان يكن امر عرفناه وان تكن الاخرى اتيناها. فقال: ابوبكر وزيرو، يقوم في الناس مقامى من بعدى، عبر ينطق بالحق على لسانى، انا من عثمان وعثمان منى، على اخى

وصاحبی یوم القیامة.

”غزوہ خیبر کے موقع پر جب جنگ ختم ہوگئی، تو نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کی گئی، جنگ تو اب ختم ہوگئی ہے، آپ ہمیں بتائیں آپ کے نزدیک آپ کے اصحاب میں سے سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ تاکہ اگر ضرورت پیش آئے، تو ہم اس سے واقف ہوں اور اگر دوسری صورتحال ہو، تو ہم اس کے پاس جائیں، تو نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ابو بکر میرا وزیر ہے، وہ میرے بعد، لوگوں کے درمیان میری جگہ پر کھڑا ہوگا، میری زبانی (یہ بات ثابت شدہ ہے) کہ ”عمر“ حق کے مطابق بات کرتا ہے، میں عثمان سے ہوں اور عثمان مجھ سے ہے، اور علی قیامت کے دن میرا بھائی اور ساتھی ہوگا۔“

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس روایت کو وضع کرنے کا الزام اس جاہل بوڑھے پر ہے۔

۳۲۸۱- سلیمان بن شعیب سجری

اس نے سفیان ثوری سے روایات نقل کی ہیں، ابن عدی کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے اور حدیث میں سرقہ کرتا ہے۔

۳۲۸۲- سلیمان بن شہاب

اس نے عبدالعزیز بن معتمر سے روایات نقل کی ہیں، یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کون ہے؟ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ مجہول ہے۔

۳۲۸۳- سلیمان بن صلاہ ملطی

اس پر تہمت عائد کی گئی ہے۔

۳۲۸۴- سلیمان بن طرخان (ع) تیمی (بصری قیسی مولا ہم)

یہ امام ہے اور ”ثبت“ راویوں میں سے ایک ہے، یہ بات بیان کی گئی ہے: یہ حسن اور دوسرے ایسے راویوں کے حوالے سے تدلیس کرتا تھا، جو اس نے (اپنے ان اساتذہ سے) نہیں سنی ہوتی تھیں۔

۳۲۸۵- سلیمان بن عبداللہ ابو ولید رقی

ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے۔

۳۲۸۶- سلیمان بن عبداللہ بن عومیر

اس نے عروہ سے یہ ”مرسل“ روایت نقل کی ہے:

نہی ان یشار الی السحاب.

”اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ بادل کی طرف اشارہ کیا جائے“

ابن قطان کہتے ہیں: اس کی حالت کا پتہ نہیں چل سکا، ابن ابوزناد اور ابن اسحاق کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایت نقل نہیں کی۔

۳۴۸۷- سلیمان بن عبد اللہ

اس نے معاذہ کے حوالے سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے:

انا الصدیق الاکبر

”میں ”صدیق اکبر“ ہوں۔“

عقیلی کی کتاب میں ابوفاطمہ کا یہ قول منقول ہے: اس کا نام سلیمان بن عبد اللہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی متابعت نہیں کی گئی۔

ابن عدی نے اس کا ذکر ”الضعفاء“ میں کیا ہے۔

۳۴۸۸- سلیمان بن ابو عبد اللہ (د)

یہ تابعی ہے، اس نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، اس سے یعلیٰ ابن حکیم نے روایات نقل کی ہیں۔ابوالعباس نباتی بیان کرتے ہیں: امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ مشہور نہیں ہے کہ اس کی حدیث کا اعتبار کیا جائے۔

۳۴۸۹- سلیمان بن عبد الحمید (د) بہرانی حمصی

اس نے علی بن عیاش اور ان کے طبقے کے افراد سے روایات نقل کی ہیں،

اس سے ابو داؤد، ابو عوانہ اور شیخہ نے روایات نقل کی ہیں، ابن ابو حاتم کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ

کذاب ہے اور ”لقنہ“ نہیں ہے۔

۳۴۹۰- (صح) سلیمان بن عبد الرحمن (خ، عو) دمشقی حافظ

یہ شریح بن مسلم خولانی کا نواسہ ہے، یہ ایک بڑا عالم ہے، اس کی کنیت ابو ایوب ہے، ابن عیاش، ولید، ابن عیینہ، ابن وہب اور ایک

مخلوق نے اس سے روایات نقل کی ہیں،

اس سے امام بخاری، امام ابو زرہ، جعفر فریابی اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں، اس کی پیدائش 153 ہجری میں ہوئی، یہ سرخ

رنگ کا خضاب لگاتا تھا، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے، جب کہ امام ابو زرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا شمار دمشق کے اہل فتویٰ میں کیاہے، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: مسکین، جب معروف راویوں کے حوالے سے حدیث روایت کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ابن

ابو حاتم کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے، البتہ اس نے ضعیف اور مجہول راویوں سے سب سے زیادہ روایات نقل کی ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ

اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص حدیث ایجاد کر کے اس کے سامنے بیان کر دے تو یہ اُسے سمجھ نہیں سکے گا اور تمیز نہیں کر سکے گا۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: جی ہاں! اللہ کی قسم! یہ تمیز کر سکتا ہے، اور اس کام کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، امامابو زرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اہل دمشق کے فقہیہ سلیمان بن عبد الرحمن نے ہمیں حدیث بیان کی، حافظ ابو بکر نیشاپوری کہتے ہیں: ابن جوصہ نے

ابراہیم بن یعقوب جو زجانی کا یہ بیان نقل کیا ہے: ہم لوگ سلیمان بن عبد الرحمن کے ہاں آتے جاتے رہے، لیکن انہوں نے ہمیں کچھ دن

تک اجازت نہیں دی، پھر جب ہم اُن کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اُنہوں نے بتایا: مجھے اس رازی نوجوان یعنی امام ابو زرہ رضی اللہ عنہ کی آمد کی اطلاع ملی تو میں نے اس سے ملاقات کے لیے تین لاکھ احادیث کی چھان بین کی، امام دارقطنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ ہے لیکن اس نے ضعیف راویوں کے حوالے سے منکر روایات نقل کی ہیں۔

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: اگر عقلی نے کتاب ”الضعفاء“ میں اس کا ذکر نہ کیا ہوتا، تو میں بھی اس کا ذکر نہ کرتا، کیونکہ یہ مطلق طور پر ثقہ ہے، امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ بھی اُسی طرح غلطی کرتا ہے جس طرح دوسرے لوگ کرتے ہیں لیکن یہ ہشام بن عمار سے بہتر ہے۔

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس کا انتقال 233 ہجری میں ہوا، امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے جو اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں:

انه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه علي فقال: يا رسول الله، تفلت القرآن من صدري. قال: افلا اعلمك كليات تثبت ما تعلمت في صدرك! فقال: اجل. قال: اذا كانت ليلة الجمعة فقم بربع ركعات تقرا فيهن: يس، الدخان، تنزيل، تبارك، ثم تدعو. وذكر الحديث.

”ایک مرتبہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اسی دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اُنہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے سینے سے قرآن پھسل جاتا ہے (یعنی میں آیات بھول جاتا ہوں) تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں ایسے کلمات کی تعلیم نہ دوں جن کے ذریعے ہر وہ چیز تمہارے سینے میں محفوظ رہے گی، جو تم سیکھو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی: ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب شب جمعہ ہو (یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات) تو تم چار رکعت نماز ادا کرو، جن میں تم سورہ یسین، سورہ دخان، سورہ تنزیل اور سورۃ الملک کی تلاوت کرو، پھر تم دعا مانگو۔“

اس کے بعد پوری حدیث ہے، یہ روایت اپنی سند کی نزاکت کے باوجود انتہائی منکر ہے اور میرے ذہن میں اس کے حوالے سے کچھ اُلجھن ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ سلیمان کو اس کے حوالے سے کوئی شبہ لاحق ہو گیا ہو، یا اُس پر کوئی چیز داخل کر دی گئی ہو، جیسے ابو حاتم نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے سامنے کوئی حدیث ایجاد کر کے بیان کرے تو یہ اُسے نہیں سمجھ سکے گا۔

۳۴۹۱- سلیمان بن عبید اللہ (ت، ق) انصاری، ابو ایوب رقی خطاب

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

(ارشاد باری تعالیٰ ہے:) ”اور ہم نے کھانے کے حوالے سے، ان میں سے بعض کو دوسروں پر فضیلت دی ہے۔“ (الرعد: ۴)

(نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اس سے مراد میٹھا اور کڑوا ہے، ردی اور عمدہ ہے۔

اس سند کے ساتھ یہ روایت سلیمان کے علاوہ اور کسی نے نقل نہیں کی، یہ سیف بن محمد کے حوالے سے، اعمش سے منقول ہونے کے

طور پر معروف ہے (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: سیف نامی راوی ہلاکت کا شکار ہونے والا ہے ابوداؤد نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: سلیمان بن عبید اللہ رقی، یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”قوی“ نہیں ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس کی وفات بہت پہلے ہو گئی تھی، اس کے حوالے سے صرف اکابرین نے روایات نقل کی ہیں، جیسے ابو حاتم، سمویہ اور اس کا استاد حفص

۳۴۹۲- سلیمان بن عبید اللہ (م، س) غیلیانی بصری

یہ کوئی دوسرا بزرگ ہے اور ”صدوق“ ہے اس نے عبدالرحمن بن مہدی اور بہز سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں۔

۳۴۹۳- سلیمان بن عقیق (م، د، س، ق)۔

اس نے ابوزیر اور جابر سے روایات نقل کی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت مستند نہیں ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ ہے اور مکہ کارہنے والا ہے۔

۳۴۹۴- سلیمان بن عتبہ (ق) دمشقی۔

اس نے یونس بن میسرہ بن حلبس سے نقل کی ہیں، دحیم نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، جب کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے واہی قرار دیا ہے، صالح جزیرہ کہتے ہیں: اس نے منکر روایات نقل کی ہیں، تاہم اسے ”ثقة“ قرار دیا گیا ہے۔

۳۴۹۵- سلیمان بن ابوعثمان تحبیبی بصری۔

اس سے سالم بن غیلان نے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے

۳۴۹۶- سلیمان بن عطاء (ق) حرانی

اس نے مسلمہ جہنی سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے اس پر تہمت عائد کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی احادیث میں کچھ منکر ہونا پایا جاتا ہے۔

ابن عدی بیان کرتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الناس فجاء اعرابي فقال: هل في الجنة سباع؟ قال: يا

اعرابي، ان في الجنة نهرا جعل فيه الابكار من كل بيضاء خوصانية يتغنين باصوات لم يسمع

الخلائق مثلها، ذلك افضل نعيم اهل الجنة. فسئل ابو الدرداء بم يغنين؟ قال: بالتسبيح ان شاء الله.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وعظ و نصیحت کر رہے تھے، ایک دیہاتی آیا، اس نے دریافت کیا: کیا جنت میں سماع ہوگا؟ نبی

اکرم ﷺ نے فرمایا: اے دیہاتی! جنت میں ایک نہر ہے، جس میں ہر سفید رنگ کے موتی سے ایک حور پیدا ہوگی۔ جو ایسی آواز میں گاتی ہیں، کہ مخلوق نے اس جیسی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی، اور یہ جنت کی افضل نعمت ہے۔“

حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا: وہ کیا گاتی ہوں گی؟ انہوں نے جواب دیا: اگر اللہ نے چاہا، تو وہ تسبیح گاتی ہوں گی۔“ اسی سند کے ساتھ یہ بھی منقول ہے:

ذکرنا زیادة العبر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ان الله لا يؤخر نفسا اذا جاء اجلها، انما زیادة العبر ذریة صالحة یرزقها العبد فیدعون له بعد موته.

”ہم نے نبی اکرم ﷺ کی موجودگی میں عمر کے زیادہ ہونے کا ذکر کیا، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب کسی کا آخری وقت آجائے تو اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مؤخر نہیں کرتا، عمر میں اضافہ نیک اولاد ہے، جو وہ (یعنی اللہ تعالیٰ) کسی بندے کو عطا کرتا ہے، تو وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں“

ابوجعفر نقیلی اور دیگر حضرات نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس نے مسلمہ کے حوالے سے اس کے چچا سے کچھ موضوع روایات نقل کی ہیں، ان میں اختلاف یا اس کی طرف سے ہے، یا پھر مسلمہ کی طرف سے ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

سید طعام اهل الجنة اللحم.

”اہل جنت کے کھانوں کا سردار، گوشت ہے“

ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابن زل رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الصبح وهو ثانی رجلیه قال: سبحان الله وبحمده، استغفر الله، ان الله كان توابا رحیما - سبعین مرة. ثم يقول سبعون بسبعائة، ثم يستقبل الناس بوجهه، كان يعجبه الرؤيا فيقول: هل رای احد منكم شيئا؟ فقال ابن زمل: فقلت: يا نبی الله انا. فقال: خير تلقاه او شر توقاه، خير لنا، شر على اعدائنا، الحمد لله رب العالمین، اقصص، فقال: (هل رای احد منكم شيئا)، فقال: رایت جميع الناس على طريق سهل رحب، فبیناهم كذلك اشرفنا على مرج لم تر عینای مثله.. الی ان قال: فاذا انا بك فی البرج علی منبر له سبع درج.. و ذکر الحدیث - الی ان قال فی تعبیرہ: والسبع الدرج الدنيا سبعة آلاف سنة، انا فی آخرها. واما الذی رایت عن یبني فذاك موسى، الذی عن یساری فعیسی، اما الشیخ فابونا ابراهیم، اما الناقة التي رایتنی تبعتها فهي الساعة علينا تقوم.

قال: فما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رؤيا بعدها الا ان يسأل.
”نبی اکرم ﷺ صبح کی نماز ادا کر لینے کے بعد ٹانگیں موڑ کر یہ پڑھتے تھے:

”میں اللہ تعالیٰ کے ہر عیب سے پاک ہونے کا اعتراف کرتا ہوں، اس کی حمد (بیان کرنے) کے ہمراہ، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے“

آپ یہ پہلے ستر مرتبہ پڑھتے تھے، پھر سات سو ستر مرتبہ پڑھتے تھے، پھر آپ ﷺ لوگوں کی طرف رخ کر لیتے تھے، آپ ﷺ کو خواب پسند تھے، آپ ﷺ دریافت کرتے تھے: کیا تم میں سے کسی نے کوئی (نمایاں) خواب دیکھا ہے؟ (ایک مرتبہ ایسا ہوا تو) ابن زل نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے (دیکھا ہے) نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم بھلائی کا سامنا کرو گے یا برائی سے بچ جاؤ گے، یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا اور ہمارے دشمنوں کے حق میں برا ہوگا، ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تم بیان کرو، تو انہوں نے عرض کی: میں نے دیکھا کہ تمام لوگ سیدھے سپاٹ راستے پر ہیں، اسی دوران ایک باغ ہمارے سامنے آ گیا، میری آنکھوں نے اس جیسا باغ نہیں دیکھا تھا، (روایت میں آگے چل کر یہ الفاظ ہیں) میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ اس باغ میں منبر پر موجود ہیں، جس کے سات درجے ہیں، (پھر انہوں نے حدیث ذکر کی، جس میں اس خواب کی تعبیر کے بارے میں یہ الفاظ ہیں: وہ سات درجے دنیا کے سات ہزار سال ہیں، جن میں سے، آخری میں ہوں، جنہیں تم نے میرے دائیں طرف دیکھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور جنہیں تم نے میرے بائیں طرف دیکھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور جو بزرگ تھے وہ ہمارے جدا مجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جہاں تک میرے اونٹنی کے پیچھے جانے کو تم نے دیکھا ہے، تو اس سے مراد قیامت ہے، جو ہم پر قائم ہوگی۔
راوی بیان کرتے ہیں: اس کے بعد میں نے آپ ﷺ سے کبھی کسی خواب کی تعبیر کے بارے میں دریافت نہیں کیا، نبی اکرم ﷺ سے (اس بارے میں) سوالات کیے جاتے تھے۔

۳۳۹۷۔ سلیمان بن عمران

اس نے حفص بن غیاث سے روایات نقل کی ہیں ابن ابوحاتم کہتے ہیں: اس کی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ صدوق نہیں ہے۔

۳۳۹۸۔ سلیمان بن عمرو، ابوداؤد نخعی

یہ کذاب ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں اس کے پاس گیا، تو اس نے کہا: یزید نے مکحول کے حوالے سے، یزید بن ابوجیب کے حوالے سے ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے، میں نے دریافت کیا: تم اسے کہاں ملے تھے؟ تو وہ بولا: اے احق! یہ بات میں نے اس وقت تک نہیں کہی جب تک اس کے لیے جواب تیار نہیں کر لیا، میری اس سے ملاقات ایک دروازے پر ہوئی تھی۔
ابوطالب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں: یہ حدیث ایجاد کرتا تھا احمد بن ابومریم، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول

نقل کرتے ہیں: یہ حدیث ایجاد کرنے کے حوالے سے معروف ہے۔

عباس، یحییٰ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے ابو داؤد نخعی کو یہ کہتے ہوئے سنا: میں نے نصیف، خصاف اور خصف کو سنا۔ یحییٰ کہتے ہیں: یہ سب لوگوں سے زیادہ جھوٹا تھا۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے، تہنیه اور اسحاق نے اس پر جھوٹا ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔

یزید بن ہارون کہتے ہیں: کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے روایت نقل کرے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

توضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا ثلاثا، قال: ما زاد فإسراف، هو من الشيطان.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین، تین مرتبہ وضو کیا اور پھر ارشاد فرمایا: جو اس سے زیادہ ہو، وہ اسراف ہوگا اور شیطان کی طرف سے ہوگا“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت سہل رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

عمل الابرار من امتی الخیاطة، عمل الابرار من النساء الغزل

”میری امت کے نیک مردوں کا پیشہ کپڑے سینا اور نیک عورتوں کا پیشہ سو۔۔۔ کا تانا ہوگا“

میں یہ کہتا ہوں: اس سے بنا لازم ہوگا کیونکہ بننے کے بغیر تو کپڑے سے نہیں جاسکتے اور سوت کا تاننا نہیں جاسکتا، تو اللہ تعالیٰ اسے نتیج کرے، جس نے اسے ایجاد کیا ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت سہل رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

إذا اعتاب احدکم اخاه فلیستغفر له، فانها کفارة له.

”جب کوئی اپنے کسی بھائی کی غیبت کرے، تو اس کے لیے دعاء مغفرت کرے، کیونکہ یہ اس کا کفارہ ہوگا“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

نعم الادام الخل والزیت.

”سرکہ اور زیتون کا تیل بہترین سالن ہیں“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن کیس فطن حذر.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: مومن سمجھدار، ذہین اور بچاؤ کرنے والا ہوتا ہے۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من کذب بالشفاعة لم یصلها (یوم القيامة)

”جو شخص شفاعت کی تکذیب کرے گا، اسے قیامت کے دن وہ نصیب نہیں ہوگی“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

عليكم بالرمان كلوه بشحمه فانه دباغ المعدة، ما من حبة تقع في الجوف الا نورت قلبه، خرس
شيطان الوسوسة اربعين يوما.

”تم پر رمان استعمال کرنا لازم ہے، تم اسے چھلکے سمیت کھاؤ، کیونکہ یہ معدہ کو صاف کر دیتا ہے، اس کا جو بھی دانہ آدمی کے پیٹ میں جاتا ہے وہ دل کو منور کر دیتا ہے، اور چالیس دن تک شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھتا ہے“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

الناس سواء كاسنان المشط، انبا يتفاضلون بالعافية، البرء كثير باخيه، يرفده ويحمله ويكسوه.

”تمام لوگ برابر کی حیثیت رکھتے ہیں: جیسے کنگھی کے دندانے ہوتے ہیں، عافیت کے حوالے سے انہیں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، تو آدمی کا اپنے بھائی کی مدد کرے سواری کا جانور اور لباس فراہم کرنے سے کثرت والا شمار ہوتا ہے۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت طارق کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

اذا قال العبد: قبح الله الدنيا قالت الدنيا: قبح الله اعصانا للرب.

”جب کوئی بندہ یہ کہے: اللہ تعالیٰ دنیا کو قبیح کرے، تو دنیا یہ کہتی ہے: اللہ تعالیٰ اس کو قبیح کرے، جو ہم (دونوں) میں سے پروردگار کا زیادہ نافرمان ہے“

ابن عدی کہتے ہیں: اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ سلیمان بن عمرو احادیث ایجاد کرتا تھا۔

امام ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں: ابوداؤد نخعی بغدادی، بظاہر ایک نیک شخص تھا، البتہ وہ احادیث ایجاد کر لیتا تھا اور قدریہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔

ابوالحسین رہاوی کہتے ہیں: میں نے عبدالجبار بن محمد سے ابوداؤد نخعی کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے جواب دیا: وہ سب لوگوں سے زیادہ رات کے وقت نوافل ادا کرتا تھا اور دن میں (نظمی) روزے رکھتا تھا۔

امام ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

الحيض عشر، فما زاد فهي مستحاضة

”حیض دس دن کا ہوتا ہے، جو اس سے زیادہ ہو، وہ مستحاضہ ہوتا ہے“

امام بخاری رحمہ اللہ ”الضعفاء الکبیر“ میں فرماتے ہیں: سلیمان بن عمرو کو فی ابوداؤد نخعی جھوٹ کے حوالے سے معروف ہے یہ بات قتیبہ اور اسحاق نے بیان کی ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

الثابت في مصلاہ يذكر الله حتى تطلع الشمس ابلغ في طلب الرزق من الضرب من الامصار.
 ”(فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد) سورج نکلنے تک، اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، رزق کے حصول کے لیے، شہروں میں گھومنے سے زیادہ موزوں ہے۔“
 ابو معمر کہتے ہیں: بشر میسی نے ”جہمی“ نظریات ابو داؤد نخعی سے حاصل کیے تھے۔
 حاکم کہتے ہیں: اس کی تمام تر ظاہری دینداری اور کثرت عبادت کے باوجود، مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ احادیث ایجاد کرتا تھا۔

ابو ولید بیان کرتے ہیں: میں نے شریک کو یہ کہتے ہوئے سنا: ہم نے اپنے چچا زاد (یعنی سلیمان بن عمرو نامی اس راوی) کی طرف سے کبھی ایسی صورت حال نہیں پائی کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی طرف جھوٹی بات منسوب کی ہو۔

۳۴۹۹۔ سلیمان بن عیسیٰ بن کحج سجری

اس نے ابن عون اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں یہ ہلاکت کا شکار ہونے والا ہے جو زبانی کہتے ہیں: یہ صریح طور پر کذاب ہے، امام ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ کذاب ہے۔
 ابن عدی کہتے ہیں: یہ احادیث ایجاد کرتا تھا، اس کے حوالے سے، عقل کی فضیلت کے بارے میں، دو اجزاء پر مشتمل، ایک کتاب منقول ہے۔

اس کی نقل کردہ مصیبتوں میں سے ایک وہ روایت ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

ان الله امرني بحب اربعة: ابي بكر، عمر، عثمان، علي.

”بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھے چار آدمیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی“

اسی کے حوالے سے یہ روایت بھی منقول ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نقل کی ہے:

من تبنى الغلاء على امتي ليلة احبط الله عمله اربعين سنة.

”جو میری امت پر ایک رات کے لیے مصنوعی گرانی پیدا کرنے کی آرزو کرے، اللہ تعالیٰ اس کے چالیس سال کے عمل کو صانع کر دے گا“

اسی کے حوالے سے یہ روایت بھی منقول ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

اذا اتت على امته ثلاثمائة وثمانون سنة فقد حلت لهم العزبة والترهب على رءوس الجبال.

”جب میری امت پر 380 (بجری کا زمانہ) آجائے تو ان کے لیے مجرد رہنا اور پہاڑوں پر رہبانیت اختیار کرنا

جائے گا“

خطیب کہتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

استرشدوا العاقل ترشدوا، ولا تعصوه تندموا

”عقل مند شخص سے رہنمائی حاصل کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے اور اس کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ ندامت کا شکار ہو گے“
یہ ”صحیح“ نہیں ہے۔

۳۵۰۰- سلیمان بن فروخ

اس کا ذکر ”سلمان“ کے نام کے تحت گزر چکا ہے۔

۳۵۰۱- سلیمان بن فضل

اس نے ابن مبارک اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں ابن عدی کہتے ہیں: میں نے اس کے حوالے سے منقول ایسی روایت دیکھی ہے، جو ”منکر“ نہیں ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من حسن عبادة المرء حسن ظنه

”آدمی کی عبادت کے حسن میں یہ بات بھی شامل ہے، کہ اس کا گمان اچھا ہو“

ابن عدی کہتے ہیں: اس سند کے ساتھ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

۳۵۰۲- سلیمان بن قرم (د، ت، س، م) ابوداؤد ضعیفی کوفی

اس نے ثابت، أمش اور ان کے طبقے کے افراد سے روایات نقل کی ہیں ایک قول کے مطابق اس کا نام سلیمان بن

معاذ ہے تو اس کی نسبت اس کے دادا کی طرف کردی گئی ہے کیونکہ یہ سلیمان بن قرم بن معاذ کوفی ہے۔

جہاں تک سلیمان بن قرم ابومعاذ بصری کا تعلق ہے تو اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

جہاں تک اس کا تعلق ہے تو عباس و عثمان نے یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے عباس

کے الفاظ یہ ہیں: یہ ضعیف ہے امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ متین نہیں ہے امام احمد رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے: یہ ”ثقة“ ہے یہ بات عبداللہ بن احمد نے اپنے والد سے نقل کی ہے۔

امام ابن حبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ عالی رافضی ہے، اس کے ہمراہ یہ روایات کوالٹ پلٹ دیتا ہے امام نسائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ

”قوی“ نہیں ہے ابو بکر بن عیاش، سلیمان بن قرم کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے عبداللہ بن حسن سے کہا: کیا ہمارے

اہل قبلہ میں کفار ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! روانض

شقیق بیان کرتے ہیں: میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سلیمان کے پاس گیا، تو وہ بولے: اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکلف

سے منع نہ کیا ہوتا، تو میں تمہارے لیے تکلف کرتا۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

كان الحكم ابن ابوالعاص يجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقل حديثه الى قريش، فلعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يخرج من صلبه الى يوم القيامة.

”دھکم بن ابوالعاص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاعات قریش تک پہنچاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اور قیامت تک آنے والی اس کی اولاد پر لعنت کی“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

طلب العلم فريضة على كل مسلم

”علم حاصل کرنا، ہر مسلمان پر فرض ہے“

یہ روایت حسان بن سیاہ نے ثابت کے حوالے سے نقل کی ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

لا يسأل بوجه الله الا الجنة.

”اللہ تعالیٰ کی ذات کے واسطے سے صرف جنت مانگی جاسکتی ہے“

احمد بن عمرو رضی اللہ عنہ نے سلیمان بن قرم اور سلیمان بن معاذ کو دو الگ افراد قرار دے کر ان دونوں کا الگ، الگ ذکر کیا ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سلیمان بن قرم اور سلیمان بن معاذ کو دو الگ افراد قرار دے کر ان دونوں کا الگ، الگ ذکر کیا ہے۔
امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ دونوں ایک ہیں، یہ سلیمان بن قرم ہے، جس نے ثابت کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

طلب العلم فريضة على كل مسلم

”علم حاصل کرنا، ہر مسلمان پر فرض ہے“

حسان بن سیاہ نے یہ روایت ثابت سے نقل کی ہے، جب کہ یعقوب رضی اللہ عنہ نے سلیمان بن معاذ کے حوالے سے نقل کی ہے، جو سلیمان بن قرم کے علاوہ ہے کیونکہ یہ سلیمان بن قرم بن معاذ ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: سلیمان بن قرم کی نقل کردہ روایات حسن ہوتی ہیں، اور یہ سلیمان بن قرم سے کہیں زیادہ بہتر ہے؛ جب کہ ابن عدی اور دیگر حضرات نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

۳۵۰۳۔ (صح) سلیمان بن کثیر رضی اللہ عنہ بصری

اس نے زہری سے اور اس سے اس کے بھائی محمد بن کثیر اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ

ضعیف ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ زہری (سے نقل کردہ، اس کی روایات محل نظر ہیں) امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی حدیث کو نوٹ کیا جائے گا، عقلی کہتے ہیں: یہ مضطرب الحدیث ہے۔ انہوں نے اس کے حوالے سے دو صحاح روایات نقل کی ہیں: جو حصین کے حوالے سے، حمید طویل سے منقول ہیں۔ اس نے عمرو بن دینار سے بھی روایات نقل کی ہیں اور اس سے ابن مہدی، عفان اور ایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔ ابن عدی نے اس کے حوالے سے تین غریب روایات نقل کی ہیں، اور یہ کہا ہے: اس نے جو روایت کیا ہے، اتنی مقدار میں کوئی حرج نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں: لوگوں نے اس کے حوالے سے چھ دیوانوں (یعنی صحاح ستہ) میں روایات نقل کی ہیں۔ اس کا انتقال 163 ہجری میں ہوا۔

۳۵۰۴- سلیمان بن کران البوداؤد و دطفایوی بصری

اس نے مبارک بن فضالہ اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، محمد بن عثمان بن ابوسید اس سے روایت نقل کرنے والا آخری شخص ہے۔

ابن عدی نے اس کے حوالے سے ایک منکر حدیث نقل کی ہے، عقلی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ حدیث وہم غالب ہے، پھر عقلی نے ابراہیم بن محمد اور محمد بن زنجویہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے یہ دونوں حضرات یہ بیان کرتے ہیں: سلیمان نے ہمیں حدیث بیان کی، اس کے بعد عقلی نے دو روایات نقل کی ہیں۔

عبدالحق اپنی کتاب ”الاحکام الکبریٰ“ میں مسواک کے بیان میں یہ بات تحریر کرتے ہیں: یہ ابن کران ہے، وہ کہتے ہیں: یہ بصرہ کا رہنے والا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

میں یہ کہتا ہوں یہ اسی طرح نون کے ساتھ ہے اور عقلی نے اپنی کتاب الضعفاء میں یہی ذکر کیا ہے اور یہ منفرد نسخہ ہے۔ تاہم بعض حضرات نے اس کا نام کراز نقل کیا ہے، ابوالحسن بن قتان کہتے ہیں: یہ درست ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

بزار کہتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما لکم تدخلون علی قلحہا، استاکوا

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا وجہ ہے کہ تم لوگ کے دانتوں پر زردی ہے تم لوگ مسواک کیا کرو، پھر انہوں نے یہ بات بیان کی کہ ابوعلی نامی اس شخص کی شناخت نہیں ہو سکی۔

یہ روایت فضیل بن عیاض نے منصور کے حوالے سے نقل کی ہے تو سلیمان کی اس سے خلاصی ہو جائے گی۔

۳۵۰۵- سلیمان بن ابوکریہ شامی

اس نے ہشام بن عروہ، ہشام بن حسان، ابو قرہ، خالد بن میمون سے، جب کہ اس سے صدقہ بن عبد اللہ، عمرو بن ہاشم

بیروٹی، محمد بن مخلدر یعنی نے روایات نقل کی ہیں۔

ابوحاتم نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے ابن عدی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ زیادہ تر روایات منکر ہیں، میں نے اس کے بارے میں متقدمین کا کوئی کلام نہیں دیکھا ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: لكل امة يهود ويهود امتي المبرجة.
”نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: ہر امت کے یہودی ہوتے ہیں اور اس امت کے یہودی ”مرجہ“ فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

قلت: يا رسول الله، اخبرني عن قوله حور عين. قال: بيض ضخام العيون.
”میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں بتائے ”حورین“، تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ بڑی اور سفید آنکھوں والی ہوں گی“
یہ روایت صرف اس سند کے ساتھ منقول ہے۔

۳۵۰۶۔ سلیمان بن محمد بن یحییٰ

اس نے عروہ بن زبیر اسدی کے حوالے سے عبد اللہ بن عبد العزیز لیش سے روایات نقل کی ہیں اور اس سے محمد بن مغیرہ مخزومی نے روایات نقل کی ہیں اس کی شناخت نہیں ہو سکی، اس نے ایک ”مرسل“ بلکہ ”معطل“ روایت نقل کی ہے (جس کے الفاظ درج ذیل ہیں):

يا علي قدم الضعيف على القوي - يعني في الحكم
”اے علی! کمزور کو طاقتور پر مقدم رکھو (راوی کہتے ہیں: یعنی فیصلہ کرتے ہوئے ایسا کرو)“

۳۵۰۷۔ سلیمان بن محمد قافلانی

یہ سلیمان بن ابوسلیمان ہے، جس کا ذکر گزر چکا ہے، اور وہ سلیمان ابوریح ہے۔

۳۵۰۸۔ سلیمان بن محمد بن فضل نہروانی، ابومنصور

اس نے محمد بن ابوسری عسقلانی اور ایک جماعت سے، جب کہ اس سے ابن قانع اور ابوبکر شافعی نے روایات نقل کی ہیں۔
امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے اس کا انتقال 287 ہجری میں ہوا۔

۳۵۰۹۔ سلیمان بن محمد ہاشمی

اس نے شریک سے روایات نقل کی ہیں اس کی شناخت نہیں ہو سکی، حسین بن ابوسری نے اس کے حوالے سے ایک روایت

نقل کی ہے، جس میں غلطی پائی جاتی ہے۔

۳۵۱۰- سلیمان بن محمد بن حیان موصلی۔

ازدی نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے: اس نے یحییٰ بن عبداللہ سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۵۱۱- سلیمان بن مرشد

اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، اس کا ان دونوں سے سماع پتا نہیں چل سکا، اس سے صرف ابوالتیاح نے روایت نقل کی ہے۔

۳۵۱۲- سلیمان بن مرقاع جندی

اس نے مجاہد سے روایات نقل کی ہیں، عقیلی کہتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے، محمد بن عبدالرحمن جدعان نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۵۱۳- سلیمان بن مساحق مدنی

اس نے نافع سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

۳۵۱۴- سلیمان بن مسافع ججی۔

اس نے منصور بن صفیہ سے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت نہیں ہو سکی، اس نے ایک منکر روایت نقل کی ہے۔

۳۵۱۵- سلیمان بن مسلم

یہ ثابت بنانی کی مسجد کا موزن تھا، عقیلی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت کی متابعت نہیں کی گئی اور وہ روایت صرف اس کے حوالے سے منقول ہے، جو روایت اس نے ثابت کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے:

بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التامہ یوم القیامۃ۔

”تاریکی میں پیدل چل کر مسجد کی طرف آنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو“۔

۳۵۱۶- سلیمان بن مسلم خشاب

اس نے سلیمان تمیمی سے روایات نقل کی ہیں

امام ابن حبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس سے روایت نقل کرنا جائز نہیں ہے، البتہ ثانوی شواہد کے طور پر نقل کی جاسکتی ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: یہ بصری اور ایک قول کے مطابق کوئی ہے، پھر انہوں نے اس کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے،

جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نقل کی ہے:

الطابع معلق بالعرش، فان انتهكت الحرمة وعمل بالمعاصي، اجترء على الدين، بعث الله بالطابع، طبع على قلوبهم فلا يعقلون بعد ذلك شيئاً.

”مہر لگانے والا“ عرش کے ساتھ معلق ہے، جب کوئی حرمت پامال ہوتی ہے، یا گناہ پر عمل کیا جاتا ہے تو ایسا شخص دین کے خلاف جرات کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہر لگانے والے کو بھیجتا ہے جو ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے پھر اس کے بعد انہیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی۔“

اس سند کے ساتھ یہ بھی منقول ہے:

لا يخرج من النار من دخلها حتى يمكثوا فيها احقبا، الحقب بضع وثمانون سنة، كل سنة ثلاثائة وستون يوماً، اليوم الف سنة مما تعدون.

”جو شخص جہنم میں داخل ہو جائے گا، وہ اس میں سے اس وقت تک نہیں نکلے گا، جب تک اس میں ”احقبا“ تک نہیں رہے گا“ اور ایک ”قہب“ 80 سے زیادہ سال کا ہوتا ہے، جس میں سے ہر ایک سال کے 360 دن ہوتے ہیں اور ایک دن تمہارے حساب سے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا۔“

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: میری تحقیق کے حوالے سے یہ دونوں روایات ”موضوع“ ہیں۔

۳۵۱۷- سلیمان بن معاذ

یہ سلیمان بن قرم ہے، جس کا ذکر گزر چکا ہے، معاذ اس کا دادا ہے۔

۳۵۱۸- سلیمان بن معافی بن سلیمان رستی

ابن عدی کہتے ہیں: اس نے اپنے والد سے کوئی چیز نہیں سنی ہے، تو لوگوں نے اسے اس صورت حال پر محمول کیا ہے کہ اس نے ان سے روایت نقل کی ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے والد سے ”وجادۃ“ کے طور پر روایات نقل کی ہوں۔

۳۵۱۹- سلیمان بن مہران مدائنی ضریر

عبداللہ بن روح مدائنی بیان کرتے ہیں: اس نے 240 ہجری میں ہمارے سامنے اپنی سند کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول یہ حدیث بیان کی:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل باب منهم جزء مقسوم - قال: جزء اشركوا بالله، جزء شكوا في الله، جزء غفلوا عن الله.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: (ارشاد باری تعالیٰ ہے:) ”ان میں سے ہر ایک دروازے پر متعین حصے ہیں“

نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں: ان میں سے ایک حصہ ان کے لیے ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا، ایک حصہ ان کے لیے ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایتیں کیں، اور ایک حصہ ان لوگوں کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ سے غافل رہے۔
یہ انتہائی ”منکر“ ہے۔

۳۵۲۰۔ (صح) سلیمان بن مہران (ع) کا ہلی کونی اعمش

اس کی کنیت ابو محمد ہے، یہ ثقہ ائمہ میں سے ایک ہے، ان کا شمار کم سن تابعین میں ہوتا ہے اس پر صرف یہ اعتراض ہے کہ یہ تدلیس کیا کرتا تھا۔

جو زجانی کہتے ہیں: وہب بن زعمہ مروزی بیان کرتے ہیں: میں نے عبد اللہ بن مبارک کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: اہل کوفہ کی حدیث کو ابواسحاق اور اعمش نے تمہارے لیے خراب کیا ہے۔

جریر بن عبد الحمید بیان کرتے ہیں: میں نے مغیرہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: اہل کوفہ میں ابواسحاق اور اعمش نامی یہ شخص سب سے زیادہ ہلاکت کا شکار ہونے والے ہیں، شاید ان کی مراد یہ تھی کہ وہ لوگ جو روایت نقل کرتے ہیں (ان میں سب سے زیادہ ہلاکت کا شکار ہونے والے ہیں) ورنہ اعمش ایک عادل، سچے اور مثبت شخص ہیں، جو سنت اور قرآن کے عالم تھے اور ان لوگوں نے ان کے بارے میں اچھا گمان رکھا ہے، جنہیں انہوں نے حدیث بیان کی اور جنہوں نے ان سے روایات نقل کیں۔ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کر یہ کہیں کہ ایسے شخص کو ضعیف قرار دیا جائے جو تدلیس کرتا ہے، چونکہ یہ حرام ہے۔

علی بن سعید نسوی بیان کرتے ہیں: میں نے احمد بن حنبل کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: منصور، اہل کوفہ میں سے سب سے زیادہ مثبت ہیں، جب کہ اعمش کی روایت میں بہت زیادہ اضطراب پایا جاتا ہے۔

اعمش نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جو روایات نقل کی ہیں وہ منقطع ہیں، کیونکہ اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سماع نہیں کیا، بلکہ اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کی تھی، حافظ ابو نعیم کہتے ہیں: اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے اور ان دونوں سے احادیث کا سماع کیا ہے۔

بزار کہتے ہیں: اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سماع کیا ہے، پھر انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں اس کے ان سے سماع کا ذکر ہے۔

امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس کا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کرنا ضعیف ہے۔

(امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ تدلیس کرتا تھا اور بعض اوقات کسی ضعیف راوی کے حوالے سے تدلیس کر دیتا تھا، لیکن اسے اس کا پتا نہیں چلتا تھا، تو جب یہ کہتے کہ اس نے ہمیں حدیث بیان کی، تو اس بارے میں کوئی کلام نہیں ہوگا، لیکن جب یہ کہے: کہ فلاں سے منقول ہے تو اس میں تدلیس کا احتمال موجود ہوگا، البتہ ان شیوخ کا معاملہ مختلف ہوگا، جن

سے اس نے زیادہ تر روایات نقل کی ہیں، جیسے ابراہیم، ابن ابی وائل، ابوصالح سمان کیونکہ اس نوعیت کے مشائخ سے اس کا روایت نقل کرنا متصل سند پر محمول ہوگا۔

ابن مدینی کہتے ہیں: اعمش احادیث میں بکثرت وہم کا شکار ہوتا تھا، جو ان ضعیف لوگوں سے منقول ہیں اس کا انتقال 148 ہجری میں ہوا۔

۳۵۲۱- سلیمان بن موسیٰ (اسدی) اشدق، ابویوب دشتی

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس نے عطاء اور عمرو بن شعیب سے سماع کیا ہے اس کے حوالے سے منکر روایات منقول ہیں، عثمان بن سعید نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: سلیمان بن موسیٰ جس نے زہری کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں وہ ثقہ ہے۔ امام ابوحاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کا مقام صدق ہے البتہ اس کی نقل کردہ احادیث میں کچھ اضطراب پایا جاتا ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”قوی“ نہیں ہے ابن عدی کہتے ہیں: میرے نزدیک یہ ثبت اور ”صدوق“ ہے۔

سعید بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں: اگر یہ دریافت کیا جائے کہ سب سے افضل شخص کون ہے؟ تو میں سلیمان موسیٰ کا ہاتھ پکڑ لوں گا۔ ابومسہر بیان کرتے ہیں: سعید نے ہمیں یہ بات بیان کی: سلیمان بن موسیٰ نے ہمارے سامنے ایک صحیفے میں سے احادیث بیان کیں جنہیں انہوں نے یاد کیا تھا تو انہوں نے اس پر حیرانگی کا اظہار کیا، تو کمحول نے ان سے کہا: کیا تم حیران ہو رہے ہو؟ میں نے جو بھی چیز سنی وہ اپنی یادداشت میں رکھوائی، تو جب میں نے چاہا اسے پالیا۔

دجیم یہ کہتے ہیں: یہ کمحول کے شاگردوں میں مقدم حیثیت کے مالک ہیں عباس کہتے ہیں: میں نے یحییٰ بن معین سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا: ”ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا“، کیا اسے ابن جریج نے روایت کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: اس بارے میں صرف سلیمان بن موسیٰ کی نقل کردہ روایت مستند ہے۔

احمد بن ابویحییٰ کہتے ہیں: میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: یہ روایت ”چھپنے لگانے والے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے“، اور یہ روایت ”ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا“ یہ ایسی احادیث ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں اور میرا بھی یہی موقف ہے۔

ابن مبارک نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے نقل کی ہے:

المبضضة والاستنشاق من الوضوء (الذی) لا بد منه.

”کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا وضو کا ایسا حصہ ہے جو ضروری ہے“

یہ حدیث کہ ”ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا“، یہ روایت ایک جماعت نے ابن جریج کے حوالے سے ان کی سند کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ایما امرأة نکحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، لها مهرها بما اصاب منها، فان

اشتجروا فالسلطان ولی من لا ولی له.

”جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو مرد نے اس کے ساتھ جو صحبت کی ہے اس کی وجہ سے اسے اس کا مہر ملے گا اولیاء کے درمیان اختلاف ہو جائے تو حاکم وقت اس کا ولی ہوتا ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔“
روایت کے یہ الفاظ عیسیٰ بن یونس کے نقل کردہ ہیں جو انہوں نے ابن جریج سے نقل کی ہے۔

لانکاح الا بولی وشاہدی عدل

”ولی اور دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا“

ابن عدی کہتے ہیں: یہ روایت سلیمان بن موسیٰ کے ہمراہ حجاج بن ارطاة، یزید بن ابی حسیب، قرہ بن حیویل، ایوب بن موسیٰ، سفیان بن عیینہ، ابراہیم بن سعد (نامی) راویوں نے نقل کی ہے۔ اس کے تمام طرق غریب ہیں البتہ حجاج سے منقول روایت کا معاملہ مختلف ہے، کیونکہ اس کی سند مشہور ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: سلیمان اپنے زمانے میں اہل شام کے فقیہ تھے یہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے ہیں اور یہ غریب روایات جو ان کے حوالے سے منقول ہیں، جنہیں منکر قرار دیا جا رہا ہے انہیں روایت کرنا جائز ہے۔
امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں: اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

من اعتق عبدا له فيه شركاء فهو حر، يضمن نصيب شركائه لما اساء من مشاركتهم.

”جو شخص کسی ایسے غلام کو آزاد کر دے جس میں اس کے دوسرے شراکت دار بھی ہوں تو وہ غلام آزاد شمار ہوگا اور وہ شخص اپنے شراکت داروں کو تاوان ادا کرے گا، کیونکہ اس نے ان کے ساتھ اپنی شراکت داری میں خرابی پیدا کی ہے۔“
اس کے حوالے سے وہ روایت منقول ہے جو نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے اور وہ زمارۃ الراعی (ایک قسم کی نباتات) کے بارے میں ہے۔

۳۵۲۲- سلیمان بن موسیٰ (د) زہری کو فی.

اس نے دمشق میں رہائش اختیار کی تھی اس نے مظاہر بن اسلم سے روایات نقل کی ہیں یہ کم درجے کا ”صالح الحدیث“ ہے، عقلی نے اس کا تذکرہ کیا ہے تاہم بظاہر یہ منکر الحدیث ہے۔

اس کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے جو اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عشر آيات من اول آل عمران كل ليلة

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ آل عمران کی ابتدائی دس آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔“

یہ روایت ہشام بن عمار نے اس کے حوالے سے نقل کی ہے اس کے علاوہ یحییٰ بن حسان تلمیسی، مروان طاہری نے بھی اس سے روایات نقل کی ہیں اور یہ کہا ہے: یہ ثقہ ہے۔

اس نے جعفر بن سعد سمری، موسیٰ بن عبیدہ سے احادیث روایت کی ہیں۔
امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس کا مقام ”صدق“ ہے اور یہ ”صالح الحدیث“ ہے، ابن حبان رضی اللہ عنہ نے اس کا تذکرہ کتاب
”الثقات“ میں کیا ہے۔

۳۵۲۳۔ سلیمان بن موسیٰ کوئی، ابوداؤد

اس نے دہم کے حوالے سے ایک منکر روایت نقل کی ہے اور اس سے ولید بن مسلم نے روایت نقل کی ہے، پھر یہ وہی شخص ہوگا
جس کا ذکر اس سے پہلے ہوا ہے اس کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ سیدہ
عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے نقل کی ہے:

یعدل صومه بصوم الف يوم - یعنی عرفة

”اس دن روزہ رکھنا ایک ہزار دن تک روزے رکھنے کے برابر ہے“

راوی کہتے ہیں: یعنی عرفہ کے دن روزہ (رکھنا)۔

۳۵۲۴۔ سلیمان بن نافع عبیدی

اسحاق بن راہویہ نے ”حلب“ میں اس سے ملاقات کی تھی جیسا کہ ابوالقاسم نے یہ روایت نقل کی ہے، انہوں نے اپنی ”سند“
کے ساتھ سلیمان کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے: وہ کہتے ہیں: میرے والد نے یہ بات بیان کی ہے:

وفد المنذر بن ساوی من البحرين، حتی اتی مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، معه اناس، انا غليبه
امسك جبالهم، فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وضع المنذر سلاحه، لبس ثيابا، مسح لحيته
بدهن، انا مع الجمال انظر الى نبي الله صلى الله عليه وسلم (فكأنني انظر الى النبي صلى الله عليه
وسلم) كما انظر اليك.

”منذر بن ساوی، بحرین سے ایک وفد کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے، ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے (وہ کہتے
ہیں) میں ان دنوں کم سن لڑکا تھا، تو میں ان کے اونٹوں کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں سلام پیش کیا، منذر نے اپنے ہتھیار اتارے، عمدہ لباس پہنا، اپنی داڑھی پر تیل لگایا، وہ کہتے ہیں: میں ان کے اونٹوں کے
رکھوالوں کے ہمراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا منظر گویا آج بھی میری نگاہ میں
ہے، جس طرح میں اس وقت تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں۔“

وہ (سلیمان) بیان کرتے ہیں: اس کے والد کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا، موسیٰ کہتے ہیں: اسحاق بن راہویہ کے پاس اس

سے زیادہ اعلیٰ سند والی کوئی سند نہیں ہے۔

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس قول کی بنیاد پر اگر یہ درست مان لیا جائے، تو پھر نافع کا زمانہ ہشام کی

حکومت تک ہوگا، جب کہ سلیمان نامی راوی غیر معروف ہے۔

۳۵۲۵- سلیمان بن وہب انصاری

اس نے صخر بن جویریہ سے روایات نقل کی ہیں اس نے ایک روایت کو ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کیا ہے، حالانکہ درست یہ ہے کہ وہ روایت ”موقوف“ ہے۔

۳۵۲۶- سلیمان بن ہرم

اس نے محمد بن منکدر سے روایات نقل کی ہیں، از دی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت درست نہیں ہے۔
عقیلی کہتے ہیں: یہ مجہول ہے اور اس کی نقل کردہ حدیث غیر معروف ہے۔
یحییٰ بن عثمان نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے: عبد الرحمن بن ابو جعفر نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے: انہوں نے لیث بن سعد کو خط میں لکھا کہ سلیمان بن ہرم قرشی نے ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے۔
(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ روایت امام حاکم نے ”مستدرک“ میں یحییٰ بن بکیر کے حوالے سے لیث کے حوالے سے سلیمان بن حرم سے نقل کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے اس کی چند دیگر اسناد بھی ذکر کی ہیں، راوی بیان کرتے ہیں: حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی ہے:

خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: خرج من عندي خليلي جبرائيل فقال: يا محمد ان عبد الله عبد الله خمسائة سنة على راس جبل عرضه وطوله ثلاثون ذراعا في ثلاثين ذراعا، البحر محيط به اربعة آلاف فرسخ من كل ناحية اخرج الله له عينا بعرض الاصبع، شجرة رمان تخرج كل ليلة رمانة، فاذا امسى نزل فتوضا، اخذ تلك الرمانة فاكلها، ثم قام لصلاته، فسأل ربه عند وقت انزل ان يقبضه ساجدا والا يجعل للارض ولا لشيء يفسده عليه سبيلا حتى يبعثه الله وهو ساجد ففعل، فنحن نمر عليه اذا هبطنا فنجد في العلم انه يبعث فيوقف بين يدي الله فيقول: ادخلوا عبدى الجنة برحمتي، فنعم العبد كنت، فيقول: بل بعلى. فيقول الله لبلانكته: قايسوا عبدى بنعمتي عليه وبعلمه، فيجدوا نعمة البصر قد احاطت بعبادة خمسائة سنة وبقيت نعمة الجسد له فيقول: ادخلوا عبدى النار. فيجر الى النار فينادى: رب برحمتك ادخلني الجنة، فيقول: ردوا عبدى، فيوقف فيقول: يا عبدى من خلقك ولم تك شيئا، فيقول: انت ربي.

فيقول: من انزلك في جبل وسط اللجة فاخرج لك الباء العذب من الباء الملح، اخرج لك كل ليلة رمانة، انما تخرج في السنة مرة، سألته ان يقبضك ساجدا ففعل؟ فيقول: انت. قال: فذلك برحمتي، برحمتي ادخلك الجنة. ادخلوا عبدى الجنة. فنعم العبد كنت يا عبدى. فادخله الله الجنة. قال: انما

الاشیاء برحمتہ یا محمد

”ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ابھی میرے پاس سے میرے دوست جبرائیل گئے ہیں انہوں نے کہا ہے: اے حضرت محمد ﷺ! اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ پانچ سال تک کسی پہاڑ کی چوٹی پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے جو پہاڑ کی چوٹی تیس گز لمبی اور تیس گز چوڑی ہو اور اس کے ارد گرد چار ہزار فرسخ ہر طرف سمندر موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے انگلی کی چوڑائی سے ایک چشمہ نکال دے گا جس سے میٹھا پانی ٹپکے گا اور ایک پہاڑ کی جڑ میں جمع ہوگا اور اس کے لیے اناروں کا ایک ایسا درخت پیدا کر دے گا جس سے ہر رات ایک انار نکلا کرے گا جب شام ہوگی وہ نیچے اترے گا اور وضو کرے گا تو اس انار کو لے کر اسے کھالے گا پھر نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور جب اس کا آخری وقت قریب آئے تو وہ اپنے پروردگار سے یہ دعا کرے کہ وہ سجدے کی حالت میں اس کی روح کو قبض کرے اور وہ زمین کے لیے اور کسی چیز کے لیے یہ صورت نہ رکھے کہ وہ اس کے جسم کو خراب کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے سجدے کی حالت میں ہی دوبارہ زندہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے۔

(حضرت جبرائیل علیہ السلام بیان کرتے ہیں) ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا ایک مرتبہ ہم وہاں سے گزرے جب ہم نے اسے دیکھا تو ہم نے علم میں یہ بات پائی کہ جب اسے زندہ کیا جائے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میرے بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دو یہ اچھا بندہ تھا تو وہ بندہ کہے گا: بلکہ میرے عمل کی وجہ سے (میں جنت میں جاؤں گا) تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا: میں نے اپنے بندے پر جو نعمتیں کی تھیں ان کا اس کے عمل کے ساتھ موازنہ کرو تو فرشتے یہ پائیں گے کہ صرف دیکھنے کی نعمت نے اس کے پانچ سو سال کی عبادت کو گھیر لیا ہے تو باقی جسم کی نعمتیں ابھی باقی رہ گئی ہیں۔

تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میرے بندے کو جہنم میں داخل کر دو اسے جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا تو وہ بلند آواز میں پکارے گا: اے میرے پروردگار! اپنی رحمت کے ذریعے مجھے جنت میں داخل کر دے تو پروردگار فرمائے گا: میرے بندے کو واپس لے کے آؤ اسے کھڑا کیا جائے گا تو پروردگار فرمائے گا: اے میرے بندے تمہیں کس نے پیدا کیا جب کہ تم کچھ نہیں تھے؟ تو بندہ عرض کرے گا: اے میرے پروردگار تو نے پروردگار تو نے پروردگار دریاخت کرے گا: تمہیں ایک سمندر کے درمیان میں ایک پہاڑ پر رہنے کا موقع کس نے دیا؟ تمہارے لیے نمکین پانی کے درمیان میٹھا پانی کس نے نکالا اور وہ درخت جو سال میں ایک مرتبہ اپنا پھل نکالتا ہے وہ تمہارے لیے روزانہ رات کے وقت ایک انار کیسے نکالتا تھا؟ تم نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ تمہیں سجدے کی حالت میں موت دی جائے تو ایسا بھی ہو گیا (یہ سب کس نے کیا؟) تو بندہ عرض کرے گا: تو نے تو پروردگار فرمائے گا: یہ میری رحمت ہے اور اپنی رحمت کے ذریعے ہی میں تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ اے بندے تو اچھا بندہ تھا تو اس اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا حضرت جبرائیل نے فرمایا: اے حضرت محمد! اشیاء (یعنی امور) اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب ہی (انجام دیے جاتے ہیں)“

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ روایت درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے: ”تم لوگ جو عمل کرتے رہے ہو اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ“

تاہم کسی بھی شخص کا عمل اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات نہیں دلا سکے گا، جیسا کہ مستند طور پر یہ بات ثابت ہے، البتہ یہ ہے کہ ہمارے نیک اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے ہم پر فضل کا اور اس کی نعمت کا نتیجہ ہیں اور ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے پر بھی حمد اسی کے لیے مخصوص ہیں۔

۳۵۲۷- سلیمان بن یزید، ابو ثنی عمی خزاعی۔

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے، یہ ”قوی“ نہیں ہے، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے، یہ بات ابن جوزی نے بیان کی ہے۔

۳۵۲۸- سلیمان بن یسیر (ق)۔

اور ایک قول کے مطابق ابن اسیر اور ایک قول کے مطابق ابن قسیم اور ایک قول کے مطابق ابن بشر، ابوصباح نخعی کوئی ہے۔ اس نے ابراہیم نخعی اور حکم سے جب کہ اس سے شعبہ نے روایات نقل کی ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے، عباس نے یحییٰ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے، یہ ابراہیم نخعی کا غلام ہے۔

ابن ثنی بیان کرتے ہیں: میں نے یحییٰ یا عبدالرحمن کو سفیان کے حوالے اس سے کوئی روایت نقل کرتے ہوئے نہیں سنا ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: محدثین کے نزدیک یہ قوی نہیں ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النسخ للمسافر ثلاثة ايام ولياليها وللمقيم يوم وليلة.

”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں: مسافر کے لیے مسح کی اجازت

تین دن اور تین راتوں تک ہے اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات تک ہے“

یہ روایت ابو نعیم نے اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے، مانتہ بیان کرتے ہیں:

قال عبد اللہ: کنا نسح علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فی الحضر يوم وليلة، فی السفر ثلاثة ايام ولياليها.

”حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہم لوگ مقیم ہونے کے دوران ایک دن اور ایک رات تک، اور سفر کے دوران تین دن اور تین راتوں تک (موزوں پر) مسح کیا کرتے تھے۔“

۳۵۲۹- سلیمان بصری

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۵۳۰- سلیمان

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے غلام سے روایات نقل کی ہیں

۳۵۳۱- سلیمان عبدی

اس نے شیخ سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۵۳۲- سلیمان، ابو حبیب

اس نے ابوالجحد سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۵۳۳- سلیمان

اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں۔

(سلیمان نامی یہ سابقہ پانچ راوی) مجہول ہیں۔

۳۵۳۴- سلیمان، ابو صلہ عطار واسطی

یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”ثقہ“ نہیں ہے۔

۳۵۳۵- سلیمان منہبی (د)

اس نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بچوں کے لیے چاندی کے دو کڑے بنوائے تھے اس سے روایت نقل کرنے میں حمید شامی راوی منفرد ہے۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں: میں ان دونوں سے واقف نہیں ہوں۔

۳۵۳۶- سلیمان مولیٰ حسن بن علی (س)۔

ثابت بنانی کے علاوہ کسی نے اس سے روایت نقل نہیں کی ہے اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بارے میں روایت منقول ہے۔ امام نسائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: سلیمان نامی یہ راوی مشہور نہیں ہے۔

۳۵۳۷- سلیمان مولیٰ ابو عثمان نجیبی

اس نے حاتم بن عدی سے روایت نقل کی ہیں! ابن عدی نے اس کا تذکرہ مختصر طور پر کیا ہے اور یہ پتا نہیں چل سکا کہ یہ کون ہے؟

۳۵۳۸- سلیمان خوزی

اس نے ابوبہاشم سے احادیث کا سماع کیا ہے، عقیلی نے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے: اس کی نقل کردہ حدیث کی متابعت نہیں کی گئی، عبید اللہ بن موسیٰ نے اس سے وہ روایت نقل کی ہے۔

(سلیم)

۳۵۳۹- سلیم بن بلج

اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں۔

اس سے اس کے بیٹے ابو بلج یحییٰ فزاری نے روایات نقل کی ہیں اس کے والد کا نام ابو بلج ہونے کے بارے میں اختلاف ہے اس کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خصائص کے بارے میں صرف ایک روایت منقول ہے۔

۳۵۴۰- سلیم بن عثمان فوزی، ابو عثمان حمصی۔

اس نے محمد بن زیاد البہانی سے روایات نقل کی ہیں۔، یہ ”ثقة“ نہیں ہے۔

ابن جو صابیان کرتے ہیں: میں نے امام ابو زرہ رضی اللہ عنہ سے سلیم بن عثمان کی نقل کردہ ان روایات کے بارے میں دریافت کیا جو اس نے ابن زیاد سے نقل کی ہیں میں نے ان کے سامنے وہ روایات پیش بھی کیں تو انہوں نے ان روایات کو منکر قرار دیا اور بولے: اس کی نقل کردہ روایت ثقہ راویوں کی احادیث کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی ہے میں نے ابن عوف سے ان روایات کے بارے میں دریافت کیا، تو وہ بولے: یہ ایک نیک بزرگ تھا، البتہ یہ اپنے حافظے کی بناء پر روایات بیان کرتا تھا، تو لوگ انہیں نوٹ کر لیا کرتے تھے میں نے دریافت کیا: تو کیا آپ اس پر الزام عائد کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا: جی نہیں۔

ابو حمید بن یسار نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے، محمد بن زیاد بیان کرتے ہیں:

جلست خلف ابوامامة وهو يركع، فقلت: حدثني بحديث الشفاعة. قال: نعم يا ابن اخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يشفعني ربي يوم القيامة في امتي سبعين الفاً مع كل الف سبعون الفاً وثلاث حثيات من حثيات ربي.

ایک مرتبہ میں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، وہ اس وقت نوافل ادا کر رہے تھے (ان کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد) میں نے دریافت کیا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شفاعت سے متعلق احادیث سنائیے، تو انہوں نے فرمایا: اے میرے بھتیجے! ٹھیک ہے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”قیامت کے دن میرا پروردگار میری امت کے ستر ہزار افراد کے بارے میں میری شفاعت قبول کرے گا جن میں سے ہر ایک کے ہمراہ ستر ہزار ہوں گے اس کے علاوہ میرے پروردگار کے تین لپ (یعنی دونوں ہتھیلیاں ملا کر جو لپ بنایا جاتا ہے) ہوں گے۔

ابن عدی بیان کرتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

من قرا خواتیم الحشر فبات من يومه او ليلته فقد اوجب الجنة.
”جو شخص سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کرے گا، اگر وہ اس دن میں یا اس رات میں فوت ہو جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔“

یہ روایت ابن عوف، ابو حمید عوفی اور دیگر حضرات نے اس سے نقل کی ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:
من قال الحمد لله مائة مرة كانت له مثل مائة فرس ملجبة في سبيل الله. ومن قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة كانت له مثل مائة بدنة تنحر في مكة. ومن قال: الله اكبر مائة كانت له مثل عتق مائة رقبة.

”جو شخص ایک سو مرتبہ الحمد لله پڑھے گا تو یہ اس کے لیے لگام والے ایک سو گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کی مانند ہو جائے گا اور جو شخص ایک سو مرتبہ سبحان الله وبحمده پڑھے گا تو یہ اس کے لیے ایک سو اونٹ دینے کی مانند ہوگا، جن میں سے ہر ایک کو مکہ میں قربان کیا گیا ہو اور جو شخص ایک سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا تو اس کے لیے ایک سو غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب نوٹ کیا جائے گا۔“

امام ابو زرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ تمام روایات برابر کی ایجاد کردہ ہیں۔

۳۵۴۱- سلیم بن عقبہ قاری

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں اس کی شناخت نہیں ہو سکی، ہشتم بن سہیل نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۵۴۲- سلیم بن عمر و انصاری شامی

علی بن عیاش نے اس سے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے یہ معروف نہیں ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ابناءكم الرماية والسباحة، نعم لهو المؤمنة المغزل، اذا دعاك ابواك فاجب امك

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: ”اپنے بیٹوں کو تیراندازی اور تیراکی سکھاؤ اور مومن عورت کے لیے سب سے بہترین

مصروفیت سوت کا تانا ہے اور جب تمہارے ماں باپ دونوں تمہیں بلائیں تو تم پہلے اپنی ماں کو جواب دو“

۳۵۴۳- سلیم بن عیسیٰ کوفی قاری

یہ قرأت میں امام کی حیثیت رکھتا ہے، اس نے ثوری کے حوالے سے ایک منکر روایت نقل کی ہے جسے عقلمانی نے نقل کیا ہے، لیکن شاید

وہ شخص اس قاری صاحب کے علاوہ کوئی اور ہے۔

عقلی کہتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

ابغض العباد الی اللہ من کان ثوباہ خیرا من عملہ، ان تکون ثیابہ ثیاب الانبیاء و عملہ عمل الجبارین.

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے بندوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جس کا لباس اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہو کہ اس کا لباس انبیاء جیسا ہو اور اس کا عمل ظالم لوگوں جیسا ہو۔“
(امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: یہ روایت باطل ہے۔)

۳۵۴۴۔ سلیم بن مطیر (د)

اس نے اپنے والد کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ ضعیف لوگوں میں کیا ہے اور یہ کہا ہے: یہ منکر الحدیث ہے باوجودیکہ اس کی نقل کردہ روایات بھی کم ہیں اور اس کا تعلق وادی قری میں رہنے والوں سے ہے۔
امام ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس کا محل صدق ہے احمد بن ابوالحواری اور ہشام بن عمار نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۵۴۵۔ سلیم بن منصور بن عمار، ابو حسن

ابن علیہ اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں۔

ابن ابو حاتم کہتے ہیں: میں نے اپنے والد سے کہا: اہل بغداد کلام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا: رک جاؤ، میں نے ابن ابونجیح سے اس کے بارے میں دریافت کیا، میں نے کہا: لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے کم سنی میں ابن علیہ کے حوالے سے روایات نقل کیں تھیں۔ تو انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

۳۵۴۶۔ سلیم

یہ امام شععی کا شاگرد ہے ابن شنی کہتے ہیں: میں نے یحییٰ اور عبدالرحمن کو بھی اس کے حوالے سے کوئی چیز روایت کرتے ہوئے نہیں سنا۔ ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ نہیں ہے۔
ابن عدی کہتے ہیں: اس کے حوالے سے کوئی منکر متن منقول نہیں ہے، البتہ اس پر اسناد کے حوالے سے تنقید کی گئی ہے، یعنی یہ اسانید کو محفوظ نہیں رکھتا، یہ شععی کا آزاد کردہ غلام ہے۔

احمد بن یونس اور عبداللہ بن رجاء نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۵۴۷۔ سلیم، ابو میمونہ

اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ تصاویر فروخت کرتا تھا، یہ بات امام مسلم رحمہ اللہ

نے بیان کی ہے۔

۳۵۴۸- سلیم، ابو عتبہ سلمیٰ.

امام شعبی سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے، موسیٰ بن اسماعیل نے اس سے سماع کیا ہے۔

(ذکر سلیم بالفتح)

۳۵۴۹- سلیم بن صالح

ابن ثوبان سے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔

۳۵۵۰- سلیم بن مسلم بن خشاب کاتب.

ابن جریج سے روایات نقل کی ہیں۔

ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ جہمیہ فرقے سے تعلق رکھتا ہے اور خبیث ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ متروک الحدیث ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ احادیث کسی بھی چیز کے مساوی قرار نہیں دی جاسکتی ہیں۔

(سماک)

۳۵۵۱- سماک بن حرب (م، عمو)، ابو مغیرہ ہذلی کوفی.

یہ صدوق اور صالح ہے، علم کے بڑے ماہرین میں سے ایک اور مشہور ہے۔

عبداللہ بن مبارک نے سفیان کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ضعیف ہے، جریر ضعیف کہتے ہیں: میں سماک کے پاس آیا میں نے اسے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو میں واپس آ گیا میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا میں نے سوچا یہ خرافات کا شکار ہے۔

احمد بن ابومریم نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: سماک ثقہ ہے، شعبہ نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے۔

جناد الملکب بیان کرتے ہیں: ہم لوگ سماک کے پاس آتے تھے اور اس سے شعر کے بارے میں دریافت کرتے تھے اور علم حدیث

کے ماہرین بھی اس کے پاس آئے تو اس نے ہماری طرف رخ کیا اور بولا: تم لوگ سوال کرو کیونکہ یہ تو بوجھل لوگ ہیں۔

مؤمل نے حماد بن سلمہ کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں نے سماک بن حرب کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا: میری بینائی رخصت

ہو گئی، میں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خواب میں دیکھا، میں نے گزارش کی میری بینائی رخصت ہو گئی ہے تو انہوں نے

فرمایا: تم دریائے فرات میں اترو اور اپنا سر اس میں ڈبوؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو (یعنی بینائی کو) کھول دے گا اور

تمہاری بینائی کو واپس کر

دے گا میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری بصارت لوٹا دی۔
سماک بیان کرتے ہیں: میں نے 80 صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: سماک، مضطرب الحدیث ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں عبد اللہ الملک بن عمیر کے مقابلے میں یہ زیادہ صالح الحدیث ہے امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ثقہ اور 'صدوق' ہے صالح جزرہ کہتے ہیں: اسے ضعیف قرار دیا گیا ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: جب یہ کسی متن کو نقل کرنے میں منفرد ہو تو یہ حجت نہیں ہوگا کیونکہ اسے تلقین کی جاتی تھی اور یہ تلقین کو قبول کر لیتا تھا۔

حجاج نے شعبہ کا یہ قول نقل کیا ہے: لوگوں نے سماک سے کہا: یہ روایت عکرمہ کے حوالے سے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے اس نے جواب دیا: جی ہاں! (شعبہ کہتے ہیں) میں تو تلقین نہیں کرتا۔

قوادہ، ابو اسود دؤلی کا یہ قول نقل کرتے ہیں: اگر تمہیں یہ بات پسند ہو کہ تم اپنے ساتھی کو جھٹلا دو تو تم اسے تلقین کر دو۔
عبد اللہ بن احمد بن حنبل کہتے ہیں: میں نے اپنے والد (امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ) کی تحریر میں ایک روایت دیکھی جو ایک ایسے شخص کے حوالے سے منقول تھی جس کا نام انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا انہوں نے بتایا: کہ سماک بن حرب فصیح شخص تھا وہ اپنی گفتگو اور فصاحت کے ذریعے بات کو آراستہ کر دیتا تھا۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روایت میں اس سے استدلال کیا ہے اس (سماک) نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں شعبہ، زائدہ، ابو عوانہ اور (دوسرے) لوگوں نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

ابن مدینی کہتے ہیں: اس سے تقریباً 200 احادیث منقول ہیں ابن عمار کہتے ہیں: یہ غلطی کیا کرتا تھا اور اس کی حدیث میں (الفاظ میں) اختلاف پایا جاتا ہے۔

احمد بن عبد اللہ عملی کہتے ہیں: یہ جائز الحدیث ہے البتہ سفیان ثوری نے اسے معمولی سا ضعیف قرار دیا ہے۔
ابن مدینی کہتے ہیں: اس نے عکرمہ سے جو روایات نقل کی ہیں وہ مضطرب ہیں جب کہ سفیان اور شعبہ نے ان روایات کو عکرمہ کے حوالے سے منقول قرار دیا ہے۔

ابو احوص اور اسرائیل نے بھی ان روایات کو عکرمہ کے حوالے سے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول قرار دیا ہے۔
یعقوب بن شبہ کہتے ہیں: عکرمہ کے علاوہ سے روایات نقل کرنے میں یہ صالح ہے البتہ یہ اچھی قسم کے مثبت راویوں میں سے ایک نہیں ہے۔

۳۵۵۲- سماک بن سلمہ ضعیف

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے "ثقہ" قرار دیا ہے البتہ اس کی شناخت حاصل نہیں ہو سکی اس کے حوالے سے صرف مغیرہ بن مقسم نے روایات نقل کی ہیں۔

۳۵۵۳: سماک بن فضل یمانی

اس نے وہب اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں؛ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے اور امام عبدالرزاق نے ثوری کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ساقط نہیں ہے؛ اس کے حوالے سے ایک حدیث منقول ہے اور وہ حدیث مستند ہے۔

۳۵۵۳: سماک ابو ولید یمامی

یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا شاگرد ہے اور کئی حضرات نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

(سمرہ)۳۵۵۵- سمرہ بن سہم (س، ق)

یہ تابعی ہے؛ اس کی شناخت نہیں ہو سکی اور ایسا شخص اس بارے میں حجت نہیں ہوگا؛ جو عدالت کے حوالے سے معروف نہ ہو اور جس سے مجہول ہونے کی مکمل نفی نہ ہو۔
ابن مدینی کہتے ہیں: یہ مجہول ہے؛ مجھے نہیں معلوم کہ ابوالس شقیق کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایات نقل کی ہوں۔

(سمعان)۳۵۵۶- سماع بن مالک

اس نے ابوالس سے روایات نقل کی ہیں؛ ابوزرعہ کہتے ہیں: یہ ”قوی“ نہیں ہے؛ ابن خراش کہتے ہیں: یہ مجہول ہے

۳۵۵۷- سماع بن مشیخ (و، س)

اس نے حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں؛ اس سے روایت نقل کرنے میں امام شععی منفرد ہیں؛ ابن ماکولانے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے؛ اس کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے۔

۳۵۵۸- سماع بن مہدی

اس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں؛ اس کی شناخت نہیں ہو سکی؛ اس کے حوالے سے ایک جھوٹا نسخہ منقول ہے؛ میں نے وہ نسخہ دیکھا ہے؛ جس نے اسے ایجاد کیا ہے؛ اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے۔

(سمی، سمیر)

۳۵۵۹- سمی بن قیس (د، ت)

صرف ثمامہ بن شراحیل نے اس سے روایت نقل کی ہے۔

۳۵۶۰- سمیر بن داود

یہ مجہول ہے۔

۳۵۶۱- سمیر بن نہار۔

اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے جو منکر ہے۔

(سمیع، سمیہ)

۳۵۶۲- سمیع بن زاذان

یہ کعب کا استاد ہے یہ مجہول ہے۔

۳۵۶۳- سمیہ (د، س)

اس کی شناخت نہیں ہو سکی ثابت بنانی اس کے حوالے سے روایت نقل کرنے میں منفرد ہے۔
 حماد بن سلمہ نے ثابت اس خاتون کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت نقل کی ہے:
 اعتل بعیر لصفیة، عند زینب فضل ظہر، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اعطیها بعیرا! فقالت:
 انا اعطی تلك اليهودیة! فہجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر.
 ”ایک مرتبہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے پاس ایک اضافی اونٹ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 اسے اونٹ دے دو، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے کہا: کیا میں اس یہودی عورت کو دے دوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحج کے مہینے
 میں محرم کے مہینے میں اور صفر کے مہینے کے کچھ دن تک سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے لاتعلقی اختیار کیے رکھی۔“

(سنان)

۳۵۶۴- سنان بن ربیعہ (خ، د، ت، ق)

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، حماد بن زید اور عبداللہ بن بکر نے اس سے روایات نقل کی ہیں، یہ کم درجے

کا صالح ہے، ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”قوی“ نہیں ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ مضطرب الحدیث ہے۔
(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے جو دوسرے
(راوی کے ساتھ) ملی ہوئی ہے اس کا شمار اہل بصرہ میں ہوتا ہے۔

۳۵۶۵۔ سنان بن سعد۔

اس کا ذکر سعد بن سنان (کے نام سے پہلے) ہو چکا ہے۔

۳۵۶۶۔ سنان بن عبد اللہ جہنی

اس نے اپنی پھوپھی کا یہ بیان نقل کیا ہے:

عن عمته انها قالت: يا رسول الله، ان امي نذرت المشي الى الكعبة فتوفيت.. الحدیث.
”اس خاتون نے عرض کی: یا رسول اللہ! میری والدہ نے خانہ کعبہ تک پیدل چل کر جانے کی نذر مانی تھی، پھر ان کا انتقال ہو گیا“

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے۔

۳۵۶۷۔ سنان بن ہارون (ت) برجمی،

یہ سیف کا بھائی ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ شیخ ہے، ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ احادیث کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ابن عدی کہتے ہیں: مجھے یہ امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔
عباس، یحییٰ کا یہ قول نقل کرتے ہیں: حالت کے اعتبار سے سنان، سیف سے زیادہ بہتر ہے۔
عباس کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: سیف میرے نزدیک سنان سے زیادہ پسندیدہ ہے البتہ ابن حماد اور ابن ابوبکر نے اس کے برعکس نقل کیا ہے۔

۳۵۶۸۔ سنان مولیٰ واخلمہ

خالد بن ابویزید نے اس سے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے (یہ ابن ابونصور ہے۔)

۳۵۶۹۔ سنان بن یزید رهاوی

یہ ابو فروہ یزید کا والد ہے، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سماع کیا ہے اور اس کے حوالے سے صرف اس کے پوتے محمد بن یزید نے روایات نقل کی ہیں۔

(سندول، سندى)

۳۵۷۰- سندول

امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے۔

۳۵۷۱- سندى بن ابوہارون

یہ مسدک استاد ہے، یہ مجہول ہے۔

(سنید)

۳۵۷۲- سنید بن داؤد (ق) مصیصی محتسب

اس کا نام حسین ہے، اس نے حماد بن زید، ہشیم اور ان کے طبقے کے افراد سے روایات نقل کی ہیں، یہ حافظ الحدیث ہے، اس کے حوالے سے تفسیر بھی منقول ہے، اور اس سے ایسی روایات منقول ہیں، جنہیں منکر قرار دیا گیا ہے۔ اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ نافع کے حوالے سے یہ ”روایت“ نقل کی ہے:

سرت مع ابن عمر فقال: طلعت الحمراء؟ قلت: لا. ثم قلت: قد طلعت. فقال: لا مرحبا بها ولا اهلا. قلت: سبحان الله! نجم سامع مطيع. قال: ما قلت الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان البلائكة قالت: يا رب، كيف صبرك على بنى آدم؟ قال: انى ابتليتهم وعافيتكم. قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك. قال: فاختراروا ملكين منكم. فاختراروا هاروت وماروت، فنزلا، فالتقى الله عليهما الشهوة، فجاءت امرأة يقال لها الزهرة.. الحديث بطوله.

”میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ سفر کر رہا تھا، انہوں نے دریافت کیا: کیا سرخی نمودار ہوگئی ہے؟ میں نے جواب دیا: جی نہیں! پھر میں نے انہیں بتایا کہ اب وہ نمودار ہوگئی ہے تو انہوں نے کہا: اسے خوش آمدید نہیں اور نہ ہی اسے اہلاً و سہلاً ہے۔ میں نے کہا: سبحان اللہ! ستارہ سنتا ہے یا فرمانبرداری کرتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: میں نے صرف وہی جملہ کہا ہے جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فرشتوں نے عرض کی: اے ہمارے پروردگار! تو نے اولادِ آدم کو کیسے ترجیح دیدی؟ تو پروردگار نے فرمایا: میں نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا اور تمہیں عافیت نصیب کی، تو فرشتوں نے کہا: اگر ہم ان کی جگہ پر ہوتے، تو ہم تیری نافرمانی نہ کرتے، تو پروردگار نے فرمایا: تم اپنے میں سے دو فرشتے منتخب کر لو، ان لوگوں نے ہاروت اور ماروت کو منتخب کیا، وہ دونوں زمین پر اترے، اللہ تعالیٰ نے ان پر شہوت طاری کردی، پھر ایک عورت آئی جس کا نام زہرہ تھا، اس کے بعد طویل روایت ہے۔

ابوزرعہ، اثرم اور ایک جماعت نے اس سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سچا قرار دیا ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ اس پائے کا نہیں ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: حسین بن داؤد ”ثقة“ نہیں ہے۔ سنید کا انتقال 226 ہجری میں ہوا۔

(سہل)

۳۵۷۳- سہل بن احمد بیان

اس نے فضل بن حباب سے روایات نقل کی ہیں، اس پر دو برابر کی خرابیوں، یعنی رافضی ہونے اور جھوٹا ہونے کے الزامات ہیں، زہری اور دیگر حضرات نے اس پر یہ الزام عائد کیے ہیں۔

۳۵۷۴- سہل بن ادریس

ابن عبدان ابوہازی کہتے ہیں: یہ ہمارا استاد ہے، لیکن یہ کچھ ”لین“ ہے، اس نے سلمہ بن شعیب کے حوالے سے ہمیں احادیث بیان کی ہیں۔

۳۵۷۵- سہل بن تمام (د)

اس نے قرہ بن خالد سے روایات نقل کی ہیں، ابوزرعہ کہتے ہیں: بعض اوقات یہ کسی چیز کے بارے میں وہم کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن یہ غلط بیانی نہیں کرتا، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ شیخ ہے۔

۳۵۷۶- سہل بن ثعلبہ

اس نے حضرت عبداللہ بن حارث زبیدی رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۵۷۷- سہل بن حزن بن نباتہ

اس نے اپنے والد سے روایت نقل کی ہیں، یہ دونوں (یعنی یہ اور سابقہ راوی) مجہول ہیں۔

۳۵۷۸- سہل بن حماد (م، عو)

یہ دو سو ہجری کے بعد سے تعلق رکھتا ہے، یہ پتا نہیں چل سکا کہ یہ کون ہے؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ابو عتاب کا ایجنٹ ہے، کیونکہ عثمان داری نے یہ کہا ہے: میں نے یحییٰ بن معین سے سہل بن حماد ایجنٹ کے بارے میں دریافت کیا، تو وہ بولے: میں اس سے واقف نہیں ہوں، ان کی مراد یہ تھی کہ وہ اس کی حالت کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے تھے۔

اس کے بارے میں ابوزرعہ اور ابو حاتم کہتے ہیں: یہ صالح الحدیث اور شیخ ہے۔

جہاں تک امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، تو وہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس نے قرہ بن خالد، شعبہ اور ان دونوں

کے طبقے کے افراد سے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے کوئی روایت نقل نہیں کی ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس کا انتقال دو سو آٹھ ہجری میں ہوا۔

۳۵۷۹۔ سہل بن خاقان

اس نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سورہ یٰسین کی تلاوت کرنے کے بارے میں ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے۔

۳۵۸۰۔ سہل بن رجاء۔

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ثقہ راویوں کے حوالے سے کچھ روایات نقل کرنے میں منفرد ہے۔

۳۵۸۱۔ سہل بن زیاد، ابو زیاد

اس نے ایوب سے روایات نقل کی ہیں، محدثین نے اسے ضعیف قرار نہیں دیا، تاریخ اسلام میں اس کے حالات منقول ہیں۔

۳۵۸۲۔ سہل بن زیاد، ابوعلی قطان

اس نے شریک سے روایات نقل کی ہیں، اس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، تاہم اسے ”متروک“ قرار نہیں دیا گیا۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں نے (اس میں) صرف بھلائی دیکھی ہے۔

۳۵۸۳۔ سہل بن سلیمان اسود، بصری

اس نے شعبہ سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے بشر بن حکم نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ علم حدیث کے ماہرین میں سے ایک ہے اور شعبہ کے حوالے سے روایات نقل کرنے میں سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہے۔ لیکن لوگوں نے اس کی احادیث کو ”متروک“ قرار دیا ہے، ویسے یہ اکابر محدثین میں سے ایک ہے۔

غلام کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ حدیث کو ”متروک“ قرار دیا گیا ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: سہل نامی اس شخص کا معاملہ واضح ہے، یہ بہت پہلے سے عبادت گزار تھا اور یہ اعمش کے انتقال کے قریب ظہور پذیر ہوا تھا، اس نسخے میں بھی اس طرح تحریر ہے، جو میں نے اس کے حوالے سے نقل کیا ہے، شاید اس میں سے کوئی چیز رہ گئی ہو، یعنی اس میں اعمش کے انتقال کی بجائے اعمش کے شاگردوں کے انتقال کا ذکر ہو۔

راوی بیان کرتے ہیں: جب اعمش کے شاگردوں نے بصرہ میں اسے دیکھا کہ اس نے شعبہ کے حوالے سے جھوٹی روایات نقل کی ہیں، تو انہوں نے اسے ”متروک“ قرار دے دیا، میرے علم کے مطابق اس نے کوئی ایسی روایت نقل نہیں کی، جو مستند

-۶۰-

۳۵۸۴- سہل بن ابو سہل۔

سعید بن حسان نے اس سے روایات نقل کی ہیں اس میں مجہول ہونا پایا جاتا ہے، نباتی نے یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ مجہول ہے۔

۳۵۸۵- سہل بن صخر

اس کی شناخت نہیں ہو سکی، بعض حفاظ نے اس کا شمار ضعیف راویوں میں کیا ہے۔

۳۵۸۶- سہل بن صقیر (ق)، ابو حسن خلاطی

ایک قول کے مطابق یہ بصرہ کا رہنے والا ہے، جس نے خلاط میں رہائش اختیار کی۔ ابن عدی کہتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من صلی رکعتین لایسہو فیہما غفر لہ۔

”جو شخص دو رکعت ادا کرے جن میں وہ سہو کا شکار نہ ہو تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔“

زید نے یہ روایت زید کے حوالے سے نقل کی ہے اور اس میں عطاء کا ذکر نہیں کیا۔

ابن عدی کہتے ہیں: مجھے یہ امید ہے کہ سہل نامی یہ راوی جان بوجھ کر نہ بیان نہیں کرتا اس سے ویسے غلطی ہو جاتی ہے۔

خطیب کہتے ہیں: یہ احادیث ایجاد کرتا تھا امیر کہتے ہیں: اس میں ضعف پایا جاتا ہے۔

۳۵۸۷- سہل بن ابوصلت سراج

اس نے حسن سے، جب کہ اس سے عبد الرحمن بن مہدی، مسلم اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں: اس نے حسن کے حوالے سے کچھ منکر چیزیں روایت کی ہیں، کہ اس نے انہیں قبروں کی لائن کے درمیان نماز ادا کرتے دیکھا ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: یہ صالح الحدیث ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یزید بن ہارون کہتے ہیں: یہ معتزلی

تھا، میں نے اس کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کی، لیکن اس سے (کسی حدیث کا) سماع نہیں کیا، کیونکہ میں اس سے واقف تھا۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان نقل کیا ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یجز طلاق البریض۔

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار شخص کی دی ہوئی طلاق کو واقع قرار نہیں دیا۔“

ابن عدی کہتے ہیں: سہل کی نقل کردہ مسند روایات میں کوئی حرج نہیں ہے ان کی تعداد بیس یا شاید تیس ہے۔ اور یہ شخص غریب الحدیث ہے۔

اس کے بارے میں ابو حاتم یہ کہتے ہیں: یہ صالح الحدیث ہے یہ کہتے ہیں یہ ثقہ ہے، یہ ”صدوق“ ہے۔
مسلم بن ابراہیم کہتے ہیں: یہ ”ثقہ“ ہے، ساجی کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے۔

۳۵۸۸- سہل بن عامر بجلی

اس نے مالک بن مغول سے روایات نقل کی ہیں، ابو حاتم نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے۔

۳۵۸۹- سہل بن عامر نیشاپوری

اس نے عبداللہ بن نافع سے روایات نقل کی ہیں، امام حاکم سے اس کی تکذیب روایت کی گئی ہے، ابن جوزی نے اس کے باپ کا نام یہی بیان کیا ہے، لیکن یہ غلط ہے، اس کے باپ کا نام عمار ہے۔

۳۵۹۰- سہل بن عباس ترمذی

اس نے اسماعیل بن علیہ سے روایات نقل کی ہیں، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”متروک“ قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے: یہ ”ثقہ“ نہیں ہے۔

۳۵۹۱- سہل بن عبداللہ بن بریدہ مروزی

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے۔

اس کے حوالے سے اس کے بھائی اوس نے ایک منکر روایت نقل کی ہے

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: بلکہ وہ روایت جھوٹی ہے، جو اس نے اپنے بھائی کے حوالے سے اپنے باپ عبداللہ کے حوالے سے اس کے باپ سے نقل کی ہے) (جو درج ذیل ہے:)

ستبعث بعدی بعوث، فکونوا فی بعث خراسان، ثم انزلوا کورة یقال لها مرو بناها ذو القرنین لا یصیب اهلها سوء

”عنقریب میرے بعد کچھ لشکر بھیجے جائیں گے، تو تم لوگ خراسان کے لشکر میں شامل ہو جانا، اور پھر اس بستی میں پڑاؤ کرنا، جس کا نام ”مرو“ ہے جسے ذو القرنین نے تعمیر کیا تھا، وہاں کے رہنے والوں کو برائی لاحق نہیں ہوگی۔“

۳۵۹۲- سہل بن عبداللہ مروزی

اس راوی نے عبد الملک بن مہران، ابوصالح کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“

حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من اکل الطین فقد اعان علی نفسه.

”جو شخص مٹی کھاتا ہے وہ اپنی ذات کے خلاف مدد کرتا ہے“

یہ روایت اس سے مروان بن معاویہ نے نقل کی ہے یہ مجہول ہے

۳۵۹۳- سہل بن علی

یہ شیخ ہے جس نے علی بن جعد اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں اس پر جھوٹا ہونے کا الزام ہے یہ بات ابو مزاحم خاقانی نے بیان کی ہے۔

۳۵۹۴- سہل بن عمار نیشاپوری

اس نے یزید بن ہارون سے روایات نقل کی ہیں اس پر جھوٹا ہونے کا الزام ہے امام حاکم نے اس کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے اپنی تاریخ میں یہ بات بیان کی ہے: یہ سہل بن عمار بن عبد اللہ عتکی ہے جو ہرات کا قاضی تھا پھر یہ طرسوس کا قاضی بنا یہ اپنے زمانے میں ”اہل رے“ کا بزرگ تھا۔

اس نے یزید، شبابہ، جعفر بن عون، اور واقدی سے سماع کیا ہے۔

میں نے محمد بن صالح بن ہانی سے دریافت کیا: کیا وجہ ہے کہ سہل کے حوالے سے روایات نقل نہیں کی جاتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا: لوگوں نے اس سے سماع کرنے سے منع کیا ہے۔

میں نے محمد بن یعقوب حافظ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا: ہم لوگ ابراہیم بن عبد اللہ سعدی کے پاس آیا جایا کرتے تھے اور سہل ان کے ایک کونے میں پڑا ہوتا تھا ہم اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔

ابو اسحاق فقیہ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی قسم سہل نے ابن نافع کے حوالے سے جھوٹی باتیں بیان کی ہیں۔

ابراہیم سعدی کہتے ہیں: سہل بن عمار نامی راوی جھوٹ کے ذریعے میرے قریب ہونا چاہتا ہے وہ یہ کہتا ہے: میں نے تمہارے ساتھ یزید بن ہارون کے پاس روایات نوٹ کی تھیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قسم! اس نے میرے ہمراہ ان سے

احادیث کا سماع نہیں کیا۔

۳۵۹۵- سہل بن ابو فرقد

اس کا ذکر آگے آئے گا۔

۳۵۹۶- سہل بن قرین

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

لاہم الاہم الدین، لا وجع الا وجع العین.

”پریشانی صرف دینی پریشانی ہوتی ہے اور تکلیف صرف آنکھ کی تکلیف ہوتی ہے“
اسی سند کے ساتھ یہ روایت بھی منقول ہے۔

شكمت الكعبة الى الله قلة زوارها فادحى الله اليها لابعثن اقواما يحنون اليك كما تحن الحمامة الى
افراخها

”خانہ کعبہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکایت کی کہ اس کی زیارت کے لیے آنے والے لوگ تھوڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے
اس کی طرف یہ وحی کی: کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو بھیجوں گا جو تمہاری طرف یوں پلٹ کر آئیں گے جس طرح کبوتر اپنے بچوں
کی طرف لوٹ کر جاتا ہے“

یہ دونوں روایات قرین بن سہل نے اپنے باپ کے حوالے سے نقل کی ہیں یہ بصرہ کا رہنے والا ہے ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اور ابن
عدی نے اس پر تنقید کی ہے جب کہ ازدی نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے۔

۳۵۹۷۔ سہل بن معاذ (د، ت، ق) بن انس جہنی

انے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کتاب
”الثقات“ میں کہتے ہیں: مجھے نہیں معلوم کہ اختلاط اس کی طرف سے ہوا ہے یا اس کے شاگرد زبان بن فائد کی طرف ہوا؟

۳۵۹۸۔ سہل بن ہاشم شامی

یہ ”منکر الحدیث“ ہے یہ بات ازدی نے بیان کی ہے پھر انہوں نے اس کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے جو اس نے
اپنی سند کے ساتھ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے وہ بیان کرتے ہیں:
كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا راعه شیء قال: هو اللہ لا شریک له.
”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی چیز سے خوف محسوس ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے ”وہ اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے“
ابو عبید نے ابوداؤد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے یہ ثقہ سے اوپر درجے کا ہے لیکن احادیث میں غلطی کر جاتا ہے۔
امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے دیم کہتے
ہیں: یہ ثقہ ہے۔

۳۵۹۹۔ سہل بن یزید

اس نے فضالہ بن عبید سے جب کہ اس سے افرح بن سعید نے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے۔

۳۶۰۰۔ سہل بن فلان فزاری

اس نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت جناب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے یہ مجہول ہے۔

۳۶۰۱۔ سہل

(ایک قول کے مطابق یہ) سہیل بن ابو فرقد ہے۔

اس نے حسن سے جب کہ اس سے عکرمہ بن عمار نے روایات نقل کی ہیں۔

امام بخاری (مور امام ابو حاتم) فرماتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے ابن عدی کہتے ہیں: میں اس سے واقف نہیں ہوں، اس نے ایک مندر حدیث نقل کی ہے اور عکرمہ اس کے حوالے سے کچھ آثار نقل کرنے میں منفرد ہے۔

نضر بن محمد کہتے ہیں: عکرمہ نے سہیل کے حوالے سے، حسن بصری رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے:

”میں نے 300 صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے، جس میں سے 70 افراد کو غزوہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل ہے، میں نے ان سب سے احادیث روایت کی ہیں“۔

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ واضح طور پر جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی حسن بصری رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی ہوگی۔

۳۶۰۲۔ سہل، ابو حریز مولیٰ مغیرہ

اس نے زہری سے روایات نقل کی ہیں، امام ابن حبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا، اس نے زہری کے حوالے سے عجیب و غریب روایات نقل کی ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ ہے، جو اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے۔

كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اهتم اخذ لحیتہ فنظر فیہا.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی پکڑ کر اس کا جائزہ لیا کرتے تھے“

حسان بن غالب، سعید بن عفیر اور دیگر حضرات نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

ابن عدی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ زیادہ تر روایات میں اس کی متابعت نہیں کی گئی ہے اور یہ ضعیف ہونے کے زیادہ قریب ہے۔

۳۶۰۳۔ سہل اعرابی، بصری

یہ تھوڑی روایات نقل کرنے والا شخص ہے، جب یہ کسی روایت کو نقل کرنے میں منفرد ہو، تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

لا یبغی علی الناس الا ابن بغیة او فیہ عرق منها.

”لوگوں کے خلاف سرکشی صرف وہ کرے گا جو سرکشی کے نتیجے میں پیدا ہوا ہو، یا اس میں سرکشی کی کوئی رگ موجود ہو“۔

مرحوم بن عبدالعزیز عطار نے اس سے یہ روایت نقل کی ہے۔

ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حالات بیان کیے ہیں ایک قول کے مطابق اس کا نام بہل بن عطیہ ہے۔

۳۶۰۴۔ سہیل بن حصین

اس نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ پتا نہیں چل سکا یہ کون ہے؟

(سہیل)

۳۶۰۵۔ سہیل بن بیان

اس نے خالد الخذاء سے روایات نقل کی ہیں ابو حاتم رازی نے اس سے ملاقات کی ہے اور فلاس نے اسے ”واہی“ قرار دیا ہے ابو حاتم نے اس سے روایت کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے۔

۳۶۰۶۔ سہیل بن ابو حزم

اس کا ذکر آگے آئے گا۔

۳۶۰۷۔ سہیل بن خلاد عمبیدی

اس میں محمد بن سواد کے حوالے سے ایک منکر روایت نقل کی ہے اس کے بارے میں مجہول ہونے کے حوالے سے کلام کیا گیا ہے ہم کسی ایسے شخص سے واقف نہیں ہیں جس نے اس سے روایت نقل کی ہو صرف محمد بن ابراہیم بن صدران نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۶۰۸۔ سہیل بن ذکوان، ابوسندی

اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اور یہ بات بیان کی ہے کہ ان کا رنگ کالا تھا، یحییٰ بن معین نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے کئی حضرات نے یہ کہا ہے: یہ متروک الحدیث ہے یہ واسط کارہنے والا ہے، ہشیم نے اس کا زمانہ پایا ہے بلکہ یزید بن ہارون نے بھی اس کا زمانہ پایا ہے زیاد بن ایوب نے ہشیم کے حوالے سے سہیل بن ذکوان کا یہ بیان نقل کیا ہے:

ان امرأة استعدت علی زوجها عند ابن الزبیر فقالت: لا یدعها فی حیض ولا غیرہ، فعرض لها ابن الزبیر باربع باللیل واربع بالنهار. فقال: لا یکفینی، فتمنعنی ما احل الله لی! قال: اذا اسرفت.

”ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنے شوہر کے خلاف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے سامنے شکایت کی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے چار راتوں اور چار دن کی پیشکش کی تو اس شخص نے کہا: میرے لیے یہ کفایت نہیں کرتا یہ اس چیز کو مجھ

سے روکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال قرار دی ہے (یا کیا آپ مجھے اس سے روک رہے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال قرار دی ہے) تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: پھر تم اسراف کا شکار ہو گے۔

عباد بن عوام بیان کرتے ہیں: میں نے سہیل بن ذکوان سے دریافت کیا: کیا تم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی زیارت کی ہے؟ اس نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: تم ان کا حلیہ میرے سامنے بیان کرو اس نے کہا: ان کا رنگ گندمی تھا، عباد نے کہا: ہم اس پر جھوٹا ہونے کا الزام عائد کرتے ہیں، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی رنگت انتہائی گوری چمکی تھی۔

امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں: سہیل بن ذکوان، یہ سمان نہیں ہے اور یہ ”متروک“ ہے۔

ابن مدینی بیان کرتے ہیں: محمد بن حسن واسطی نے سہیل بن ذکوان کا یہ بیان نقل کیا ہے: میری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ”واسط“ میں ملاقات ہوئی تھی۔

۳۶۰۹۔ سہیل بن ابوصالح (م، عو) ذکوان السمان

یہ ثقہ اہل علم میں سے ایک ہے، جب کہ دیگر حضرات اس سے زیادہ قوی ہیں، یحییٰ بن معین کہتے ہیں: سنی اس سے زیادہ بہتر ہے۔ عباس نے یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ حدیث میں قوی نہیں ہے، انہوں نے بھی کہا ہے: اس کی حدیث حجت نہیں ہے ایک اور مقام پر انہوں نے یہ کہا ہے: یہ ثقہ ہے، یہ عباد اور صالح کا بھائی ہے۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ محمد بن عمرو سے زیادہ مثبت ہے اور اس کی نقل کردہ حدیث کتنی صالح ہے، امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس کی احادیث کو نقل کیا جائے گا، البتہ اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا اور یہ میرے نزدیک عمرو بن ابو عمرو اور علاء بن عبد الرحمن سے زیادہ محبوب ہے۔

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: شعبہ اور امام مالک نے اس سے روایات نقل کی ہیں، اسے ایک بیماری لاحق ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ بعض احادیث کو بھول گیا تھا سفیان بن عیینہ کہتے ہیں: ہم سہیل کو حدیث میں ”ثبت“ شمار کرتے ہیں۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے: من قتل وزعا فی اول ضربة کان له کذا و کذا حسنة.. الحدیث.

”جو شخص پہلی ضرب میں گرگٹ کو مار دے، اسے اتنی اور اتنی نیکیاں ملیں گی“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے: فرخ الزنا لا یدخل الجنة.

”زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ جنت میں داخل نہیں ہوگا“

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس کے حوالے سے استشہاد کے طور پر ایک روایت نقل کی

امام ابو زرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: سہیل، علاء سے زیادہ بہتر راوی ہے احمد عجلی کہتے ہیں: سہیل ثقہ ہے، ابن عدی کہتے ہیں: یہ میرے نزدیک مثبت ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے نسخے منقول ہیں، اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں اور ایک جماعت کے حوالے سے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں، یہ چیز اس کے ثقہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اس نے اس بات کو نمایاں کر دیا ہے کہ جو روایات اس نے اپنے والد سے سنی ہیں اور جو روایات اس نے اپنے والد کے شاگردوں کے حوالے سے اپنے والد سے سنی ہیں۔

سلمی کہتے ہیں: میں نے امام دارقطنی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنی ”صحیح“ میں سہیل کو کیوں ترک کر دیا؟ تو انہوں نے جواب دیا: میں اس کے حوالے سے کسی ایسی چیز سے واقف نہیں ہوں کہ اس میں کوئی عذر ہو، جب امام نسائی رضی اللہ عنہ سہیل کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو یہ کہتے تھے: اللہ کی قسم! سہیل ابوالیمان، یحییٰ بن بکیر اور دیگر گئی راویوں سے زیادہ بہتر ہے اور امام بخاری رضی اللہ عنہ کی کتاب اس طرح کے راویوں سے بھری ہوئی ہے۔

انہوں نے فلیح بن سلیمان کے حوالے سے زوایت نقل کی ہے، مجھے اس کے حوالے سے کوئی صورت سمجھ نہیں آ سکی۔

ابن مدینی کہتے ہیں: سہیل کے بھائی کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے اسے بہت دکھ ہوا اور اس وجہ سے بہت سی احادیث وہ بھول گیا، ابن ابوشیمہ کہتے ہیں: میں نے یحییٰ بن معین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: محدثین ہمیشہ اس کی احادیث سے احتیاط کرتے رہے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا: یہ ضعیف ہے، ایک مرتبہ ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: یہ اس پائے کا نہیں ہے، جب کہ دیگر حضرات نے یہ بات بیان کی ہے: امام مالک نے اس کے تغیر کا شکار ہونے سے پہلے اس سے روایات نوٹ کی تھیں۔

امام حاکم کہتے ہیں: امام مسلم رضی اللہ عنہ نے اس سے بہت سی روایات نقل کی ہیں، جن میں سے زیادہ تر شواہد کے بارے میں

ہے۔

۳۶۱۰۔ سہیل بن ابو حزم (عو) مہران قطعی۔

اس نے ابو عمران جونی اور ثابت سے، جب کہ اس سے شریح بن نعمان، ہد بد اور ایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔ ابن معین کہتے ہیں: یہ صالح ہے، امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے، امام بخاری رضی اللہ عنہ اور امام نسائی رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول: ان ربکم یقول: انی اهل ان اتقی ان یجعل معی الہ غیرہ، من اتقی ان یجعل معی الہا غیرہ فانا اهل ان اغفر لہ۔

”میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے: تمہارا پروردگار یہ فرماتا ہے: میں اس بات کا اہل ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اس حوالے سے کہ کسی کو میرے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، تو جو شخص اس چیز سے بچتا ہے کہ کسی کو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے، تو میں اس بات کا اہل ہوں کہ اس کی مغفرت کر دوں“

اس بارے میں اس کی متابعت نہیں کی گئی، احمد بن زہیر نے ابن معین رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ضعیف ہے۔

۳۶۱۱- سہیل بن عمیر

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۶۱۲- سہیل بن ابوفرقد

اس نے حسن سے روایات نقل کی ہیں، یہ دونوں (یعنی یہ اور سابقہ راوی) مجہول ہیں، دوسرے راوی کا تذکرہ سہیل کے نام کے تحت گزر چکا ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سہیل بن ابوفرقد ”منکر الحدیث“ ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: سہیل بن ابوفرقد، مجہول اور منکر الحدیث ہے، نصر بن محمد کہتے ہیں: عکرمہ بن عمار نے سہیل بن ابوفرقد کے حوالے سے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: وہ یہ فرماتے ہیں: ”میں نے 300 صحابہ کرام کا زمانہ پایا ہے، جن میں سے 70 حضرات کو غزوہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل ہے، میں نے ان سب سے روایات نقل کی ہیں۔“

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ چیز واضح طور پر جھوٹ ہے، کیونکہ نہ ہی (حقیقت میں) ایسا تھا، اور نہ ہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی بات کہی ہوگی۔

(سوادہ)

۳۶۱۳- سوادہ بن ابراہیم انصاری

اس نے امام مالک سے روایات نقل کی ہیں، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔
(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس نے امام مالک کے حوالے سے ایک منکر روایت نقل کی ہے، جو مستند نہیں ہے، یہ روایت ابوالفوارس سندی نے اپنی سند کے ساتھ اس کے حوالے سے نقل کی ہے۔

۳۶۱۴- سوادہ بن اسماعیل

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔
(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس کی نقل کردہ روایت جھوٹی ہے، جو دھوپ میں گرم ہونے والے پانی کے بارے میں ہے، یہ روایت اس سے علی بن ہاشم نے نقل کی ہے۔

۳۶۱۵- سوادہ بن علی کوفی

یہ ابن نمیر کا پوتا ہے، اس نے اسماعیل بن عمر بن ابوکریمہ سے روایات نقل کی ہیں، ابو حاتم نے اس سے سماع کیا ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے۔

(سوار)

۳۶۱۶- سوار بن داؤد (دق) ابو حمزہ

ایک قول کے مطابق اس کا نام داؤد بن سوار ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے یہ ضعیف ہے اور یہ ابو حمزہ ہے جو ”الحلی“ نامی کتاب کا مصنف ہے یہ بصرہ کا رہنے والا ہے اس نے عمرو بن شعیب کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے سے ان کے دادا سے یہ روایت نقل کی ہے:

مروهم بالصلاہ لسبع.

”بچوں کو سات سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو“

اسی سند کے ساتھ یہ روایت بھی منقول ہے:

اذا زوج احدکم امتہ فلا یرین عورتھا.

”جب کوئی شخص اپنی کنیز کی شادی کسی (اور کے ساتھ) کر دے تو وہ اس کے ستر کو نہ دیکھے“

یحییٰ معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقفہ“ قرار دیا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: کعب کو اس کے بارے میں وہم ہوا ہے انہوں نے یہ کہا: اس کا نام داؤد بن سوار ہے۔

امام مسلم، قرہ بن حبیب اور ایک جماعت نے اس سے روایات نقل کی ہیں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی احادیث کی متابعت نہیں کی گئی البتہ اس سے اعتبار حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۳۶۱۷- سوار بن سہل

یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جستانی کا استاد ہے یہ پتا نہیں چل سکا کہ یہ کون ہے؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ”صدوق“ ہے۔“

۳۶۱۸- سوار بن عبد اللہ بن قدامہ عنبری قاضی بصری

اس نے بکر مزنی اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے قلیل روایات نقل کی ہیں شعبہ کہتے ہیں: اس نے علم کی طلب میں اتنی زیادہ کوشش نہیں کی لیکن یہ سردار ہو گیا، ثوری کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: یہ سمجھ دار قاضیوں میں سے ایک تھا۔

ابن علیہ اور بشر بن مفضل نے اس سے روایات نقل کی ہیں اس کا انتقال 56 ہجری میں ہوا یہ ایک پرہیزگار شخص تھا۔

۳۶۱۹- سوار بن عمر

یہ پتا نہیں چل سکا کہ یہ کون ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت مستند نہیں ہے وہ روایت ”مرسل“

ہے یہ بات ابن عدی نے ذکر کی ہے۔

۳۶۲۰- سوار بن محمد بن قریش، مصری۔

اس نے یزید بن زریع سے روایات نقل کی ہیں اس کا محل ”صدق“ ہے اس نے ایک ”مرفوع“ حدیث نقل کی ہے اور اس میں غلطی ہے۔

۳۶۲۱- سوار بن مصعب ہمدانی کوفی، ابو عبد اللہ اعمی مؤذن

اس نے عطیہ عوفی اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں جب کہ اس سے ابوالجہم اور دیگر کئی لوگوں نے روایات نقل کی ہیں۔

عباس، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں: یہ ہمارے پاس آیا کرتا تھا یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ نہیں ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: ابوجہم کے ”جزء“ میں اس کے حوالے سے منکر روایات منقول ہیں جن میں سے ایک روایت یہ ہے جو اس نے عطیہ کے حوالے سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے:

لا يزال الناس حتى يقولوا هذا الله كان قبل كل شيء فباذا كان قبل الله
”لوگ یہ کہا کریں گے: اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے پہلے ہے تو اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا؟“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

بس القوم قوم يشي فيهم المؤمن بالتقيہ والكتبان.

”وہ قوم انتہائی بری ہے جس کے درمیان کوئی مؤمن شخص تقیہ کرتے ہوئے (اور اپنے آپ) کو چھپاتے ہوئے چلتا ہو“
اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من كذب بالقدر او خاصهم فيه فقد كفر بما جئت به.

”جو شخص تقدیر کا انکار کرتا ہے یا اس کے بارے میں بحث کرتا ہے وہ اس چیز کا انکار کرتا ہے جو میں لے کے آیا ہوں۔“
(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس کا انتقال 170 ہجری کے کچھ بعد ہوا تھا، یحییٰ بن معین نے اسے دیکھا ہے۔

۳۶۲۲- سوار، ابودریس مرہبی کوفی

اس نے مسیب بن نجہ کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں یہ انتہا پسند شیعہ تھا اس کی روایت کو نوٹ کیا جائے گا۔

اس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اس میں مجہول ہونا پایا جاتا ہے، یحییٰ بن معین کہتے ہیں: یہ کسی شے کے نہ ہونے کی مانند ہے، صالح بن احمد کہتے ہیں: علی نے یہ بات مجھے بتائی ہے: میں نے یحییٰ القطان سے یحییٰ بن ابوکثیر کی سوار کوئی کے حوالے سے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کردہ اس روایت کے بارے میں دریافت کیا۔

”آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اس کی اجازت کے بغیر عزل نہیں کرے گا“
تو یحییٰ نے کہا: یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: عقیلی نے اس کا ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے: اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں اور یہی درست ہے۔

جہاں تک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے روایات نقل کرنے کا تعلق ہے، تو ابن جوزی نے اس کا ذکر کیا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، بہر حال جو بھی صورت حال ہو، سوار نامی اس شخص کی شناخت پتا نہیں چل سکی ہے۔

(سويد)

۳۶۲۴- سويد بن ابراهيم بصرى عطار

یہ ابو حاتم ہے، جو کھانے والا تھا،

اس نے حسن اور ققادہ سے روایات نقل کی ہیں، عثمان نے ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: مجھے یہ امید ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ابو یعلیٰ نے ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔

ابوزرعہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے اور اس کی نقل کردہ حدیث، اہل صدق کی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یحییٰ القطان کہتے ہیں: لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے: سويد ابو حاتم نے ابو یعلیٰ سے احادیث کا سماع کیا ہے اور یہ سويد بن ابراهيم حناط ہے میرے خیال میں یہ عطار ہے اور ایک قول کے مطابق اس کا منسوب ہڈلی ہے۔

صفوان بن عیسیٰ اور موسیٰ بن اسماعیل نے اس سے سماع کیا ہے، ابن عدی نے اس کے حوالے سے چودہ روایات نقل کی ہیں، پھر یہ کہا ہے: ان میں سے بعض روایات ایسی ہیں، جن میں کسی نے اس کی متابعت نہیں کی اور یہ ضعیف ہونے کے زیادہ قریب ہے۔

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے شدت کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ کہا ہے: اس نے ثبوت راویوں

کے حوالے سے موضوع روایات نقل کی ہیں اور یہ وہ شخص ہے جس نے پسو کے بارے میں روایات نقل کی ہے۔
 قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا سب برغوثا فقال: لا تسبه، فانه نبه نبيا من الانبياء
 لصلاة الصبح.

”نبی اکرم ﷺ نے ایک شخص کو پسو کو برا کہتے ہوئے سنا: تو آپ ﷺ نے فرمایا: اسے برا نہ کہو کیونکہ اس نے ایک نبی کو صبح
 کی نماز کے لیے جگایا تھا۔“

یہ روایت حسن بن سفیان نے نصر بن طاہر کے حوالے سے سوید ابو حاتم سے نقل کی ہے۔
 قل (امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: یہ روایت طاہر بن عبادہ نے اس سے نقل کی ہے۔
 ابن ابو حاتم، کتاب ”العلل“ میں فرماتے ہیں: میں نے اپنے والد سے سوید بن ابو حاتم کی سلیمان تیمی، ابو عثمان کے حوالے
 سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کردہ اس روایت کے بارے میں دریافت کیا:

من قرأ يس مره فکانما قرأ القرآن عشر مراد
 ”جو شخص ایک مرتبہ سورہ یسین پڑھتا ہے تو یہ قرآن کو دس مرتبہ پڑھنے کی مانند ہوگا“
 تو انہوں نے یہ جواب دیا: یہ روایت ”منکر“ ہے۔

۳۶۲۵- سوید بن خطاب

اس نے ایاس بن سلمہ سے روایت نقل کی ہے، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے۔

۳۶۲۶- سوید بن سعید (م، ق)، ابو محمد ہروی حدیثی انباری

یہ وہ شخص ہے جس نے نورہ سے متعلق روایت نقل کی ہے اور یہ وہ چیز ہے جو (زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے) ہوتی
 ہے اس کے ذریعے امام مسلم رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے۔

بغوی ابن ناجیہ اور ایک مطلق نے اس سے روایات نقل کی ہیں، یہ علم حدیث کا ماہر اور حافظ تھا، لیکن اس کی عمر زیادہ ہو گئی، تو یہ
 نابینا ہو گیا تو بعض اوقات اسے ایسے کلمات کی تلقین کر دی گئی جو اس کی حدیث کا حصہ نہیں تھے ورنہ اپنی ذات کے اعتبار سے
 یہ سچا ہے اور تحریر بھی اس کی مستند ہے۔

امام ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے، لیکن یہ بکثرت تدلیس کرتا ہے، بغوی کہتے ہیں: یہ حاقتان حدیث میں سے
 ایک ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس پر اس کے بچوں کو چنا ہے۔

ابوزرعہ کہتے ہیں: جہاں تک اس کی تحریرات کا تعلق ہے، تو وہ مستند ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ حدیث

مکر ہے

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: یہ انتہائی ضعیف ہے، ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا ہے: یہ ضعیف ہے، ایک مرتبہ انہوں نے کہا: یہ ضعیف ہے۔ میمون نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا: مجھے صرف بھلائی کا علم ہے، ایک شخص نے ان سے کہا: ایک شخص ان کے پاس ایک تحریر لے کر آیا، جو فضائل کے بارے میں تھی، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلے کر دیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو موخر کر دیا، تو امام ابو عبد اللہ (یعنی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ) اس پر بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا: ہو سکتا ہے یہ کسی اور کے حوالے سے منقول ہو، صالح جزیرہ کہتے ہیں: سوید نامی راوی ’صدوق‘ ہے، البتہ یہ نابینا ہو گیا تھا تو اسے کلمات کی تلقین کر دی جاتی تھی، جو اس کی حدیث کا حصہ نہیں تھے۔

جنیدی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: اس میں غور و فکر کی گنجائش ہے کہ یہ نابینا ہو گیا تھا اور اس کو وہ کلمات تلقین کیے جاتے تھے، جو اس کی حدیث کا حصہ نہیں ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے۔ جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی، تو اس کے سامنے کچھ ایسی روایات پڑھ دی جاتی تھیں، جن میں کچھ منکر ہونا پایا جاتا تھا اور یہ انہیں درست قرار دے دیتا تھا، جہاں تک یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے، تو انہوں نے اسے جھوٹا قرار دیا ہے اور اسے برا بھلا کہا ہے، ابن جوزی نے یہ روایت نقل کی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ’متروک الحدیث‘ ہے۔ اس راوی نے اپنی ’سند‘ کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ ’حدیث‘، نقل کی ہے:

قیل یا رسول اللہ، لو صلیت علی امر سعد، فصلی علیہا بعد شہر، کان غائباً.

”عرض کی گئی: یا رسول اللہ! اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کی نماز جنازہ ادا کر لیں (تو یہ مناسب ہوگا) ابن اکرم رضی اللہ عنہ نے ایک ماہ کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی تھی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس وقت (وہاں) موجود نہیں تھے۔

یہ روایت ایک جماعت نے سوید کے حوالے سے نقل کی ہے جس کی متابعت نہیں کی گئی۔

اس راوی نے اپنی ’سند‘ کے ساتھ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ’حدیث‘، نقل کی ہے:

المہدی من ولد فاطمہ

”مہدی‘ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا“

روایت کے یہ الفاظ ایک جماعت کے سفیان کے حوالے سے نقل کیے ہیں:

یبلک رجل من اهل بيتی یواطیء اسبہ اسمی.

”میرے اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ایک شخص حکمران بنے گا، جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔“

اس روایت کو منجنیقی نے اس کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

اس راوی نے اپنی ’سند‘ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ ’حدیث‘، نقل کی ہے:

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اھدی جملاً لابی بکر .

”نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک اونٹ تحفے کے طور پر دیا“

خطیب کہتے ہیں: اس روایت کو نقل کرنے میں سوید منفرد ہے اس کی متابعت نہیں کی گئی۔

ابن عدی کہتے ہیں: میں نے فریابی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: جب میں نے سوید کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو مجھے کہا گیا: تم پہلے اس سے سوالات کر کے اس کی حقیقت معلوم کر لینا، تم اس سے یہ پوچھنا کہ اس نے عیسیٰ بن یونس سے اس حدیث کا سماع کیا ہے؟ میں اس کے پاس آیا، میں نے اس سے اس بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا: عیسیٰ نے مجھے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

تفترق هذه الامة بضعا وسبعين فرقه، شرها فرقه قوم يقيسون الراى يستحلون - او قال: فيحلون به الحرام ويحرمون به الحلال.

”یہ امت 70 سے زیادہ فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ان میں سب سے بُرا فرقہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رائے کے ذریعے قیاس کریں گے اور اس کے ذریعے حرام کو حلال قرار دیں گے اور حلال کو حرام قرار دیں گے“ (یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کو شک ہے)“

فریابی کہتے ہیں: میرے اور اس کے درمیان بڑی گفتگو ہوئی، ابن عدی کہتے ہیں: یہ نعیم بن حماد کے حوالے سے عیسیٰ سے منقول ہونے کے طور پر معروف ہے، پھر حکم بن مبارک نے بھی اسے روایت کیا ہے یہ بھی گئی ہے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی عیسیٰ کے حوالے سے اس کے منقول ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر عبد الوہاب نے اسے چوری کر لیا اور دوسرا شخص نصر بن طاہر تھا اور تیسرا سوید تھا۔ آگے چل کے ابن عدی کہتے ہیں: سوید نے امام مالک کے حوالے سے ”مَوْطَا“ نقل کی ہے یہ بات بیان کی گئی ہے: اس نے یہ کتاب دیوار کے پیچھے بیٹھ کر سنی تھی، تو امام مالک سے روایت نقل کرنے میں یہ ضعیف ہے اور یہ ضعیف ہونے کے زیادہ قریب ہے، امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے یحییٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: اس کا خون بہانا جائز ہے، حسین بن فہم نے یحییٰ کا یہ قول نقل کیا ہے: اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل نہ کرے۔

ابو بکر اعین سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو وہ بولے: اس کی اچھی حالت تھی اور عمر رسیدہ شخص ہے۔

ابو یعلیٰ بیان کرتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من قال في ديننا برايه فاقتلوه.

”جو شخص ہمارے دین کے بارے میں اپنی رائے کے ذریعے کوئی بات بیان کرے تو اسے قتل کر دو“۔

ابن عدی کہتے ہیں: سوید نے ایک مرتبہ یہ روایت اسحاق بن کحج کے حوالے سے ابن ابورود سے نقل کی تھی، ابن عدی کہتے ہیں: یہ

وہ حدیث ہے جس کے بارے میں یحییٰ نے یہ کہا ہے: اگر مجھے ڈھال اور تلوار مل جائے تو میں سوید انباری کے ساتھ لڑائی کروں گا۔
حاکم کہتے ہیں: سوید کی اس حدیث کو منکر قرار دیا گیا ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ ”جو شخص عشق کرے اور پاک دامن رہے اور اسے چھپا کے رکھے تو وہ شہید ہونے کے عالم میں مرتا ہے“ پھر انہوں نے یہ بات کی: یہ بات کہی گئی ہے: یحییٰ نے جب اس کی اس روایت کا ذکر کیا تو یہ کہا: اگر میرے پاس گھوڑا اور نیزہ ہوتے تو میں سوید کے ساتھ جنگ کرتا۔

ابراہیم بن ابوطالب کہتے ہیں: میں نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا: آپ نے اپنی ”صحیح“ میں سوید کے حوالے سے کیسے روایت نقل کر لی؟ تو انہوں نے کہا: میرے پاس ایک نسخہ حفص بن میسرہ کی طرف سے آیا تھا جس میں یہ روایت تھی کہ اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے):

الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة

”حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں“

یحییٰ بن معین کہتے ہیں: ابو معاویہ سے منقول ہونے کے حوالے سے یہ روایت جھوٹی ہے۔

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: جب میں مصر میں داخل ہوا تو میں نے منجینیقی کی ”مسند“ میں یہ حدیث پائی یہ ایک ثقہ راوی ہے۔ اس نے ابو کریب کے حوالے سے ابو معاویہ سے یہ روایت نقل کی ہے تو اس حوالے سے سوید کی خلاصی ہو جاتی ہے حسن بن سفیان نے ”اربعین“ میں سوید کے حوالے سے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

ما بعث الله نبيا لقوم الا كان فيهم البرجئة والقدرية يشوشون عليه امر امته، ان الله لعنهم على لسان سبعين نبيا.

”جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کسی قوم کی طرف مبعوث کیا تو اس کی قوم میں مرجہ نظریات رکھنے والے لوگ اور قدریہ فرقے کے نظریات رکھنے والے لوگ ہوتے تھے جس کی وجہ سے اپنی امت کے حوالے سے اس نبی کو تشویش ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر ستر انبیاء کی زبانی لعنت کی ہے۔“

ابن عدی کہتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سنن“ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقه، ما انفق الرجل على نفسه واهله فهو صدقه، ما وقى به عرضه فهو صدقه، ما انفق من نفقه فعلى الله خلفها الا ما كان في بنیان او معصية.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: ہر نیکی صدقہ ہے اور آدمی اپنی ذات پر اور اپنی بیوی پر جو خرچ کرتا یہ صدقہ شمار ہوگا اور جس کے ذریعے وہ اپنی عزت کو بچا لیتا ہے وہ صدقہ شمار ہوگا اور جو چیز بھی وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اس کا بدلہ اسے عطا کرے سوائے اس چیز کے جسے وہ تعمیرات کے لیے خرچ کرے یا نافرمانی کے لیے خرچ کرے۔“

یہ روایت انتہائی غریب ہے، لیکن ایک عالی سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے: جابر بن زید کہتے ہیں: میں نے لوگوں کے اعمال کا جائزہ لیا تو یہ بات سامنے آئی کہ نماز، جسم کو مشقت کا شکار کرتی ہے، مال کو مشقت کا شکار نہیں کرتی ہے، روزے کی بھی یہی حالت ہے، لیکن حج، مال اور جسم دونوں کو مشقت کا شکار کرتا ہے، اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ حج ان تمام عبادات سے افضل ہے۔

سوید نامی یہ راوی ایک سو سال تک زندہ رہا تھا اور اس کا انتقال 240 ہجری میں ہوا۔

محمد بن عبدالسلام نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ بیان نقل کیا ہے:

صاحب الذبح اسحاق وقولہ: وبشرناہ باسحاق، ای بنبوته

”حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس صاحبزادے کو ذبح کیا گیا تھا وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان

”ہم نے اسے اسحاق سے متعلق خوشخبری دی“ اس سے مراد یہ ہے: ان کے نبی ہونے کی خوشخبری دی“

اسی سند کے ساتھ یہ روایت بھی منقول ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابایعہ فقلت: انی علی دین، انی ترکت دینی، دخلت فی دینک، لا

یعذبنی اللہ فی الآخرہ؟ قال: نعم.

”میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا، میں نے عرض کی: پہلے میں ایک اور دین پر تھا اب

میں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو رہا ہوں، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں عذاب نہیں دے

گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جی ہاں!“

اسی سند کے ساتھ یہ روایت بھی منقول ہے، عبید بن ابوجعد بیان کرتے ہیں:

سئل جابر عن قتال علی رضی اللہ عنہ: ما یشک فی قتالہ الا کافر.

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو وہ بولے: ان کے ساتھ

جنگ کرنے کے بارے میں صرف کوئی کافر ہی شک کرے گا“

اسی سند کے ساتھ یہ روایت بھی منقول ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انا مدینہ العلم، علی بابها، فمن اراد المدینہ فلیات باب

المدینہ

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جو شخص شہر میں آنا چاہتا ہو وہ شہر کے دروازے

پر آئے۔“

۳۶۲- سوید بن سعید دقاق

اس کی شناخت نہیں ہو سکی اس نے علی بن عاصم کے حوالے سے ایک منکر روایت نقل کی ہے، یہ بات ابن جوزی نے بیان کی ہے۔

۳۶۲۸- سوید بن عبدعزیز (ت، ق) دمشق

یہ بعلبک کا قاضی تھا اصل میں یہ ”واسط“ کا رہنے والا تھا، یحییٰ بن معین کہتے ہیں: یہ دمشق میں عیسائیوں کا قاضی تھا یہ واسط کا رہنے والا تھا، پھر یہ حمص منتقل ہو گیا، اس کی نقل کردہ حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ روایت عباس دوری نے یحییٰ کے حوالے سے نقل کی ہے لیکن ابن دورتی نے ان سے یہ روایت نقل کی ہے: یہ واسط کا رہنے والا تھا اور پھر دمشق منتقل ہو گیا تھا یہ راوی کوئی چیز نہیں ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ بعض روایات میں غور و فکر کی گنجائش ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات یہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت بھی نقل کی گئی ہے: یہ ”متروک“ ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

لا اعافی رجلا قتل بعد عفوہ واخذہ الدیہ.

”میں ایسے شخص کو معاف نہیں کروں گا جو (اپنے مقتول عزیز کے قاتل کو) معاف کر دینے کے بعد اور دیت وصول کر لینے کے بعد (قاتل کو) قتل کرتا ہے۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

کل مال وان کان تحت سبع ارضین تؤدی زکاتہ فلیس بکنز، کل مال لا تؤدی زکاتہ وان کان ظاہرا فهو کنز.

”ہر وہ مال اگر چہ وہ سات زمینوں کے نیچے ہو، اگر اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے، تو وہ ”کنز“ شمار نہیں ہوگا، اور ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو، اگر چہ ظاہری طور پر موجود ہو، پھر بھی وہ ”کنز“ شمار ہوگا۔“

درست یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

ان فی جہنم دحا تطحن علماء السوء طحنا.
”جہنم میں ایک چکی ہے جو علمائے سوء کو پیس دے گی۔“

ابن عدی کہتے ہیں: یہ روایت نقل کرنے میں سوید بن عبدالعزیز نامی راوی منفرد ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سقط عن فرس فجحش

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔“

یہ روایت سند کے اعتبار سے منکر ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے سوید پر تنقید کی ہے اور آخر میں یہ کہا ہے: یہ وہ شخص ہے جس کے بارے

میں، میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا، کیونکہ یہ ثقہ لوگوں کے قریب ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: ہرگز نہیں! بلکہ یہ تو انتہائی ”واہی“ راوی ہے

ابونعیم حلبی بیان کرتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيس.

”نبی اکرم ﷺ نے ہالی کو اس وقت تک فروخت کرنے سے منع کیا ہے جب تک وہ خشک نہیں ہو جاتی“

امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ نہیں ہے امام ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ ”لین“ ہے امام دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس کا اعتبار کیا جائے گا، اس کی پیدائش 108 ہجری میں ہوئی تھی اور اس کا انتقال 194 ہجری میں ہوا۔

۳۶۲۹- سوید بن عمرو (م، ت، س، ق) کلبی، ابوولید، کوفی

اس نے حماد بن سلمہ اور شریک سے، جب کہ اس سے ابن نمیر اور ابوشیبہ کے دونوں صاحبزادوں نے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین اور دیگر حضرات نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

جہاں تک ابن حبان رحمہ اللہ کا تعلق ہے، تو انہوں نے اس کے بارے میں زیادتی کرتے ہوئے جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے: یہ اسانید کو الٹ پلٹ دیتا تھا اور یہ مستند سندوں کو واہی متون کے ساتھ ملا کر ایجاد کرتا تھا۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

احب حبیبك هونا ما

”تم اپنے محبوب سے محبت رکھو، خواہ وہ کتنا ہی کم تر حیثیت کا مالک کیوں نہ ہو۔“

یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

احمد بن عبد اللہ عمالی کہتے ہیں: یہ کوفہ کا رہنے والا ہے اور ثبت ہے، یہ نیک اور عبادت گزار شخص تھا۔

۳۶۳۰- سوید بن قیس (و، س، ق)، مصری

اس نے زہیر بلوی سے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت نہیں ہو سکی، یزید بن ابوصیب اس سے روایت کرنے میں منفرد ہے، تاہم امام نسائی رحمہ اللہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

۳۶۳۱- سوید بن وہب (د)

یہ تابعی ہے ابن عجلان کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایت نقل نہیں کی۔

(سويدہ)

۳۶۳۲- سويدہ بنت جابر (د)

اس کی شناخت نہیں ہو سکی، جس طرح اس کی والدہ کی اور جس نے ان سے نقل روایت کی ہے، ان کی شناخت نہیں ہو سکی۔

اس خاتون نے اپنی سند کے ساتھ حضرت مضر بن جندب کا یہ بیان نقل کیا ہے:

بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من سبق الى شيء فهو له، فخرج الناس يتعادون يتخاطون.
 ”میں نے نبی اکرم ﷺ کے دستِ اقدس پر بیعت کی، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص جس چیز تک پہنچ جائے وہ اسے ملے گی، تو لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہوئے اور ایک دوسرے کو پھلانگتے ہوئے نکلے۔“

میں نے یہ روایت حافظ ابوالحجاج کے حوالے سے سنی ہے، جو انہوں نے اپنی سند کے ساتھ ان راویوں کے حوالے سے نقل کی ہے۔

(سیار)

۳۶۳۳- سیار بن حاتم (ق، ت، س) عنزی بصری

یہ صالح الحدیث ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

عبید اللہ قواریری کہتے ہیں: اسے عقل نہیں تھی، یہ میرے ساتھ دکان میں تھا، قواریری سے دریافت کیا گیا: کیا آپ اس پر الزام عائد کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

حاکم کہتے ہیں: سیار اپنے زمانے کا بڑا عبادت گزار شخص تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بکثرت روایات نقل کیں ہیں، ازدی کہتے ہیں: اس کے حوالے سے منکر روایات منقول ہیں۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ جعفر بن سلیمان سے روایات نقل کرنے والا شخص ہے، اس کا انتقال 200 ہجری میں یا اس سے ایک سال پہلے ہوا تھا۔

۳۶۳۴- سیار بن مغرور

اس کے باپ کے نام کے بارے میں اختلاف ہے، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے: اس کے باپ کا نام مغرور ہے، ابن مدینی کہتے ہیں: یہ مجہول ہے، سماک بن حرب اس سے روایات نقل کرنے میں منفرد ہے۔

اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے بھی روایات نقل کی ہیں، یہ ”صدوق“ ہے۔

۳۶۳۵- سیار بن ابو منصور

(یا شاید) منظور، اس نے واکلہ سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے

(سیدان، سید)

۳۶۳۶- سیدان بن مضارب (خ) بابلی

اس نے حماد بن زید سے جب کہ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایات نقل کی ہیں، یہ ”صدوق“ ہے، ازدی کہتے ہیں: محدثین نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ایک عمر رسیدہ شخص ہے اور ”صدوق“ ہے، یہ بات بیان کی گئی ہے اس کا انتقال 224 ہجری میں ہوا۔

۳۶۳۷- سید بن شماس بصری

یہ پتا نہیں چل سکا کہ یہ کون ہے، محدثین کے اس کے بارے میں کلام کیا ہے، ازدی کہتے ہیں: محدثین نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے، یہ سید بن شماس السمان ہے۔

اس نے عطاء سے سوالات کیے ہیں اور ابن سیرین سے سماع کیا ہے، جب کہ موسیٰ بن اسماعیل نے اس سے سماع کیا ہے۔

۳۶۳۸- سید بن عیسیٰ کوفی

اس نے ابواسحاق سے اور اس سے نفسی، ابوسعیدان شح نے اس سے روایات نقل کی ہیں، ازدی کہتے ہیں: یہ اتنے پائے کا نہیں ہے

(سویہ، سیف)

۳۶۳۹- سویہ

یہ موسیٰ اسواری کی والدہ کا شوہر ہے (یعنی یہ موسیٰ کا سوتیلا باپ ہے۔) یہ مجہول ہے۔

۳۶۴۰- سیف بن ابوزیاد

یہ مروان فزاری کے مشائخ میں سے ہے اور مجہول ہے، اس کا استاد ابو بکر بھی مجہول ہے۔

۳۶۴۱- (صح) سیف بن سلیمان (خ، م) کلمی

یہ تقدراویوں میں سے ایک ہے

اس نے مجاہد اور دیگر حضرات سے جب کہ اس سے ابو نعیم اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین کہتے ہیں: یہ قدریہ

فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یحییٰ القطان نے سیف سے بعض رکھنے کے باوجود اس کے حوالے سے روایات نقل

کی ہیں۔

جہاں تک ابن عدی کا تعلق ہے تو انہوں نے اس کا ذکر ”الکامل“ میں کیا ہے اور اس کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

قضی بیبین وشاہد.

”نبی اکرم ﷺ نے ایک قسم اور ایک گواہ کی بنیاد پر فیصلہ دے دیا تھا۔“

عباس نے یحییٰ بن معین سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے: یہ محفوظ نہیں ہے کیونکہ سیف نامی راوی ”قدریہ“ فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔

میں یہ کہتا ہوں امام عبدالرزاق نے بھی یہ روایت محمد بن مسلم طائفی کے حوالے سے عمرو سے نقل کی ہے جب کہ داؤد عطار کے حوالے سے عمرو کے حوالے سے بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے۔

پھر ابن عدی نے یہ کہا ہے: مجھے یہ امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے۔

علی نے یحییٰ بن سعید کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ہمارے نزدیک ان مثبت راویوں میں سے ایک ہے جو صدوق ہیں اور جو حافظ حدیث ہیں امام نسائی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: یہ ثقہ اور مثبت ہے۔

۳۶۴۲- سیف بن عمر (ت) ضعیفی اسیدی

ایک قول کے مطابق اس کا اسم منسوب تمیمی برجی ہے اور ایک قول کے مطابق سعدی کوئی ہے یہ شخص ”الفتوح“ اور ”الردۃ“ نامی کتابوں اور دیگر کتابوں کا مصنف ہے یہ واقفی کی طرح ہے۔

یری عن

اس نے ہشام بن عروہ، عبید اللہ بن عمر، جابر جعفی اور بہت سے مجہول لوگوں سے روایات نقل کی ہیں یہ روایات نقل کرنے والا شخص ہے اور عارف ہے۔

جبارہ بن مغلس، ابو معمر قطعی، نضر بن حماد عتکی اور جماعت نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

عباس نے یحییٰ کا یہ قول نقل نہیں کیا ہے: یہ ضعیف ہے، مطین نے یحییٰ کا یہ قول نقل کیا ہے: ایک نکاس سے زیادہ بہتر ہے۔

امام ابو داؤد رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے امام ابو حاتم رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے امام ابن حبان رضی اللہ عنہما کہتے

ہیں: اس پر زندقہ ہونے کا الزام ہے ابن عدی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ زیادہ تر روایات منکر ہیں۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرعرض نفسه علی القبائل بکھ یعدھم الظهور، فاذا قالوا:

لمن الملك بعدک؟ امسک، لانه لم یؤمر فی ذلک بشیء، حتی نزلت وانه لذكر لك ولقومك (الخراف: ۴۴).

فکان بعد اذا سئل قال لقریش فلا یجیبونہ حتی قبلتہ الانصار.

”نبی اکرم ﷺ مکہ مکرمہ میں مختلف قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور ان کے ساتھ یہ وعدہ کرتے تھے کہ ان کو غلبہ حاصل ہوگا، تو وہ لوگ یہ کہتے تھے: آپ ﷺ کے بعد حکومت کسے ملے گی، تو آپ ﷺ کوئی جواب نہیں دیتے تھے، کیونکہ آپ ﷺ کو اس بارے میں کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی

”یشک یہ تمہارے لیے اور تمہارے قوم کے لیے نصیحت ہے“

تو اس کے بعد جب بھی نبی اکرم ﷺ سے یہ سوال کیا گیا، تو آپ ﷺ یہ فرماتے تھے: یہ قریش کو ملے گی۔ وہ آپ ﷺ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، مگر یہ کہ انصاری نے اسے قبول کر لیا۔“

مکحول بیروتی نے اپنی سند کے ساتھ ابن نمیر کا یہ بیان نقل کیا ہے: سیف ضعی تمیمی ہے، جمع یہ کہتے ہیں: یہ بنو تمیم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا اور احادیث ایجاد کرتا تھا اور اس پر زندقہ ہونے کا الزام ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الذين يسبون اصحابي فالعنوهم.

”نبی اکرم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے: جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کو برا کہتے ہیں، تو تم ان پر لعنت کرو“

یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے اور یہ کہا ہے: یہ حدیث منکر ہے۔

سیف کا انتقال رشید کے زمانے میں ہوا تھا۔

۳۶۲۳- سیف بن عمیرہ۔

اس نے ابان بن تغلبہ اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، یہ کوئی ہے، ازدی کہتے ہیں: محدثین نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے، اس سے اس کے بیٹے علی بن سیف، جعفر بن علی جریری نے روایات نقل کی ہیں۔

۳۶۲۴- سیف بن محمد (ت) کوفی

یہ سفیان ثوری کا بھانجا ہے، اس نے عاصم احول، اعمش اور ایک گروہ سے، جب کہ اس سے محمود بن خدش، احمد بن ابوشریح اور ایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں۔

عبداللہ بن احمد نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے: یہ کذاب ہے، عثمان بن سعید نے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا یہ بیان نقل کیا ہے، یہ کذاب اور خبیث ہے، یہ یہاں ہوا کرتا تھا، امام ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس کی احادیث کونوٹ نہیں کیا جائے گا۔

یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا یہ قول بھی نقل کیا گیا ہے: یہ کذاب ہے، جب کہ اس کا بھائی عمار ثقہ ہے، امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا ہے: ”متروک“ ہے اور ”ثقہ“ نہیں ہے، امام دارقطنی رحمہ اللہ اور دیگر حضرات یہ کہتے ہیں: ”متروک“ ہے،

جو زبانی کہتے ہیں: سیف اور عمار دونوں سفیان ثوری کے بھانجے ہیں، دونوں قوی نہیں ہیں اور نہ ہی قریب ہیں۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

بینا انا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حیز لابی طالب نصلی اذا اشرف علینا - یعنی ابا طالب - فبصر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: یا عم، الاتنزل فتصلی معنا؟ فقال: یا بن اخی، انی لاعلم انک علی الحق، لکنی اکره ان اسجد فتعلونی استی، لکن انزل یا جعفر فصل جناح ابن عمک. فنزل جعفر فصلی عن یسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلما قضی صلاته قال: اما ان اللہ قد وصلک بجناحین تطیر بهما فی الجنه، کما وصلت جناح ابن عمک.

”ایک مرتبہ میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ جناب ابوطالب کی ایک عمارت میں نماز ادا کر رہا تھا اس دوران جناب ابوطالب وہاں تشریف لے آئے جب نبی اکرم ﷺ نے انہیں دیکھا تو بولے: اے چچا جان! کیا آپ ہمارے ساتھ آکر نماز ادا نہیں کریں گے؟ انہوں نے فرمایا: اے میرے بھتیجے! میں یہ جانتا ہوں کہ تم حق پر ہو، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں سجدے میں جاؤں اور اور میرے سرین اوپر ہو جائیں، اے جعفر! تم نیچے اترو اور اپنے چچا زاد کے پہلو میں نماز ادا کرو، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نیچے آئے اور انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے بائیں طرف کھڑے ہو کر نماز ادا کی، جب نبی اکرم ﷺ نے نماز مکمل کر لی تو فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو پر عطا کرنے میں، جن کے ذریعے تم جنت میں اڑتے پھر گئے، جس طرح تم نے اپنے چچا زاد کے پہلو میں نماز ادا کی ہے۔“

ابن عدی کہتے ہیں: ثوری سے منقول ہونے کے حوالے سے یہ روایت جھوٹی ہے۔
اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے:

عن ابو عثمان، عن جریر بن عبد اللہ - وکنت معہ بالبوازیج، قال: فرکض دابته، رکضت انا، فقلت: یا ابا عبد اللہ، لای شیء رکضت؟ قال: هذا المكان الذی یخسف به، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: تبنی مدینہ یجتمع فیها جبابره اهل الارض یخسف بها، فلهی فی الارض اشد ذهابا من السکة توتد فی الارض.

”ابو عثمان، حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں ان کے ساتھ ”بوازیج“ کے مقام پر موجود تھا، ان کی سواری کو ٹھوکری لگی، تو میں بھی گر گیا، میں نے کہا: اے ابو عبد اللہ! یہ کس چیز سے ٹھوکری لگی ہے؟ تو وہ بولے: یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین میں دھنسا یا جائے گا، میں نے نبی اکرم ﷺ کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: ایک شہر تعمیر ہوگا، جس میں روئے زمین کے بڑے بڑے ظالم لوگ اکٹھے ہونگے اور انہیں وہاں دھنسا دیا جائے گا اور یہ سرزمین چلنے کے اعتبار سے سیدھے راستے سے زیادہ دشوار گزار ہوگی۔ جس میں پاؤں دھنتے ہوں گے۔“
امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس روایت میں اس کی متابعت نہیں کی گئی۔

سیف بن مسکین ۳۶۳۵

اس نے سعید بن ابوعروہ سے روایات نقل کی ہیں، یہ بصری بزرگ ہے، اس نے مقلوب روایات نقل کی ہیں اور موضوع

روایات نقل کی ہیں یہ بات ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

ان اللہ اذا اطعم نبیا طعمه ثم قبضه كانت للذی یلی الامر من بعده
 ”بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے پھر اس کی روح کو قبض کرتا ہے تو وہ نعمتیں اس شخص کے لیے ہو جاتی ہیں جو اس کے بعد مسلمانوں کا امیر بنتا ہے۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

قال: خذ عنی کذا، خرجت فی طلب العلم فقدمت الکوفہ، فاذا انا بآبن مسعود، فقلت له: هل
 للساعه من علم یعرف؟ قال: سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، فقال: من اعلام
 الساعه ان یکون الولد غیظا، البطر قیظا، یفیض الاشرار فیضا، یرصد الکاذب، یکذب الصادق،
 یؤتمن الخائن، یخون الامین، یسود کل امه منافقوها، کل سوق فجارها، تزخر بالمحاریب،
 تخرب القلوب، یرکفی النساء بالنساء، الرجال بالرجال، تخرب عبارہ الدنیا، یعمر خرابها،
 تظهر الغیبہ، اکل الربا، تظهر المعازف والکبول، یشرب الخمر، تکثر الشرط والغمازون
 والہمازون.

”انہوں نے فرمایا: تم مجھ سے اتنا کچھ حاصل کرو کیونکہ میں نے علم کی تلاش میں کوفہ کا سفر کیا، وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ موجود تھے میں نے ان سے کہا: کیا قیامت کے بارے میں کوئی ایسی بات ہے جس کی شناخت ہو سکے (یا کوئی نشانی ہے؟) انہوں نے فرمایا: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا: قیامت کی نشانیوں میں یہ بات شامل ہے کہ بچہ غصے والا ہوگا، بارش مسلسل ہوگی، برے لوگ پھیل جائیں گے، جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا اور سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امین مقرر کیا جائے گا اور امین شخص خیانت کا مرتکب ہوگا، ہر گروہ اپنے منافع کو سردار بنائے گا ہر بازار گناہ گاروں سے بھرا ہوا ہوگا، محرابوں کو سجالیا جائے گا، دل خراب ہو جائیں گے، عورتیں، عورتوں پر اور مرد، مردوں پر اکتفاء کریں گے دنیا کی آبادی خراب ہو جائے گی اور اس کی خرابی ہی اس کی آبادی ہوگی، غیبت عام ہو جائے گی، سود کھایا جائے گا، آلات موسیقی عام ہو جائیں گے، شراب پی جائے گی، رذیل غیبت کرنے اور عیب لگانے والے لوگوں کی کثرت ہو جائے گی۔“

۳۶۴۶- سیف بن منیر

اس نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے۔

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے، کیونکہ اس راوی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت

”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

لا تکفروا اهل ملتی وان عملوا الکبائر

”میرے اہل ملت کو کافر قرار نہ دو اگرچہ انہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہو“

لیکن یہ مکرم بن حکیم کی نقل کردہ روایت ہے جو اس سے نقل کرنے والوں میں سے ایک ضعیف راوی ہے۔

۳۶۲۷- سیف بن ابو مغیرہ

اس نے مجالد سے روایات نقل کی ہیں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے محبوب بن محرز نے

اس سے روایات نقل کی ہیں ازدی کہتے ہیں: یہ ضعیف اور مجہول ہے اس کی نقل کردہ حدیث کو نوٹ نہیں کیا جائے گا۔

۳۶۲۸- سیف بن ہارون برجمی کوفی

اس نے اسماعیل بن ابو خالد، سلیمان تمیمی سے روایات نقل کی ہیں۔

یحییٰ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے ایک مرتبہ انہوں نے کہا: یہ اتنے پائے کا نہیں ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور دارقطنی کہتے

ہیں: یہ ضعیف ہے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس نے ثبت راویوں کے حوالے سے موضوع روایات نقل کی ہیں۔

ابن عدی کہتے ہیں: ابو العلاء کوفی، محمد بن صباح دولابی کا یہ قول نقل کیا ہے انہوں نے سیف بن ہارون کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات

بیان کی: اس نے اپنے گھر میں ایک قبر کھودی ہوئی تھی وہ روزانہ اس میں داخل ہوتا تھا اور پھر کہتا تھا: میرے اوپر مٹی ڈالو اور پھر وہ چیختا تھا

: مجھے واپس لے جاؤ تا کہ شاید میں وہ نیک عمل کر لوں جو میں نے نہیں کیا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے سلیمان تمیمی کے حوالے سے اس کی

سند کے ساتھ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے۔

سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن السنن و (عن) الجین وعن الفراء ، فقال: الحلال ما احل الله في

کتابہ، الحرام ما حرم الله في کتابہ، ما سکت عنه فهو مما عفا عنه.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چربی سے تیار شدہ گھی پینے اور جانور کی کھال سے بنی ہوئی پوستین کے استعمال کے بارے میں سوال کیا

گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حلال وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا اور حرام وہ چیز ہے جسے

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے اور جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا تو یہ ان چیزوں میں

شامل ہوگی جن سے اس نے درگزر کیا ہے“

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ روایت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ”مرسل“ روایت کے طور پر منقول ہے۔

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: سیف، ضعیف اور متروک ہے۔

۳۶۲۹- سیف بن ہارون

یہ ایک عمر رسیدہ شخص ہے جس نے شعبہ کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے ایک قول کے

مطابق اس کا نام سیف بن وہب ہے۔

۳۶۵۰- سیف بن وہب

اس نے ابو طفیل سے روایات نقل کی ہیں۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں: یہ ہلاکت کا شکار ہونے والا ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔

شعبہ نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے شرمگاہیں ملنے کی صورت میں غسل لازم ہونے کی روایت نقل کی ہے۔

ابن حبان رضی اللہ عنہ نے اس کا تذکرہ ”الثقات“ میں کیا ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔

۳۶۵۱- سیف، شامی (د)

اس کی شناخت نہیں ہو سکی، خالد بن معدان اس سے روایت نقل کرنے میں منفر د ہے۔

۳۶۵۲- سیف آمدی

یہ علم کلام کا ماہر ہے اور اس نے کئی تصانیف کی ہیں، علی بن ابی علی ہے، اسے اس کے غلط عقیدے کی وجہ سے دمشق سے جلا وطن کر دیا گیا تھا، اس کے بارے میں، یہ بات مستند طور پر ثابت ہے کہ اس نے نماز پڑھنا ترک کر دیا تھا، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ویسے یہ بہت سمجھدار تھا، اس کا انتقال 630 ہجری میں ہوا۔

﴿ حرف الشین ﴾

(شاذان، شاذ، شاہ)

۳۶۵۳- شاذان

یہ نضر بن سلمہ ہے جس کا ذکر ”نون“ سے متعلق باب میں آئے گا۔

۳۶۵۴- شاذ بن فیاض (دہس)

اس کا نام ہلال ہے اس کا ذکر ”ہا“ سے متعلق باب میں آئے گا، یہ ”صدوق“ ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقف“ قرار دیا ہے۔

۳۶۵۵- شاہ بن شیر بامیان اخراسانی

اس نے قتیبہ بن سعید سے روایات نقل کی ہیں اس پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ یہ احادیث ایجاد کرتا تھا، اس کے حوالے سے سیاہ رنگ پہننے کے بارے میں روایت منقول ہے، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ احادیث ایجاد کرتا تھا۔

(شاہین، شباب)

۳۶۵۶- شاہین بن حیان،

یہ فہد کا بھائی ہے، رجا بن محمد بصری نے اس سے روایات نقل کی ہیں، ابن ابو حاتم کہتے ہیں: میں نے اپنے والد سے اس کے بارے میں دریافت کیا، تو وہ بولے: یہ ضعیف الحدیث ہے۔

۳۶۵۷- شباب بن العلاء.

اس نے حماد بن زید سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

(شبابہ)

۳۶۵۸- (صح) شبابہ بن سوار (ع) مدائنی

یہ ”صدوق“ ہے اور علم الحدیث کا بڑا ماہر ہے لیکن اس میں بدعتی نظریات پائے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”ارجاء“ کے عقیدے کی طرف دعوت دیا کرتا تھا امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا، لیکن یہ ”صدوق“ ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: اس کی کنیت ابو عمرو ہے اور ایک قول کے مطابق اس کا نام ”مروان“ ہے اور اس کا لقب ”شبابہ“ ہے۔ احمد بن ابویحییٰ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں: میں نے ”ارجاء“ کے نظریات کی وجہ سے شبابہ کو ترک کر دیا تھا ان سے کہا گیا: ابو معاویہ بھی تو ارجاء کا عقیدہ رکھتا تھا انہوں نے جواب دیا: شبابہ اس نظریے کا داعی تھا۔ عثمان بن سعید بیان کرتے ہیں: میں نے یحییٰ بن معین سے کہا: شبابہ نے شعبہ سے جو روایات نقل کی ہیں (ان کا کیا حکم ہے؟) انہوں نے جواب دیا: ثقہ ہے۔

ابن مدینی کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے البتہ یہ ارجاء کا عقیدہ رکھتا تھا اور جس نے ہزاروں روایات سنی ہوں وہ اگر کوئی غریب روایت نقل کر دے تو اسے منکر قرار نہیں دیا جائے گا۔

شبابہ نامی اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبدالرحمن بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے زنا کرنے سے متعلق حدیث نقل کی ہے۔ ابو زرہ کہتے ہیں: شبابہ نے ارجاء کے عقیدے سے رجوع کر لیا تھا اس نے اپنی سند کے ساتھ ابو ادریس خولانی کا یہ بیان نقل کیا ہے:

كان عند ابي بن كعب ناس من اهل اليمن يقرئهم، فجاءت رجلا منهم اقواس من اهلهم، فغضب ابي قوسا فاعجبته، فقال الرجل: اقسيت عليك الا تسليحتها في سبيل الله. فقال: لا، حتى اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اتحب ان تاتي الله بها في عنقك يوم القيامة نارا
”ایک مرتبہ اہل یمن سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ حضرت ابی بن کعب کے پاس موجود تھے حضرت ابی انہیں قرأت سکھا رہے تھے اہل یمن کا ایک شخص اپنے گھر والوں کی تمواریں لے کے آیا حضرت ابی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ایک تموار کو دیکھا تو وہ انہیں اچھی لگی اس شخص نے کہا: میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ اسے اللہ کی راہ میں اسلحہ کے طور پر استعمال کریں گے تو انہوں نے جواب دیا: جی نہیں، جب تک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت نہیں کر لیتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم قیامت کے دن اسے اپنی گردن میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آؤ تو یہ آگ کی بنی ہوئی ہو“

یہ روایت ”مرسل“ ہے اس کی سند عمدہ ہے لیکن غریب ہے شبابہ نامی راوی سے اسلامی کتب میں استدلال کیا گیا ہے اور یہ ثقہ ہے۔

(شبث، شبلی)

۳۶۵۹- شبث بن ربیع (د)

اس راوی نے اپنی "سند" کے ساتھ حضرت علیؓ کے حوالے سے یہ روایت "مرفوع" حدیث کے طور پر نقل کی ہے جو تسبیح اور تکبیر پڑھنے کے بارے میں ہے امام بخاریؒ نے اس کا ذکر "کتاب الضعفاء" میں کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں: محمد بن کعب نے اس سے روایات نقل کی ہیں اور یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ ہمارے علم کے مطابق اس نے شبث نامی راوی سے سماع نہیں کیا۔

ازدی کہتے ہیں: یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے حرور یہ کو حرور یہ بنایا، لیکن اس میں بھی غور و فکر کی گنجائش ہے (امام ذہبیؒ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس نے خارجیوں سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور توبہ کی تھی اور نیکو کار بن گیا تھا۔
سلیمان تیمی نے انس کا یہ بیان نقل کیا ہے: شبث یہ کہتا ہے: میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے حرور یہ (فرقے کے لوگوں کو) اس فرقے کی طرف مائل کیا تھا۔

۳۶۶۰- شبلی بن علاء بن عبد الرحمن

عن ابیہ، عن جدہ، عن ابی ہریرہ۔ اس راوی نے اپنے والد اور دادا کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہؓ کے حوالے سے یہ روایت "مرفوع" حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

إذا اراد احدکم امرًا فليقل اللهم اني استخیرک بعلمک ... الحدیث.

"جب کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو اسے یہ پڑھنا چاہیے: "اے اللہ تعالیٰ! میں تیرے علم کے مطابق تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں"

ابن عدی کہتے ہیں: اس نے منکر روایات نقل کی ہیں۔

(شبویہ، شبیل)

۳۶۶۱- شبویہ

اس نے عبد اللہ بن مبارک سے روایت نقل کی ہے اور ایک منکر حدیث نقل کی ہے یہ بات عقلی نے نقل کی ہے۔

۳۶۶۲- شبیب بن بشر (ت، ق) بجلی بصری

بجلی بن معین نے اسے "ثقة" قرار دیا ہے، اس کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے جو حضرت انسؓ سے منقول ہے

ابو عاصم اور ایک جماعت نے اس سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات یہ کہتے ہیں: ”لیکن الحدیث“ ہے۔

۳۶۶۳- شیبہ بن سعید (خ، س) حطلی بصری

یہ ”صدوق“ ہے، لیکن غریب روایات نقل کرتا ہے، ابن عدی نے اس کا تذکرہ اپنی ”الکامل“ میں کیا ہے اور یہ کہا ہے: اس نے یونس بن یزید کے حوالے سے ایک نسخہ نقل کیا ہے، جو مستقیم ہے۔ ابن وہب نے اس کے حوالے سے کچھ منکر روایات نقل کی ہیں، ابن مدینی کہتے ہیں: شیبہ بن سعید نامی راوی ثقہ ہے، یہ تجارت کے سلسلے میں مصر آیا جایا کرتا تھا اور اس کی مرتب کردہ کتاب مستند ہے، ہم نے وہ کتاب اس کے بیٹے احمد کے حوالے سے نوٹ کی ہے، ابن وہب نے اس کے حوالے سے ہر روایت نقل کی ہے، جو اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عکیم کے حوالے سے (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کے فرمان کے طور پر نقل کی ہے:

لا تتنفعوا من البیتة باہاب ولا عصب.

”مردار کی کھال یا پٹھوں سے نفع حاصل نہ کرو“

ابن عدی کہتے ہیں: شیبہ نامی راوی غلط فہمی کا شکار ہوتا تھا اور وہ ہم کا شکار ہوتا تھا، اس وقت جب وہ اپنے حافظے کی بنیاد پر احادیث بیان کرتا تھا، مجھے یہ امید ہے کہ یہ جان بوجھ کر غلط بیانی نہیں کرتا تھا، جب اس کا بیٹا احمد اس کے حوالے سے یونس کی روایات نقل کرے تو پھر وہ شیبہ نامی شخص کوئی دوسرا ہوگا، یعنی وہ عمدہ ہوگا۔

۳۶۶۴- شیبہ بن سلیم

اس نے حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، اس سے فلاس نے روایات نقل کی ہیں اور فلاس اور محمد بن ثنی نے اس پر تنقید کی ہے، ایک قول کے مطابق اس کا نام شیبہ بن سلیمان ہے۔

۳۶۶۵- شیبہ بن شیبہ (ت)

(اس کی کنیت اور اسم منسوب) ابو معمر تمیمی مقبری بصری ہے، یہ خطیب اور مبلغ شخص تھا، عبداللہ بن مبارک سے کہا گیا: یہ تو حکمرانوں کے پاس آتا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا: اس کے حوالے سے احادیث بیان کرو، کیونکہ یہ اس سے زیادہ معزز ہے کہ اسے جھوٹا قرار دیا جائے۔

شیبہ بن شیبہ کہتے ہیں: میں نے ابن سیرین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: کلام اس سے زیادہ وسیع ہے کہ کسی معزز شخص کو جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے۔

کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فجاءہ رجل من الانصار فقال: ان ابنا لی دب من سطح الی میزاب فادع اللہ ان یرہبہ لابویہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: قوموا. قال جابر: فنظرت الی

امر هائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا له صبيا على السطح، فوضعوا له صبيا، فناغاه ثم ناغاه، فذب الصبي حتى اخذه ابوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرؤن ما قال (له)؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: لم تلقى نفسك فتتلفها؟ قال: انى اخاف الذنوب. قال: فلعل العصبة ان تلحقك.

”ایک مرتبہ ہم نبی اکرم ﷺ کے پاس موجود تھے ایک انصاری آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کی: میرا بیٹا چھت پر پرنا لے کی طرف سے گر گیا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ اس کے ماں باپ کو وہ بہہ کر دے (یعنی اسے دوبارہ زندہ کر دے) تو نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم لوگ اٹھو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے اس ہولناک صورت حال کا جائزہ لیا تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اس بچے کو چھت پر رکھو ان لوگوں نے اس کے بچے کو رکھا اور بچے سے دل پسند بات کی اور پھر دوبارہ بات کی تو وہ بچہ گرا یہاں تک کہ اس کے باپ نے اسے پکڑ لیا تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ اس نے اس سے کیا کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کی: اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: (اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے:) میں تمہاری جان کو کیوں لوٹاؤں کہ تم اس کو ضائع کرو؟ تو اس نے کہا: مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میں گناہ کروں گا تو اس نے کہا: ہو سکتا ہے کہ اگر یہ تمہیں مل جائے تو یہ قسمت کا باعث ہو۔

ابن عدی کہتے ہیں: میں نے یہ روایت صرف حسین بن عبد اللہ کے حوالے سے نوٹ کی ہے اور انہوں نے اسے یاد رکھا ہوتا ہے یہ روایت ”مرسل“ ہے اس کی سند عمدہ ہے لیکن غریب ہے۔

عباس نے یحییٰ کا یہ قول نقل کیا ہے: شبیب ”ثقف“ نہیں ہے امام نسائی رحمہ اللہ اور امام دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے امام ابو زرہ رحمہ اللہ اور ابو حاتم کہتے ہیں: یہ ”قوی“ نہیں ہے صالح جزرہ کہتے ہیں: یہ ”صالح الحدیث“ ہے ساجی کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے لیکن وہ ہم کا شکار ہو جاتا ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے۔

۳۶۶- شبیب بن عبد الملک (وہس) تمیمی بصری

شاید یہ خراسانی ہے اس نے مقاتل بن حیان کے حوالے سے اس کی ”تفسیر“ نقل کی ہے اس نے خارجہ بن مصعب سے بھی روایات نقل کی ہیں جب کہ معتمر نے اس سے روایت نقل کی ہیں جو عمر میں اس سے بڑے ہیں امام ابو زرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے۔ امام ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ بصرہ سے تعلق رکھنے والا عمر رسیدہ شخص ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے میرے علم میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس نے اس سے روایات نقل کی ہو، صرف معتمر نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔ (امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس کی شناخت حاصل نہیں ہو سکی۔

۳۶۷- شبیب بن مہران عبدی

اس نے قتادہ سے اور اس سے معلیٰ بن اسد اور ابراہیم بن حجاج نے روایات نقل کی ہیں ابن ابو حاتم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے

اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے۔

حافظ سیف بن مجد کہتے ہیں: اس کے بارے میں کچھ کیا گیا ہے۔

۳۶۶۸۔ شیبیب بن فلان، ابو حارث۔

ایک نسخہ میں اس کا نام شیبیب بن حارث ہے اس نے موسیٰ بن مجاہد سے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے

۳۶۶۹۔ وشمیل بن عائد

یہ عامر بن حفص کا استاد ہے۔

(شجاع)

۳۶۷۰۔ شجاع بن اسلم حاسب۔

اس نے ابو بکر بن مقاتل سے روایات نقل کی ہیں، حافظ خطیب کہتے ہیں: یہ دونوں مجہول ہیں۔

۳۶۷۱۔ شجاع بن عبدالرحمن۔

اس نے حسین سے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے۔

۳۶۷۲۔ شجاع بن بیان واسطی

اس نے مسلم زنجی سے روایات نقل کی ہیں، ازدی کہتے ہیں: محدثین نے اسے ”متروک“ قرار دیا ہے۔

۳۶۷۳۔ (صح) شجاع بن ولید (ع) ابو بدر سکونی حافظ

یہ صدوق اور مشہور ہے اس نے مغیرہ بن مقسم اور لیث سے جب کہ اس سے اس کے بیٹے ولید، ابو خیمہ اور ایک مخلوق نے

روایات نقل کی ہیں۔

یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، امام ابو زرعة رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ لیث الحدیث ہے، یہ ایک عمر رسیدہ شخص ہے، لیکن متین نہیں ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا، البتہ اس کے پاس محمد بن عمرو کے حوالے سے منقول کچھ مستند احادیث تھیں۔

مروزی یہ کہتے ہیں: میں نے ابو عبد اللہ سے کہا: کیا ابو بدر ثقہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا: مجھے یہ امید ہے کہ یہ صدوق ہوگا، کیونکہ یہ

نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا۔

راوی کہتے ہیں: یہ شخص یہ نہیں کہتا تھا ”حدثنا“ (انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی) لوگوں نے یہ چاہا کہ یہ ان کے سامنے یہ لفظ

استعمال کرے کہ ”انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی“، لیکن اس نے یہ بات تسلیم نہیں کی، راوی کہتے ہیں: شاید یہ نصیف کا قول ہے ایک

مرتبہ میں یحییٰ بن معین کے ساتھ تھا، ان کی ملاقات ابو بدر سے ہوئی، تو انہوں نے اس سے کہا: اے بزرگوار! تم اللہ سے ڈرو اور ان احادیث کا جائزہ لو، جو تمہارے بیٹے نے تمہیں دی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: مجھے شرم آگئی اور میں ایک طرف ہٹ گیا، پھر مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے یہ کہا: اگر تم جھوٹے ہوئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہ اور یہ کرے۔

وکیع نے سفیان ثوری کا یہ بیان نقل کیا ہے: کوفہ میں ابو بدر سے زیادہ عبادت گزار اور کوئی شخص نہیں تھا، اس کی مانند روایت حنبل نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کی ہے اور اس میں یہ الفاظ زائد نقل کیے ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میرا خیال ہے اس شیخ کی بددعا اسے لاحق ہوگئی۔

۳۶۷۴۔ شجاع بن مخلد (م، د، س) فلاس

یہ ثقہ راویوں میں سے ایک ہے، ابن معین نے اسے ”ثقہ“ قرار دیا ہے

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت نے اس سے روایات نقل کی ہیں

اس کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

کرسیہ موضع قدمیہ، العرش لا یقدر قدرہ.

”اللہ تعالیٰ کی کرسی وہ ہے، جہاں اس کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے اور عرش اس کی قدرت کی طاقت نہیں رکھتا“

شجاع نامی راوی نے اسے مرفوع حدیث کے طور پر نقل کرنے میں غلطی کی ہے، رمادی اور کجی نے اسے ابو عاصم کے حوالے سے موقوف روایت کے طور پر نقل کیا ہے، ابن مہدی اور وکیع نے بھی سفیان کے حوالے سے اسے اسی طرح نقل کیا ہے۔

۳۶۷۵۔ شجاع

اس نے ابو ظبیہ کے حوالے سے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں ان دونوں سے واقف نہیں ہوں، اس کے حوالے سے لیث بن سعد نے روایت نقل کی ہے، یہ مجہول ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: اس نے یہ روایت نقل کی ہے:

من قرا الواقعہ کل لیلہ لم تصبہ فاقہ.

”جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اسے فاقہ لاحق نہیں ہوتا“

یہ روایت سری بن یحییٰ نے اپنی سند کے ساتھ اس کے حوالے سے مرفوع حدیث کے طور پر نقل کی ہے۔

(شداد)

۳۶۷۶- شداد بن حارث

لیث بن سعد نے اس سے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے۔

۳۶۷۷- شداد بن ابوسلام

مطور کی شناخت پتہ نہیں چل سکی ہے۔

۳۶۷۸- (صح) شداد بن سعید (م، س، ت) راہبی

(اس کی کنیت اور اسم منسوب) ابوظحہ بصری ہے یہ صالح الحدیث ہے۔

اس نے یزید بن شخیر سے احادیث کا سماع کیا ہے، عقیلی کہتے ہیں: اس کے حوالے سے کئی ایسی روایات منقول ہیں جن میں اس کی متابعت نہیں کی گئی جہاں تک ابن عدی کا تعلق ہے تو وہ یہ کہتے ہیں: میں نے اس کے حوالے سے کوئی منکر روایت نہیں دیکھی۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: عبدالصمد نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے ابن معین اور ابو حاتم کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ ہے۔
وکیع اور بدل نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۶۷۹- شداد بن ابو عمرو (د) بن حماس

یہ تابعی ہے ابو الیمان نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔ اس نے (علم حدیث کی طلب میں) بڑا سفر کیا ہے اس کی شناخت پتا نہیں چل سکی۔

۳۶۸۰- شداد، مولیٰ عیاض (د)

اس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے جب کہ اس سے جعفر بن برقان نے روایات نقل کی ہیں اس کی شناخت پتا نہیں چل سکی۔

(شراحیل، شرحیل)

۳۶۸۱- شراحیل بن سعید

ابن ہرم کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔

۳۶۸۲- شراحیل بن عبدالحمید

یہ بقیہ کا کم درجے کا شیخ ہے یہ مجہول ہے۔

۳۶۸۳- شراحیل بن عمرو عسلی

اس نے عمرو بن اسود سے روایات نقل کی ہیں، محمد بن عوف طائی نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے۔

۳۶۸۴- شراحیل بن عمرو

اس نے بکر بن خنیس سے روایات نقل کی ہیں، اس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے اور ایک قول کے مطابق یہ پہلے والا راوی ہے۔

۳۶۸۵- شراحیل

اس نے فضالہ بن عبید سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۶۸۶- شراحیل

اس نے ابراہیم نخعی سے روایات نقل کی ہیں، یہ دنوں راوی مجہول ہیں۔

۳۶۸۷- شرحبیل بن سعد (د، ق، مدنی)

اس نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں۔

یحییٰ القطان کہتے ہیں: محمد بن اسحاق سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو وہ بولے: ہم اس کے حوالے سے کوئی چیز روایت نہیں کرتے ہیں، یحییٰ القطان نے کہا ہے: ایسے شخص پر حیرانگی ہوتی ہے، جو اہل کتاب سے روایات نقل کر لیتا ہے، اور شرحبیل سے منہ موڑ لیتا ہے۔

عقیلی کہتے ہیں: موسیٰ بن عقبہ، یحییٰ بن سعید انصاری اور ایک جماعت نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

حجاج اعمر نے ابن ابوزب کا یہ قول نقل کیا ہے: شرحبیل بن سعد پر تہمت عائد کی گئی ہے، کئی حضرات نے یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ضعیف ہے، بشر بن عمر نے امام مالک کا یہ قول نقل کیا ہے: ”یہ ثقہ“ نہیں ہے، ابن مدینی، سفیان کا یہ قول نقل کیا ہے: اہل بدر کے بارے میں اس سے زیادہ جاننے والا اور کوئی شخص نہیں ہے، اسے حاجت لاحق ہوئی تو لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا، جب یہ کسی شخص کے پاس جائے تو اس سے کوئی چیز مانگے اور وہ اس کو نہ دے تو وہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ تمہارا والد غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا۔

امام ابوزرعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ لیلین ہے، ابن عیینہ کہتے ہیں: شرحبیل فتویٰ دیتا تھا اور مغازی کے بارے میں اس سے زیادہ علم اور کسی کو نہیں ہے۔

ابن سعد کہتے ہیں: یہ اتنے عرصے تک زندہ رہا کہ اختلاط کا شکار ہو گیا اور محتاج ہو گیا، اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا، جب کہ امام نسائی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے: یہ ضعیف ہے، امام دارقطنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، البتہ اس کا اعتبار کیا جائے گا، ابن حبان رضی اللہ عنہ نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب ”الثقات“ میں کہا ہے، ابن عدی کہتے ہیں اس کی نقل کردہ زیادہ تر روایات منکر ہیں اور یہ ضعیف ہونے کے زیادہ قریب

ہے۔

۳۶۸۸۔ شرحبیل بن حکم۔

اس نے عامر بن نائل سے روایات نقل کی ہیں، ابن خزیمہ کہتے ہیں: میں ان دونوں کی ضمانت سے بری ذمہ ہوں ان دونوں کے حوالے سے انہوں نے ”کتاب التوحید“ میں روایات نقل کی ہیں۔

۳۶۸۹۔ شرحبیل بن شریک (م، ت، س)۔

لیث بن سعد اور دیگر حضرات نے اس سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ صالح الحدیث ہے، ازدی کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس نے ابو عبد الرحمن جبلی سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۶۹۰۔ شرحبیل بن مسلم (د، ت، ق) خولانی

یہ تابعی ہے اور مشہور ہے، اس نے عقبہ بن عبد اور ابو امامہ سے، جب کہ اس سے حریر بن عثمان اور اسماعیل بن عیاش نے روایات نقل کی ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، کوج نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان نقل کیا ہے: یہ ضعیف ہے۔

ایک جماعت نے اپنی سند کے ساتھ شرحبیل بن مسلم کا یہ بیان نقل کیا ہے: جب اسود نامی شخص نے یمن میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس نے ابو مسلم خولانی کو بلوایا، وہ اس کے پاس آئے تو اس نے ان سے دریافت کیا، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! اس نے دریافت کیا: کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! تو اسود نے حکم دیا کہ بہت زیادہ آگ جلائی جائے، پھر ابو مسلم کو اس میں ڈال دیا گیا، تو انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا، تو اسود سے کہا گیا: اگر تم نے انہیں جلا وطن نہ کیا، تو تمہارے بہت سے پیروکار خراب ہو جائیں گے، تو اس نے انہیں وہاں سے چلے جانے کی ہدایت کی، یہ مدینہ منورہ آگئے، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، انہوں نے اپنی سواری کو بٹھایا، مسجد میں داخل ہوئے نماز ادا کی، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو اٹھ کر ان کے پاس آئے اور دریافت کیا: آپ کون ہیں اور کہاں سے تعلق ہے؟ انہوں نے جواب دیا: یمن سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: اس شخص کا کیا بنا جسے نبوت کے جھوٹے دعویٰ دار نے آگ میں ڈلوادیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: وہ شخص عبد اللہ بن ثوب تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں کہ کیا آپ وہی شخص ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: اللہ جانتا ہے، جی ہاں! تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں گلے لگا لیا، اور رو پڑے، پھر انہیں ساتھ لے کر گئے، اور اپنے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے درمیان بٹھایا، اور یہ کہا: ہر طرح کی حمد و ثناء اس اللہ کے لیے مخصوص ہے، جس نے مجھے اس وقت تک موت نہیں دی، جب تک اس نے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ شخص نہیں دکھا دیا، جس کے ساتھ اس نے وہی سلوک کیا، جو اس نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔

اسماعیل نامی راوی کہتے ہیں: میں نے عنس اور خولان قبیلے سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں کو پایا، خولان قبیلے کے لوگوں نے عنس قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے کہا: تمہارے خاندان کا فرد وہ شخص ہے، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور اس نے ہمارے خاندان کے فرد کو جلانے کی کوشش کی تھی، لیکن آگ نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔

(شرقی)

۳۶۹۱- شرقی بن قظامی

اس کے حوالے سے تقریباً دس روایات منقول ہیں، جو منکر ہیں، زکریا ساجی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے اور ابن عدی نے اس کا تذکرہ اپنی ”کامل“ میں کیا ہے۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

لقد رايتنا منذ قريب ونحن في الجاهليه اذا حججنا قلنا: لبيك تعظيما اليك عذرا * هذي زبيد قد اتتك قسرا يقطعن خبتنا وجبالا وعرا * قد تركوا الانداد خلوا صفرا فنحن اليوم نقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك قال: وان كنا عشيہ عرفه بطن عرنه نتخوف ان تخطفنا الجن. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجيزوا اليهم فانهم اسلموا فهم اخوانكم.

”مجھے اپنے بارے میں یہ بات یاد ہے کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت کے قریب تھے، جب ہم حج پر جاتے تھے، تو ہم یہ کہا کرتے تھے:

ہم حاضر ہیں تیری عظمت بیان کرتے وئے تیری طرف ہی عذر پیش کرتے ہیں۔ گناہوں کو معاف کر دے پس زمین پہاڑوں اور ہموار زمین کو طے کر آئے ہیں۔ شرک اور گناہوں کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔

تو آج ہم وہ کلمات کہتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیے تھے اور وہ یہ ہیں:

”میں حاضر ہوں، اے اللہ! میں حاضر ہوں“

راوی کہتے ہیں: ہم عرفہ کی شام بطن عرنہ میں موجود تھے، ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ کہیں ہمیں جنات اچک نہ لیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا: تم ان کے پاس سے گزر جاؤ، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور یہ تمہارے بھائی ہیں۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

من استنحى من الريح فليس منا.

”جو شخص ہوا کی طرف رخ کر کے استنجاء کرتا ہے، وہ ہم سے نہیں ہے“

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے، وہ عقبہ سے پرے ایک گھر میں موجود

تھے۔

تو شعبہ نے کہا: اگر شرقی نے حضرت عمر کی طرف جھوٹی بات منسوب نہ کی ہو تو میرا گدھا اور میری چادر غریبوں کے لیے صدقہ ہوں گی۔ راوی کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: تم نے اس کے حوالے سے کیوں روایات نقل کی ہیں؟ تو ابراہیم حربی نے کہا: شرقی کو فی کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، یہ رات کو قصہ گوئی کرتا تھا۔ ساجی کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، اس کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے، وہ بھی مستند نہیں ہے۔

خطیب کہتے ہیں: یہ نسب اور ادب کا عالم تھا، منصور نے مہدی کو اس کے پاس بھیجا تھا، تاکہ وہ اس سے ادبیات کا علم حاصل کرے، شرقی اس کا لقب ہے، اس کا نام ولید بن حصین ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔

۳۶۹۲۔ شرقی بصری

اس نے عکرمہ سے، جب کہ اس سے شعبہ نے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے

۳۶۹۳۔ شرقی جعفی

اس نے سوید بن غفلہ الجاسک سے روایات نقل کی ہیں، یہ ملعون ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ درست نہیں ہے اور یہ قائم نہیں ہے۔

(شرح، شریح، شریق)

۳۶۹۴۔ شرح بن نعمان صاندی (عمو)

اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، جب کہ اس سے ابواسحاق اور سعید بن اشوع نے روایات نقل کی ہیں، اس کے حوالے سے قربانی کے بارے میں حدیث کتابوں میں منقول ہے اور اس کا معاملہ بہتر ہے اور یہ صالح ہے۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ مجہول ہونے سے مشابہت رکھتا ہے اور اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

۳۶۹۵۔ شریح سلمیٰ

ہشام بن کلبی نے اس سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

۳۶۹۶۔ شریح ہوزنی (د) حمصی

اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور اس سے ازہر حرازی نے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔

(شریک)

۳۶۹۷- شریک بن تمیم

اس نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہے یہ اپنے باپ کی طرح مجہول ہے۔

۳۶۹۸- شریک بن حنبل (د، ت)۔

اس کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے جو اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔

ابو اسحاق سمعی اور عمیر بن تمیم نے اس سے روایات نقل کی ہیں یہ پتا نہیں چل سکا کہ یہ کون ہے؟ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقفہ“ قرار دیا ہے۔

۳۶۹۹- شریک بن سہیل (س) شامی۔

صفوان بن عمرو نے اس سے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے۔

۳۷۰۰- شریک بن شہاب (س)۔

اس نے حضرت ابو برزہ سے روایات نقل کی ہیں یہ بصری ہے اس کی شناخت نہیں ہو سکی اس کی شناخت صرف ازرق بن قیس کی اس کے حوالے سے نقل کردہ روایت سے ہو سکی ہے۔

۳۷۰۱- شریک بن عبد اللہ (ع) بن ابو نمر مدنی

اس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں

یہ تابعی ہے اور ”صدوق“ ہے ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ (ابن معین) اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں: یہ ”قوی“ نہیں ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ثقفہ“ ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: امام مالک اور دیگر حضرات نے اس سے روایات نقل کی ہیں جب یہ کسی ثقہ راوی سے روایت نقل کرے تو یہ ثقہ شمار ہوگا ابن حزم نے واقعہ معراج کے بارے میں اس کی نقل کردہ درج ذیل روایت کی وجہ سے اسے ”واہی“ قرار دیا ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

ليلة اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم.. وذكر الحديث - الى ان قال: ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه الا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا من الجبار رب العزة، فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى.

”جس رات نبی اکرم ﷺ کو معراج کروائی گئی، اس کے بعد راوی نے پوری حدیث نقل کی ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں: پھر وہ انہیں ساتھ لے کر بلند ہوئے، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچ گئے، جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، یہاں تک کہ وہ سدرۃ المنتہی کے پاس آئے اور پروردگار رب العزت کے قریب ہو گئے، پھر اور قریب ہوئے، یہاں تک کہ وہ کمان کے دو کناروں کی مانند ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔“
یہ غریب، لیکن صحیح روایت ہے۔

۳۷۰۲۔ شریک بن عبداللہ (عموم، نخعی، ابو عبداللہ کوفی

یہ قاضی ہے، حافظ الحدیث ہے، سچا ہے اور آئمہ میں سے ایک ہے، اس نے علی بن اقر اور زیاد بن علاقہ سے روایات نقل کی ہیں، اس کا شمار تابعین میں کیا گیا ہے، علی بن یحییٰ بن سعید نے اس کا انتہائی ضعیف ہونا روایت کیا ہے۔ ابن شنی کہتے ہیں: میں نے یحییٰ یا عبدالرحمن کو شریک کے حوالے سے کوئی روایت نقل کرتے ہوئے نہیں سنا، محمد بن یحییٰ قطان نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں نے شریک کے اصول میں اختلاط دیکھا ہے۔

عبدالجبار بن محمد کہتے ہیں: میں نے یحییٰ بن سعید سے کہا: لوگ یہ کہتے ہیں: آخری عمر میں شریک اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا: وہ تو شروع سے ہی اختلاط کا شکار ہے۔

یحییٰ بن معین کہتے ہیں: اس کا دادا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا۔

یحییٰ بن معین کہتے ہیں: عبدالرحمن نے شریک کے حوالے سے احادیث نقل کی ہیں، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں: شریک کی نقل کردہ احادیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو زبانی کہتے ہیں: یہ برے حافظے کا مالک تھا، حدیث میں اضطراب کا شکار ہوتا تھا اور ایک طرف ہٹ جاتا تھا، ابراہیم بن سعید جو ہری کہتے ہیں: شریک نے چار سو احادیث میں غلطی کی ہے۔

معاویہ بن ابوصالح نے یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ صدوق اور ثقہ ہے، جب یہ کسی مستدر راوی کے خلاف روایت نقل کرے، تو دوسرا راوی ہمارے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہوگا۔

ابویعلیٰ کہتے ہیں: میں نے یحییٰ بن معین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: شریک نامی راوی ثقہ ہے، البتہ یہ غلطی کرتا ہے اور متقن نہیں ہے، یہ خود کوسفیان اور شعبہ تک لے جاتا ہے۔

عبدالرحمن بن شریک کہتے ہیں: میرے والد کے پاس دس ہزار مسائل تھے، جو جابر جعفی سے منقول تھے اور دس ہزار غریب روایات تھیں، سعدویہ کہتے ہیں: میں نے عبداللہ بن مبارک کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: شریک نامی شخص، اہل کوفہ کی حدیث کے بارے میں سفیان سے زیادہ علم رکھتا تھا، امام دارقطنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: شریک جس روایت کو نقل کرنے میں منفرد ہو، اس میں قوی شمار نہیں ہوگا۔

ابو توبہ حلبی کہتے ہیں: ہم رملہ میں موجود تھے، لوگوں نے یہ بحث شروع کر دی کہ اس وقت سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا: ابن لہیعہ ہیں، کچھ نے کہا: امام مالک ہیں، ہم نے عیسیٰ بن یونس سے اس بارے میں دریافت کیا، جو اس دوران ہمارے

پاس آگئے تھے تو انہوں نے کہا: اس وقت سب سے بہترین شخص شریک ہے یہ ان دنوں حیات تھے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ابواسحاق کے بارے میں شریک نامی راوی زہیر سے زیادہ مثبت ہے، عثمان بن سعید نے یحییٰ کا یہ قول نقل کیا ہے: ابواسحاق کے بارے میں شریک ہمارے نزدیک اسرائیل سے زیادہ محبوب ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: شریک ”صدوق“ ہے اور یہ میرے نزدیک ابواحوص سے زیادہ محبوب ہے البتہ اس سے غلطیاں منقول ہیں، ابن ابو حاتم کہتے ہیں: میں نے امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ سے شریک کے بارے میں دریافت کیا، کیا اس سے استدلال کیا جاسکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: اس نے بکثرت احادیث نقل کی ہیں، لیکن یہ وہم و گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے اور بعض اوقات غلطی کر جاتا ہے، تو فہلک صانع نے ان سے کہا: شریک نے ”واسط“ میں کچھ ایسی روایات نقل کی ہیں جو باطل ہیں، تو امام ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: تم انہیں باطل نہ کہو۔

ثیم بن خالد کہتے ہیں: میں نے شریک کو سنا، ان کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ عبداللہ بن ادریس نے نبیذ کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ بولے: وہ پاگل آدمی ہے، خود بھی احق ہے اور اس کا باپ بھی احق تھا، اس کا باپ یہاں امیر عیسیٰ بن موسیٰ کے بچوں کو پڑھایا کرتا تھا، امام شعبی نے اس کے چچا سے یہ کہا تھا: تم اس وقت تک نہیں مرو گے، جب تک پاگل نہیں ہو جاؤ گے، تو اس کا انتقال اس وقت تک نہیں ہوا، جب تک (پاگل پن کی وجہ سے) اس کے سر میں داغ نہیں لگائے گئے۔

عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں: جب شریک کو قاضی بنا دیا گیا تو سفیان نے یہ کہا تھا: ایسے شخص کو انہوں نے خراب کر دیا ہے۔

منصور کہتے ہیں: میں نے شریک کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: کسی موقع محل کی مناسبت سے جواب نہ دینا، دل کو پگھلا دیتا ہے۔

ابراہیم کہتے ہیں: میں نے شریک سے کہا: ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، جو یہ کہتا ہے: میں کسی کو کسی دوسرے پر

فضیلت نہیں دیتا، تو شریک نے جواب دیا: وہ احق ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فضیلت عطا کی گئی ہے۔

شریک نے یہ بھی کہا ہے: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر صرف وہ شخص فضیلت دے گا جو مذاق اڑانا چاہ رہا ہوگا۔

ابوداؤد ہادی نے شریک کا یہ قول نقل کیا ہے: حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے بہترین بشر ہیں، جو شخص اس کا انکار کرتا ہے، وہ کفر کا مرتکب

ہوتا ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: بعض کذابوں نے اسے مرفوع حدیث کے طور پر نقل کیا ہے اور اس میں کوئی شک

نہیں ہے کہ بظاہر ایسا نہیں ہے، کیونکہ شریک اس بات کے قطعی طور پر معتقد نہیں ہونگے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، انبیاء سے بھی بہتر ہیں، زیادہ

سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ مراد لیا ہو کہ وہ اپنے وقت میں سب سے بہترین بشر تھے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اپنے ایام

خلافت میں وہ سب سے بہترین بشر تھے۔

عبدالسلام بن حرب کہتے ہیں: میں نے شریک سے دریافت کیا: کیا آپ اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جانا پسند کریں گے؟ انہوں

نے دریافت کیا: کون؟ میں نے جواب دیا: مالک بن مغول، تو انہوں نے فرمایا: وہ شخص میرا بھائی نہیں ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت

عمار رضی اللہ عنہ پر تنقید کرتا ہو۔

ابن عدی بیان کرتے ہیں: نصر بن مجدر نے یہ بات بیان کی ہے: میں اس وقت وہاں موجود تھا، جب شریک کو لایا گیا، ان کے ساتھ

ابو امیہ بھی تھا، ابو امیہ نے مہدی کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا، شریک نے اعمش کے حوالے سے ان کی سند کے ساتھ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: استقیوا القریش ما استقاموا الکم، فاذا زاغوا عن الحق فضعوا سیوفکم علی عواتقکم، ثم ابیدوا و خضراء ہم
”تم قریش کے لیے اس وقت تک ٹھیک رہو جب تک وہ ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جب وہ حق کو چھوڑ کر بھٹک جائیں، تو تم تلواریں اپنی گردنوں پر رکھ لو اور پھر قوم کے بڑے حصے کو ہلاک کر دو۔“

مہدی نے دریافت کیا: کیا تم نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! تو ابو امیہ بولے: مجھ پر یہ بات لازم ہوگی کہ میں بیت اللہ تک بیدل چل کر جاؤں اور میرا تمام مال صدقہ ہو جائے، اگر میں نے یہ حدیث ان صاحب کی زبانی نہ سنی ہو، شریک نے کہا: مجھ پر بھی یہی کچھ لازم ہوگا، اگر میں نے اسے یہ حدیث بیان کی ہو تو گویا مہدی ان سے راضی ہو گیا، اس پر ابو امیہ نے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ کے پاس علی ہیں، اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ میرے جسم پر جو کپڑے ہیں، تو مہدی نے کہا: ٹھیک ہے، میں بھی اس طرح حلف اٹھا لیتا ہوں، جس طرح اس نے حلف اٹھایا ہے، پھر اس نے کہا: شراب پینے والے کے لیے بربادی ہے، اس کی مراد اعمش تھی، جو منصف (نامی مشروب) پیا کرتے تھے، اگر مجھے اس کی قبر کی جگہ کا پتہ چل جائے، تو میں اسے جلوادوں گا، تو شریک نے کہا: وہ کوئی یہودی نہیں تھا، وہ ایک نیک آدمی تھا۔

اس نے کہا: کیا وہ زندیق تھا؟ شریک نے جواب دیا: زندیق کی کچھ علامات ہوتی ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، وہ گانے بجانے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور شراب پیتا ہے، مہدی نے کہا: اللہ کی قسم! میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو شریک نے کہا: اللہ تعالیٰ تمہیں خون کی بیماری کی آزمائش میں مبتلا کرے گا، مہدی نے کہا: اسے باہر نکال دو، انہیں باہر نکال دیا گیا، تو سپاہیوں نے ان کے کپڑے پھاڑ دیے اور ان کی ٹوپی کو چیر دیا۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: ابن عدی نے شریک کے حالات میں چھ ورق لکھے ہیں۔

اس کی نقل کردہ منکر روایات میں سے ایک روایت وہ ہے، جو اس نے اپنی سند کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس کے طور پر نقل کی ہے:

عن عائشہ قالت: امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادخل امرأه علی زوجها، لم تقبض من مہرہا شیئاً

”سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا تھا، میں عورت کی رخصتی اس وقت کرواؤں، جب کہ اس نے اپنے مہر میں سے کوئی بھی چیز اپنے قبضہ میں نہیں لی تھی۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

لکل نبی وصی و وارث، ان علیا وصی و وارثی.

”ہر نبی کا ایک وصی اور وارث ہوتا ہے، علی میرا وصی اور وارث ہے۔“

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ روایت جھوٹی ہے، شریک اس کا احتمال نہیں رکھتا۔

معاویہ بن صالح بیان کرتے ہیں: میں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے شریک کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے جواب دیا: وہ عقل مند تھا، صدوق تھا اور علم حدیث کا ماہر تھا، وہ فتنہ پروروں اور اہل بدعت کا شدید مخالف تھا، اس نے بہت پہلے ابواسحاق سے احادیث کا سماع کیا تھا، میں نے ان سے دریافت کیا: اسرائیل اس سے زیادہ مثبت ہے، انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! تو میں نے دریافت کیا: تو پھر آپ اس سے استدلال کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا: تم اس کے بارے میں میری رائے مجھ سے دریافت نہ کرو، میں نے دریافت کیا: کیا اسرائیل سے استدلال کیا جاسکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میری زندگی کی قسم!

انہوں نے یہ بات بیان کی ہے: شریک 95 ہجری میں پیدا ہوا تھا، میں نے ان سے دریافت کیا: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: مجھے نہیں معلوم۔

محمد بن عثمان بن ابوشیبہ نے اپنی سند کے ساتھ علی بن قادم کا یہ بیان نقل کیا ہے: عتاب اور ایک شخص شریک کے پاس آئے تو لوگوں نے اس سے کہا: لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ شک کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا: اے احق! میں کیسے شک کر سکتا ہوں؟ جب کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا اور میری تلوار میرے ہاتھ میں ان کے (دشمنوں کے) خون سے رنگی ہوئی ہوتی۔

علی بن خشرم نے حفص کے حوالے سے شریک کا یہ قول نقل کیا ہے: جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور مسلمانوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا، تو اگر مسلمانوں کو یہ علم ہوتا کہ ان کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جو ان سے افضل ہو تو وہ لوگ اس کی پیروی کرتے، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا تو انہوں نے اس کے مطابق حق اور عدل کو قائم کیا جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے چھ آدمیوں کی شوروی بنا دی تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اکتفاء کیا، اگر انہیں اس بات کا علم ہوتا کہ ان کے درمیان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ فضیلت والا کوئی شخص ہے تو وہ لوگ اس کی پیروی کر لیتے۔

عبداللہ بن ادریس کو جب اس کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے کہا: ہر طرح کی حمد اس اللہ کے لیے مخصوص ہے، جس نے اس کے ذریعے حفص کا نقطہ نظر بیان کیا، اللہ کی قسم! یہ شیعہ ہے، بے شک شریک شیعہ ہے، یہ بات پھر روایت کی گئی ہے: ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے شریک کی موجودگی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، تو کہا گیا: وہ بڑے بردبار آدمی تھے، تو شریک نے کہا: ایسا شخص کیسے بردبار ہو سکتا ہے، جو حق سے منہ موڑ لے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرے۔

سفیان بن عبدالملک بیان کرتے ہیں: میں نے عبداللہ بن مبارک سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نقل کردہ اس حدیث کے بارے میں سوال کیا، وہ یہ کہتے ہیں: جس سودے میں بری ذمہ ہونے کے بارے میں کہا گیا ہو، اسے ہر عیب سے بری ہونا چاہیے، تو انہوں نے جواب دیا: شریک نے اس روایت کو اس سے مختلف طور پر نقل کیا ہے، جس طرح یہ اس کی تحریر میں موجود ہے، ہمیں اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ملتی۔

عبداللہ بن احمد نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے: شریک سے روایت نقل کرنے میں حسن بن صالح سب سے زیادہ مثبت

ہے اور شریک اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ وہ کیسے احادیث بیان کر رہا ہے؟
 (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: شریک علم کا بڑا برتن تھا اسحاق ازرق نے اس سے نو ہزار احادیث نوٹ کی
 ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے شریک کے حوالے سے متابعت کے طور پر
 روایت نقل کی ہے۔
 شریک کا انتقال 177 ہجری میں ہوا۔

(شعبہ)

۳۷۰۳۔ شعبہ بن عجلان عتکی اسکاف

اس نے ابن سیرین سے جب کہ اس سے ابوسلمہ تہودکی نے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی ہے، امام
 ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ مجہول ہے۔

۳۷۰۴۔ شعبہ بن عمرو

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ احادیث منکر ہیں، امام
 ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ مجہول ہے۔

۳۷۰۵۔ شعبہ بن عیاش، ابوبکر کوفی

یہ امام ہے، علم قرأت کا ماہر ہے، ”صدوق“ ہے، لیکن بعض اوقات وہم کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا ذکر اس کی کنیت سے متعلق
 باب میں آئے گا۔

۳۷۰۶۔ شعبہ بن یحییٰ (د)

ایک قول کے مطابق اس کے باپ کا نام دینار ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا آزاد کردہ غلام ہے، اس نے حضرت عبداللہ
 بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے کچھ احادیث نقل کی ہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”قوی“ نہیں ہے، امام مالک
 فرماتے ہیں: یہ ثقہ نہیں ہے، تم اس سے کوئی بھی چیز حاصل نہ کرنا، یحییٰ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ احادیث کو نوٹ نہیں کیا جائے گا، وہ
 یہ بھی کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ میرے نزدیک صالح مولیٰ التواءمہ سے زیادہ محبوب ہے، امام ابوزرعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے
 ہیں: یہ ضعیف الحدیث ہے، جہاں تک شعبہ بن دینار کوفی کا تعلق ہے، تو وہ ثقہ ہے، اس سے دونوں سفیانوں نے روایات نقل کی
 ہیں۔

۳۷۰۷- شعبہ

اس نے کریب بن ابرہہ سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۷۰۸- وشعبہ بن بریدہ (د) حنفی

یہ دونوں (یعنی یہ اور سابقہ راوی) مجہول ہیں۔

(شعیب)

۳۷۰۹- شعیب بن ابراہیم کوفی

اس نے سیف سے اس کی کتابیں نوٹ کی ہیں اس میں مجہول ہونا پایا جاتا ہے۔

۳۷۱۰- شعیب بن احمد بغدادی۔

اس نے عبدالحمید بن صالح سے جھوٹی روایت نقل کی ہے کہ کپڑا بھی تسبیح پڑھتا ہے اور جب وہ پرانا ہو جاتا ہے تو اس کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے۔

۳۷۱۱- شعیب بن احمد فرغانی

سلفی نے اس سے استفادہ کیا ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقتہ“ قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے: اس پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔

۳۷۱۲- شعیب بن ابواشعث

اس نے ہشام بن عروہ سے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے محمد بن حمیر نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۷۱۳- (صح) شعیب بن ایوب (د) صریغینی مقری

یہ یحییٰ بن آدم کا شاگرد ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقتہ“ قرار دیا ہے، امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہ اس کے حوالے سے روایت نقل کروں۔(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: انہوں نے اس کے حوالے سے صرف ایک روایت اپنی ”سنن“ میں نقل کی ہے اور اس سے منقول حدیث منکر ہے، خطیب نے اپنی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے میں نے اپنے پاس موجود نسخے میں اس پر تعلق نقل کی ہے، اس کا انتقال 261 ہجری میں ہوا۔

۳۷۱۴- شعیب بن بکار۔

اس نے اسماعیل بن ابان الوراق سے روایات نقل کی ہیں ازدی کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔

۳۷۱۵- شعیب بن بیان (س) صفار

اس نے شعبہ سے روایات نقل کی ہیں، یہ ”صدوق“ ہے، جو زبانی کہتے ہیں: اس کے حوالے سے منکر روایات منقول ہیں۔
عقبی کہتے ہیں: اس نے ثقہ راویوں کے حوالے سے منکر روایات نقل کی ہیں، اور اس کی نقل کردہ احادیث پر وہم غالب ہے۔

۳۷۱۶- شعیب بن حاتم

اس نے ابوامیہ سے احادیث کا سماع کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ احادیث مستند نہیں ہیں، یہ بات ابن عدی نے نقل کی ہے۔

۳۷۱۷- شعیب بن حرب

یہ مدائنی نہیں ہے، اس نے صحیح بن جویریہ سے روایات نقل کی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے، یہ مجہول ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: رایت فی المنام انی اتسوک بسواک، فجاء نى رجلان.. الحدیث.
”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، پھر دو آدمی میرے پاس آئے“

۳۷۱۸- شعیب بن حرب مدائنی

محدثین نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

۳۷۱۹- شعیب بن حیان بصری

اس نے ابوامیہ سے احادیث کا سماع کیا ہے، اس نے محمد بن معقیب سے، جب کہ اس سے خلیفہ بن خیاط نے روایت نقل کی ہے، جو مستند نہیں ہے (یاد درست نہیں ہے) امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر اسی طرح ضعیف راویوں میں کیا ہے۔
(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ وہ شخص ہے، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اس کے باپ کے نام کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، ایک قول کے مطابق اس کے باپ کا نام ”حرب“ ہے۔

۳۷۲۰- شعیب بن راشد کوفی

یہ تہیہ کا استاد ہے۔

۳۷۲۱- شعیب بن ابوراشد

اس نے ایک تابعی سے روایت نقل کی ہے، یہ دونوں (یعنی یہ اور سابقہ راوی) مجہول ہیں۔

۳۷۲۲- شعیب بن رزلیق (د، ت) شامی، ابوشیبہ مقدسی،

اس نے طرطوس میں رہائش اختیار کی تھی اس نے عثمان بن ابوسودہ کے حوالے سے حسن بصری رضی اللہ عنہ سے جب کہ اس سے آدم بن ابویاس، یحییٰ بن یحییٰ اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔
دجیم کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امام دارقطنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ ہے، ازدی کہتے ہیں: یہ لین ہے، امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس راوی اور (درج ذیل راوی) کے درمیان فرق کیا ہے۔

۳۷۲۳- شعیب بن رزلیق (د) طائفی

یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت حکم بن حزن کلفی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، جنہیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، جب کہ اس سے صرف شہاب بن خراش نے روایات نقل کی ہیں، اس کے بارے میں یحییٰ بن معین نے یہ کہا ہے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۳۷۲۴- شعیب بن سہل

یہ بغداد کا قاضی تھا، ابن ابوحاتم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ جہمی ہے۔

۳۷۲۵- شعیب بن صفوان (م، س)۔

اس نے حمید الطویل اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، ابن عدی کہتے ہیں: یہ ابو یحییٰ ثقفی کوئی ہے، اسحاق الازرق اور ابوالبراء نیم ترجمانی نے اس سے روایات نقل کی ہیں، امام ابوحاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ابن عدی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ زیادہ تر روایات میں اس کی متابعت نہیں کی گئی۔

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: ابن مہدی نے بھی اس سے روایات نقل کی ہیں۔)

۳۷۲۶- شعیب بن طلحہ بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق

اس نے اپنے والد اور قاسم بن محمد سے جب کہ اس سے معن بن عیسیٰ اور ابومصعب زہری نے روایات نقل کی ہیں۔
ابن معین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں اس سے واقف نہیں ہوں، امام ابوحاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، حافظ ضیاء کہتے ہیں: یہ شعیب نامی وہ راوی ہے جس کے بارے میں امام دارقطنی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا ہے: یہ ”متروک“ ہے، جب کہ معن یہ کہتے ہیں: اس کی شناخت حاصل نہیں ہو سکی۔

۳۷۲۷- شعیب بن عمرو (ق)۔

اس نے صہیب سے جب کہ اس سے صرف عبدالحمید بن زیاد نے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت پتا نہیں چل سکی۔

۳۷۲۸- شعیب بن عمرو بن طحان.

اس نے سفیان بن عیینہ سے روایات نقل کی ہیں، ازدی کہتے ہیں: یہ کذاب ہے۔

۳۷۲۹- شعیب بن فیروز، بغدادی

یہ ”منکر الحدیث“ ہے، یہ بات زکریا ساجی نے بیان کی ہے۔

۳۷۳۰- شعیب بن کیسان

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ ”الضعفاء“ میں کیا ہے، عقیلی نے اسے لیکن قرار دیا ہے، انہوں نے اس کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، جو اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

”من استغفر للمؤمنین والمؤمنات رد علیہ من آدم فمن دونہ من الانس
”جو شخص مومن مردوں اور مومن خواتین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بعد میں

آنے والے تمام بنی نوع انسان اسے جواب دیتے ہیں“

(امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: یہ روایت اسحاق بن راہویہ نے عمر کے حوالے سے نقل کی ہے، حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت ”الضعفاء“ میں، احمد بن عبد اللہ کے حوالے سے ان کے ساتھ ’عمر نامی اس راوی سے نقل کی ہے، جب کہ اس میں احمد نامی راوی پر تہمت عائد کی گئی ہے۔

۳۷۳۱- شعیب بن مبشر

اس نے امام اوزاعی رحمہ اللہ سے روایات نقل کی ہیں، یہ حسن الحدیث ہے، ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کتاب ”الضعفاء“ میں کیا

ہے۔

محمد بن طاہر نے اپنی کتاب ”التذکرہ“ میں اس کے حوالے سے منقول درج ذیل حدیث کا تذکرہ کیا ہے:

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رای فی المسجد رجلا طلیحاً - یعنی ذابلاً - فقال: ما شانہ؟ قالوا:

صائم. قال: من احب ان یتقوی علی الصوم فلیتسحر ویشم طیباً، لا یفطر علی ماء .

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک کمزور آدمی کو دیکھا، تو دریافت کیا: اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا: اس نے روزہ

رکھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص یہ چاہتا ہو کہ روزے کے لیے قوت حاصل کرے، تو اسے سحری کرنی

چاہیے اور خوشبو منگھنی چاہیے، اور صرف پانی پر افطاری نہیں کرنی چاہیے (بلکہ کچھ کھا بھی لینا چاہیے)۔“

یہ روایت شعیب بن مبشر کلبی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، پھر انہوں (یعنی محمد بن طاہر) نے یہ بات

بیان کی ہے: شعیب نامی راوی سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔

۳۷۳۲- شعیب بن محمد بن فضل کوفی

اس نے موصل میں رہائش اختیار کی تھی اس نے ہشیم سے روایات نقل کی ہیں ازدی کہتے ہیں: ”متروک“ ہے۔

۳۷۳۳- شعیب بن میمون (عس)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس میں غور فکر کی گنجائش ہے امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ مجہول ہے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کے حوالے سے منکر روایات منقول ہیں جب یہ کسی روایت کو نقل کرنے میں منفرد ہو تو اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ ابو وائل کا یہ بیان نقل کیا ہے:

قیل لعلی: استخلف. قال: ما استخلف، لکن ان یرد اللہ بالامہ خیرا یجمعہم علی خیرہم، کما جمعہم بعد نبیہم علی خیرہم.

”حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی: آپ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیں انہوں نے فرمایا: میں کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کروں گا اگر اللہ تعالیٰ اس امت کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرے گا تو انہیں ان کے سب سے بہترین فرد پر اکٹھا کر دے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں ان کے سب سے بہترین فرد پر اکٹھا کر دیا تھا۔ یہی روایت بعض دیگر اسناد کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے تاہم یہ روایت مستند نہیں ہے۔

۳۷۳۴- شعیب بن واقد

اس نے نافع بن ہرمز سے روایات نقل کی ہیں ابو حاتم نے اس سے سماع کیا ہے جب کہ فلاں نے اس کی حدیث کو پرے کر دیا تھا۔

۳۷۳۵- شعیب بن یحییٰ (س) تحبی

اس نے حیوہ بن شریح سے روایات نقل کی ہیں یہ مصر کا رہنے والا ہے اور ”صدوق“ ہے امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ معروف نہیں ہے ابن یونس کہتے ہیں: یہ صالح اور عبادت گزار شخص ہے اس کا انتقال 221 ہجری میں ہوا۔

۳۷۳۶- شعیب جبائی،

یہ روایات کا عالم لیکن ”متروک“ ہے یہ بات ازدی نے بیان کی ہے سلمہ بن وہرام نے اس کے حوالے سے احادیث بیان کی ہیں جبہاء اصل میں ”یمین“ میں ایک جگہ ہے تو یہ شعیب بن اسود ہے جو تابعی ہے اور جس نے جنگوں میں حصہ لیا تھا۔

ابراہیم بن خالد صنعانی نے اپنی سند کے ساتھ شعیب جبائی کا یہ بیان نقل کیا ہے: حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں چھ ماہ اور کچھ دن تک رہے تھے ان کی کشتی حضرت نوح علیہ السلام کو ساتھ لے کر آئی اور عرفہ میں ٹھہر گئی انہوں نے مزدلفہ میں رات بسر کی پھر اس کے

بعد انہوں نے جمرات پر وقوف کرنا شروع کیا اور انہوں نے اس کشتی پر ہی طواف کیا، کیونکہ اس وقت پانی زمین پر موجود سب سے اونچے پہاڑ سے بھی اوپر چلا گیا ہوا تھا، جس پہاڑ کے اونچائی پانچ ماہ کی مسافت جتنی تھی۔
رباح یہ کہتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ وہ درخت جس کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی وہ اس وقت اگا تھا جب حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو اس کی لمبائی تین سو باشت تھی اور اس کی چوڑائی ساٹھ باشت تھی۔

(شعیث، شفیعہ)

۳۷۳۷- شعیث بن شداد۔

ابوبکر بن ابوسبرہ نے اس سے روایات نقل کی ہیں، یہ مدنی ہے اور یہ مجہول ہے۔

۳۷۳۸- شعیث بن عبید اللہ (د) بن زبیب

اس نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا سے روایات نقل کی ہیں یہ ایک دیہاتی ہے، جس کی احادیث کو نوٹ کیا جائے گا لیکن یہ حجت نہیں ہے۔ نصر بن محمد اور ابوسلمہ تبوزکی نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔
ابن عدی نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے حوالے سے دو منکر روایات نقل کی ہیں، پھر یہ بات بیان کی ہے: اس کے حوالے سے تقریباً پانچ روایات منقول ہیں، مجھے یہ امید ہے کہ یہ صدوق ہوگا۔

۳۷۳۹- شعیث بن محرز

یہ صدوق اور مشہور ہے، ابوخلیفہ جمحی نے اس کا زمانہ پایا ہے۔

۳۷۴۰- شفیعہ (بن) سمعی (د)

اس نے حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایات نقل کی ہیں، شرحبیل بن مسلم اس کے حوالے سے روایات نقل کرنے میں منفرد ہے۔

(شقیق)

۳۷۴۱- شقیق بن حمزہ اسدی

۳۷۴۲- شقیق بن حیان

یہ دونوں (یعنی یہ اور سابقہ راوی) مجہول ہیں۔

۳۷۴- شقیق ضعی

یہ پرانے خارجیوں میں سے ایک ہے، اپنی ذات کے حوالے سے ”صدوق“ ہے، یہ کوفہ میں تقریریں کیا کرتا تھا، ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے اس کی مذمت کی ہے۔

۳۷۴- شقیق عقیلی (د)

- یہ عبد اللہ کا والد ہے، اس نے عبد اللہ بن ابو حسماء سے روایات نقل کی ہیں، اس کے بیٹے کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایت نقل نہیں کی ہے۔

۳۷۵- شقیق (د)

اس نے عاصم بن کلیب سے، جب کہ اس سے ہمام نے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی ہے۔

۳۷۶- شقیق بلخی

یہ اکبر صوفیہ میں سے ایک ہے، یہ ”منکر الحدیث“ ہے،

اس نے اسرائیل، امام ابو حنیفہ، عباد بن کثیر، کثیر ابلی سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے حاتم اصم، محمد بن ابان بلخی، عبد الصمد بن مردویہ اور دوسرے لوگوں نے روایات نقل کی ہیں۔

یہ بات بیان کی گئی ہے: ان کے تین سو گاؤں تھے لیکن پھر بھی ان کا انتقال ایسی حالت میں ہوا کہ ان کے پاس کفن نہیں تھا، یہ اکابر مجاہدین میں سے ایک تھے، انہوں نے 194 ہجری میں جنگ کولان میں شرکت کی تھی، اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ان پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا جائے، کیونکہ ان کے حوالے سے جو منکر روایات منقول ہیں، اس میں خرابی کی جزا ان سے روایت نقل کرنے والا شخص ہے، ان کا نام شقیق بن ابراہیم ابو علی ہے۔

(شمر)

۳۷۷- شمر بن ذی جوشن، ابو سابعہ ضبابی

اس نے اپنے والد کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، ابو اسحاق سمعی نے اس سے روایات نقل کی ہیں، یہ روایت نقل کرنے کا اہل نہیں ہے، کیونکہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں میں سے ایک ہے، مختار کے ساتھیوں نے اسے قتل کر دیا تھا۔

ابو بکر بن عیاش نے ابو اسحاق کا یہ بیان نقل کیا ہے: شمر ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور پھر یہ دعا کرتا تھا: اے اللہ! تو یہ جانتا ہے کہ میں ایک معزز آدمی ہوں تو میری مغفرت کر دے، میں نے کہا: اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کیسے کر سکتا ہے جب کہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کرنے میں مدد کی ہے؟ اس نے کہا: تمہارا استیئناس ہو، پھر ہم کیا کرتے؟ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا تھا،

ہم ان کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے، اگر ہم ان کی مخالفت کرتے تو ہم اس گدھے سے زیادہ برے ہو جاتے جن پر پانی ڈھویا جاتا ہے۔
(مصنف کہتے ہیں) میں یہ کہتا ہوں: یہ عذر انتہائی قبیح ہے، کیونکہ فرمانبرداری صرف نیکی کے کام میں ہوتی ہے۔

۳۷۲۸- شمر بن عطیہ (ت)

اس نے ابو وائل اور زر سے، جب کہ اس سے اعمش اور قیس بن ربیع نے روایات نقل کی ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، لیکن یہ غالی عثمانی ہے اور یہ چیز اہل کوفہ میں نادر طور پر پائی جاتی ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کتاب ”الثقات“ میں کیا ہے۔

۳۷۲۹- شمر بن عکرمہ۔

فضیل بن مرزوق نے اس سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

۳۷۵۰- شمر بن نمیر مصری،

حدیث عنہ ابن وہب نے اس سے روایات نقل کی ہیں، جو زجانی کہتے ہیں: یہ ثقة نہیں ہے، اس نے حسین بن عبد اللہ بن ضمیرہ روایات نقل کی ہیں، سفیان بن وکیع کہتے ہیں: اس پر تنقید کی گنجائش ہے۔

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثنن الکلب العقور.
”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باؤ لے کتے کی قیمت کھانے سے منع کیا ہے“

(شملہ، شمیر، شمیلہ)

۳۷۵۱- شملہ بن منیب کلبی

یہ یثیم بن عدی کا استاد ہے، یہ مجہول ہے، اس سے مشغول نہیں ہوا جائے گا۔

۳۷۵۲- شملہ بن ہرال

اس نے رجاء بن حیوہ سے روایات نقل کی ہیں، یہ ابو حروش بصری ہے، یحییٰ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ابن مدینی کہتے ہیں: ہمارے نزدیک یہ ضعیف ہے۔

۳۷۵۳- شمیر (د، ت)۔

اس نے حضرت ایض بن حمال رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، یہ پتانہیں چل سکا کہ یہ کون ہے؟ سمی بن قیس کے علاوہ اور کسی نے اس

سے روایت نقل نہیں کی ہے یہ یمانی ہے۔

۳۷۵۴- شمیلہ بن محمد بن جعفر بن ابو ہاشم علوی حسنی مکی۔

یہ مکہ کے گورنروں کی اولاد میں ہے سمانی کہتے ہیں: انہوں نے بات ذکر کی ہے کہ انہوں نے شہاب قضائی سے سنی تھی اور یہ بات بیان کی کہ میرے والد مجھے مصر لے گئے اور انہوں نے مجھے مستنصر کے پاس چھوڑ دیا یہ انچاس ہجری کی بات ہے تو میں نے شہاب سے سماع کیا ہے انہوں نے ایک نسخہ بھی لکھا یا جس میں ان کا قضائی سے سماع کا تذکرہ تھا اور جو ان کے بیٹے کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔

ان کے اس پر لکھے ہونے کے باوجود اس میں تاریکی اور اختلاط پایا جاتا ہے اس میں سے کچھ روایات وہ ہیں جو اس نے مجھ سے سنی ہیں پھر انہوں نے طبقے کے آخر میں یہ بات بیان کی ہے کہ عبداللہ بن محمد بن جعفر قضائی نے اسے لکھا ہے اور یہ ابن قضائی کی تحریر ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کا سماع مصنف سے کیا ہو۔

میں یہ کہتا ہوں: یہ بعد کے زمانے کا ہے عبدالخالق بن اسد نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

(شہاب)

۳۷۵۵- (صحیح) شہاب بن خراش (د)

یہ صدوق اور مشہور ہے اس سے کچھ منکر روایات منقول ہیں یہ ابوصلت ہے، جو عوام بن حوشب کا بھتیجا ہے، امام ابن حبان "کتاب الضعفاء" میں کہتے ہیں: یہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، ابن مبارک کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ابن معین اور نسائی کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ "صدوق" ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مفضل غلابی، ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں: یہ ثقہ ہے۔

ابوبکر بن ابوالاسود کہتے ہیں: میں عبدالرحمن بن مہدی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا، جو حماد بن زید سے زیادہ سنت کا علم رکھتا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جس نے شہاب بن خراش سے زیادہ اس کی خوبی بیان کی ہو، اور نہ ہی کوئی شخص دیکھا ہے جس نے عبداللہ بن مبارک سے زیادہ اسے جمع کیا ہو۔

ہشام بن عمار کہتے ہیں: میں شہاب بن خراش کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: قدر یہ فرقے کے لوگوں نے، جب اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کرنا شروع کی، یعنی اس کے عدل کی صفت بیان کرنا شروع کی، تو انہوں نے اسے اس کے فضل سے الگ کر دیا۔

امام ابو زرعة رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ "ثقہ" ہے اور سنت کا عالم ہے اس نے رملہ میں رہائش اختیار کی تھی۔

ابن عدی نے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے: شہاب بن خراش کہتے ہیں: میں نے اس امت کے پہلے کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو پایا ہے، وہ لوگ یہ کہتے تھے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی اچھائیوں کا تذکرہ کرو، جس کی وجہ سے دل ان کی طرف مائل

ہوں اور ان کے آپس کے اختلافات کا ذکر نہ کرو، کہ لوگ ان سے بدگمان ہو جائیں۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

لا تقوم الساعة الا نهارا.

”قیامت صرف دن کے وقت ہی قائم ہوگی“

ابن عدی کہتے ہیں: شہاب کے حوالے سے بعض روایات وہ ہیں، جنہیں منکر قرار دیا گیا ہے، میں نے متقدین کا اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں دیکھا ہے۔

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ بہت زیادہ غلطیاں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ اس حد سے باہر چلا گیا کہ اس سے استدلال کیا جائے۔

میں یہ کہتا ہوں: سنن سعید بن منصور میں اس کے حوالے سے مجاہد کا یہ قول منقول ہے:

كنت مع ابن عمر، فلما طلعت الكوكبة جلس ينظر اليها ويسبها سباً شديداً، فقلت: رحمتك الله ابا عبد الرحمن نجما سامعا مطيعا، ما باله يسب! قال: ها ان هذه كانت بغيا في بني اسرائيل، فلقى الملك ان منها.. الحديث،

”مجاہد کہتے ہیں: میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا، اس دوران ایک ستارہ نمودار ہوا، وہ اس کی طرف دیکھنے لگے اور اسے برا کہنے لگے: میں نے کہا: اے ابو عبد الرحمن! اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، یہ ایک ستارہ ہے جو سامنے آیا ہے اور یہ فرمانبردار ہے کیا وجہ ہے کہ اسے برا کہا جائے؟ تو انہوں نے کہا: جی ہاں! یہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت تھی، تو دو فرشتوں نے اس سے ملاقات کی“

اس کے بعد پوری روایت ہے، اس اصل کا شاہد موجود ہے جس کا ذکر سنید کے حالات میں ہو چکا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں: محدثین نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

۳۷۵۶- شہاب بن شرفہ مجاشعی بصری مقرر

عبد اللہ بن مبارک کہتے ہیں: یہ اہل بصرہ کے نیک لوگوں میں سے ایک تھا، اس نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سماع کیا ہے۔

مسلم بن ابراہیم کہتے ہیں: اس نے ہمیں حدیث بیان کی ہے اور یہ ”صدوق“ ہے، ازدی کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ نہیں ہے۔

یحییٰ بن معین کہتے ہیں: اس کی سند قائم نہیں ہے، ابن مہدی کو اس کے بارے میں وہم ہوا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے: شریفہ نے

ہمیں حدیث بیان کی

۳۷۵۷- شہاب بن عماد (خ، م).

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے، لیکن بھٹکا ہوا ہے

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس نے داود عطار اور دیگر حضرات سے، جب کہ اس سے احمد اور ابو حاتم نے روایات نقل کی ہیں اور اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے اس سے ایسی روایت بھی منقول ہے جو شریک اور حماد بن زید سے منقول ہے یہ کوئی ہے۔

۳۷۵۸- شہاب سہروردی

یہ فلسفی تھا ”علم سیما“ کا ماہر تھا اپنے بڑے اعتقادات کی وجہ سے قتل ہو گیا، لیکن یہ بڑے سمجھدار لوگوں میں سے ایک تھا یہ جوانی میں ہی 586 ہجری میں ”حلب“ میں قتل ہو گیا تھا اس نے کوئی چیز روایت نہیں کی۔

۳۷۵۹- شہاب

اس نے عمرو بن مرہ سے روایات نقل کی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ حدیث قائم نہیں ہے (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ شہاب بن خراش ہے اگر یہ وہ نہ ہو تو پھر اس کی شناخت پتا نہیں چل سکی۔

۳۷۶۰- شہاب

اس نے عمر بن عبدالعزیز سے اور اس سے لیث بن ابوسلمہ نے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے

(شہر)

۳۷۶۱- (صح) شہر بن حوشب (ع، م، مقرر و نا) اشعری

اس نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ایک جماعت سے، جب کہ اس سے قتادہ، داؤد بن ابو ہند، عبد الحمید بن بہرام اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس نے سیدہ اسماء بنت یزید کے حوالے سے حسن احادیث روایت کی ہیں۔ ابن ابویوشمہ اور معاویہ بن صالح نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ”ثقة“ ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ وہ نہیں ہے جو ابو یزید کے بعد کا ہے اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا امام ابو زرعة رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نصر بن شمیل نے ابن عون کا یہ قول نقل کیا ہے: شہر کو محدثین نے ترک کر دیا تھا، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عدی کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے۔

یحییٰ بن ابوبکر کرمانی نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے: شہر بیت المال کا نگران تھا، اس نے اس میں سے کچھ دراہم حاصل کر لیے تو کسی نے کہا: شہر نے اپنا دین کچھ چیزوں کے عوض میں فروخت کر دیا ہے تو اے شہر! اب تمہارے بعد کون علماء کو امین قرار دے گا؟ دولابی کہتے ہیں: شہر کی نقل کردہ احادیث لوگوں کی حدیث کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام کے

ساتھ بہت محبت کرنے والے کی طرح ہے یہ بات سعدی نے بیان کی ہے۔

فلاس کہتے ہیں: یحییٰ بن سعید نے شہر کے حوالے سے احادیث نقل نہیں کی ہیں، جب کہ عبدالرحمن نے اس کے حوالے سے احادیث نقل کی ہیں، امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ شعبہ کا یہ بیان نقل کیا ہے: میری ملاقات عطاء کے صاحبزادے سے ہوئی، میں نے ان سے سوال کیا، تو انہوں نے مجھے جواب دیا: زیادہ بن مخرق نے ہمیں حدیث بیان کی ہے، پھر میں زیادہ کے پاس آیا اس سے دریافت کیا، تو اس نے کہا: بنو لیث سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے مجاہد کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے، یہ روایت شہر کے حوالے سے منقول ہے اور یہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جو وضو کے بارے میں ہے۔

معاذ بن معاذ سے ہیں: میں نے ابن عون سے ہلال ابوزینب کے حوالے سے منقول اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا، جو شہر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے طور پر نقل کی ہے:

لا تجحف الارض من دم الشهيد حتى تبتدرہ زوجتاه۔

”زمین پر شہید کا خون خشک ہونے سے پہلے اس کی دو بیویاں لپک کر اس کی طرف آتی ہیں“

تو انہوں نے کہا: شہر کا کیا، کیا جائے؟ کیونکہ شعبہ نے تو شہر کو ترک کر دیا تھا۔

یحییٰ القطان نے عباد بن منصور کا یہ قول نقل کیا ہے: میں نے شہر بن حوشب کے ساتھ حج کیا، تو اس نے میرے کپڑے چوری کر لیے۔

علی بن حفص مدائنی کہتے ہیں: میں نے شعبہ سے عبد الحمید بن بہرام کے بارے میں دریافت کیا، تو وہ بولے: ”یہ ”صدوق“ ہے، البتہ یہ شہر کے حوالے سے روایات نقل کرے (تو پھر صدوق شمار نہیں ہوگا) امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: عبد الحمید کی نقل کردہ حدیث شہر کی نقل کردہ حدیث کے قریب ہوتی ہے، وہ اسے یاد کیا کرتے تھے، یوں پڑھتے تھے، جیسے وہ کسی سورت کی تلاوت کرتے ہوں اور یہ کل 70 احادیث ہیں۔

سیار بن حاتم نے اپنی سند کے ساتھ شہر بن حوشب کا یہ قول نقل کیا ہے:

”جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام ایک سو سال تک ایسی حالت میں رہے کہ وہ اس دوران مسکرائے نہیں، پھر انہوں نے یہ شعر کہے:

”علاقے تبدیل ہو گئے اور وہاں کے رہنے والے بھی تبدیل ہو گئے اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور برا ہو گیا، ہر چیز کا رنگ اور

ذائقہ تبدیل ہو گیا اور خوب صورت چہرے کی بشارت کم ہو گئی“

قال: لكل نبي حرم و حرمي المدينة

”ہر نبی علیہ السلام کا ایک حرم ہوتا ہے اور میرا حرم مدینہ منورہ ہے“

ابن عدی کہتے ہیں: یہ روایت محمد بن یحییٰ نے اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: شہر نامی راوی حسن الحدیث ہے اور اس کا معاملہ قوی ہے، احمد بن عبد اللہ کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے اور شام کا رہنے والا ہے، عباس نے یحییٰ بن

معین رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ثابت ہے۔

یعقوب بن شبیبہ کہتے ہیں: شہر نامی راوی ثقہ ہے، بعض حضرات نے اس کے بارے میں طعن کیا ہے، ابن عدی کہتے ہیں: شہران لوگوں میں سے ایک ہے، جن سے استدلال نہیں کیا جاسکتا اور ان کی نقل کردہ حدیث پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس سے استدلال کرنے کے طرف ایک جماعت گئی ہے، حرب کرمانی نے امام احمد رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: اس کی حدیث کتنی عمدہ ہے؟ انہوں نے اسے ”ثقہ“ قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے: یہ حمص کا رہنے والا تھا۔

حنبل نے امام احمد رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: اس میں کوئی حرج ہیں ہے۔

نسوی کہتے ہیں: شہر کے بارے میں اگرچہ ابن عون نے کلام کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ ثقہ ہے۔

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: جہاں تک اس کے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرنے کا تعلق ہے تو بظاہر وہ روایت ”منقطع“ ہوگی۔

صالح جزرہ کہتے ہیں: یہ حجاج کے پاس آئے اور انہوں نے عراق میں احادیث بیان کیں، ان کی طرف سے کسی جھوٹ پر مطلع نہیں ہوا جاسکا، یہ ایک شخص تھے، جو عبادت گزار تھے۔

ثابت نے ان کے حوالے سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت منفرد طور پر نقل کی ہے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرا: انه عمل غیر صالح

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی: انه عمل غیر صالح

حکم بن عتیبہ نے شہر کے حوالے سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول نقل کیا ہے:

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نھی عن کل مسکر ومفتقر.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور چیز اور ہر جھوٹی بات کہنے سے منع کیا ہے“

ثابت نے اس کے حوالے سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت نقل کی ہے:

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرا: ان اللہ یغفر الذنوب جلیعاً، لایبالی.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی: بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی مغفرت کر دے گا اور پھر یہ فرمایا: وہ اس کی پرواہ

نہیں کرے گا۔“

ابو عبید، خلیفہ بخاری اور ایک جماعت نے یہ کہا ہے: اس کا انتقال 100 ہجری میں ہوا تھا، جب کہ یحییٰ بن کثیر نے یہ کہا ہے: اس کا انتقال 111 ہجری میں ہوا ہے، واقدی اور ابن سعد کہتے ہیں: اس کا انتقال 112 ہجری میں ہوا تھا۔

(شوکر، شیبان)

۳۷۶۲- شوکر

یہ تاریخ کا عالم ہے مورخ ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا یہ شیعہ ہے یہ دوسری صدی سے تعلق رکھتا ہے۔

۳۷۶۳- (صح) شیبان نحوی (ع)

یہ ثقہ اور مشہور ہے اس نے قتادہ اور یحییٰ بن ابوکثیر سے روایات نقل کی ہیں جب کہ اس سے ابن مہدی، ابو نعیم، علی بن جعد اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

صالح بن احمد کہتے ہیں: میرے والد نے یہ بات بیان کی ہے: یہ تمام مشائخ کے بارے میں مثبت ہے ابن ابوشیمہ نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ثقہ ہے اور کتاب کا مصنف ہے اور اسرائیل سے بڑا "حافظ الحدیث" ہے اور یہ ایک نیک شخص ہے امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ صالح الحدیث ہے اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔

۳۷۶۴- (صح) شیبان بن فروخ (م، د، س) ابلی

یہ ثقہ راویوں میں سے ایک ہے اس نے ہمام بن یحییٰ اور مخلوق، جب کہ اس سے مسلم، ابویعلیٰ، بغوی اور بہت سی مخلوق نے روایات نقل کی ہیں یہ علم حدیث کا ماہر تھا اس میں معرفت رکھتا تھا اور اس کی اسناد عالی ہیں۔

امام ابوزرعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ "صدوق" ہے امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ قدریہ فرقے کے نظریات رکھتا تھا، لیکن لوگ آخر کار اس کی طرف جانے پر مجبور ہوئے۔

اس کا انتقال 236 میں اور ایک اور قول کے مطابق 235) ہجری میں ہوا۔

۳۷۶۵- شیبان بن محرم

اس نے علی سے جب کہ اس سے صرف میمون بن مہران نے روایات نقل کی ہیں۔

(شیبہ، شیخ)

۳۷۶۶- شیبہ بن نعامہ

یہ ابونعامہ ضعیفی ہے اس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں۔

یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے "ضعیف" قرار دیا ہے یہ کوئی ہے جریر اور ہشیم نے اس سے روایات نقل کی ہیں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔

۳۷۶۷- شیبہ خضریٰ (د)

اس نے عروہ سے روایات نقل کی ہیں اس کی شناخت نہیں ہو سکی اسحاق ابن عبداللہ اس سے روایات نقل کرنے میں منفرد ہے۔

۳۷۶۸- شیخ بن ابو خالد

اس نے حماد بن سلمہ سے روایات نقل کی ہیں اس پر احادیث ایجاد کرنے کا الزام ہے اور اس کی نقل کردہ جھوٹی روایات میں سے ایک روایت وہ ہے جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

قال: كان نقش خاتم سليمان عليه السلام لا اله الا الله محمد رسول الله.
”حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پر یہ نقش تھا لا اله الا الله محمد رسول الله“
اسی سند کے ساتھ یہ روایت بھی منقول ہے:

اهل الجنة مرد الاموسى فليحيته الى سرتة.
”اہل جنت داڑھی مونچھ کے بغیر ہونگے“ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ مختلف ہے، کیونکہ ان کی داڑھی ناف تک آئی ہوگی۔“

اسی سند کے ساتھ یہ روایت بھی منقول ہے:

الشعر فى الانف امان من الجذام.

”ناک میں بال آدمی کو جذام سے محفوظ رکھتے ہیں“

یہ روایات اس سے محمد بن ابومری عسقلانی نے نقل کی ہیں اور یہ شیخ مجہول ہے اور دجال ہے۔

اسحاق اسدی نے اپنی سند کے ساتھ سلیمان بن حرب کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں ایک بزرگ کے پاس گیا، وہ رور ہے تھے، میں نے دریافت کیا: آپ کیوں رور ہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے چار سو احادیث ایجاد کی تھیں اور لوگوں کے صحیفوں کے درمیان شامل کروادی تھیں اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ بزرگ شیخ بن ابو خالد تھا، حاکم کہتے ہیں: اس نے حماد بن سلمہ سے صفات اور دیگر موضوعات کے بارے میں موضوع احادیث روایت کی ہیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

حرف الصاد

(صاعد)

۳۷۶۹- صاعد بن حسن ربیع، ابوعلء

یہ ادبیات کا ماہر تھا اس نے اندلس میں رہائش اختیار کی تھی، ابن بشکوال کہتے ہیں: اس پر جھوٹا ہونے کا الزام ہے۔

۳۷۷۰- صاعد بن مسلم

ایک قول کے مطابق اس کے باپ کا نام محمد ہے اور اس کی کنیت ابوعلء ہے۔ اس نیشعی اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، ابو زرعد نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے، فلاس کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے، ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ امام شعی کا آزاد کردہ غلام ہے، صاعد بن مسلم بیان کرتے ہیں: انہوں نے امام شعی کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ایسا مقتول جس کو ایسی حالت میں پایا جائے کہ اس کے اعضاء کاٹ دیے گئے ہوں، تو امام شعی کہتے ہیں: تم اس کے جسم پر نماز ادا کرو۔

امام شعی کہتے ہیں: اسلام میں سب سے پہلے کسی سر پر جو نماز جنازہ ادا کی گئی وہ عبداللہ بن زبیر کا سر تھا، ابو حفص صیرفی بیان کرتے ہیں: یحییٰ اور عبدالرحمن، صاعد، شکرہ سے حدیث روایت نہیں کرتے تھے۔

(صالح)

۳۷۷۱- صالح بن ابراہیم بن محمد بن طلحہ بن عبید اللہ

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے۔

۳۷۷۲- صالح بن احمد بن ابو مقاتل

اس نے یعقوب دورقی، یوسف بن موسیٰ القطان اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، یہ ”قیراطی بزاز“ کے نام سے معروف ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے، کذاب ہے اور دجال ہے، ہم نے اس کا زمانہ پایا، لیکن اس سے احادیث نوٹ نہیں کی

ہیں یہ بعض اوقات ایسی روایات بیان کر دیتا ہے جو اس نے سنی ہوئی نہیں ہوتی ہیں۔

ابن عدی کہتے ہیں: یہ احادیث میں سرقہ کا مرتکب ہوتا ہے اس کے دادا کا نام یونس تھا برقانی کہتے ہیں: اس کی حدیث رخصت ہو گئی تھی عبداللہ جنہوں نے امام ابوحنیفہ کی ”مسند“ جمع کی ہے وہ بیان کرتے ہیں: صالح نے مجھے یہ حدیث تحریر کر کے بھیجی جو اس نے اپنی سند کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے نقل کی ہے وہ بیان کرتی ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنس البيت الحمار، بيت لا يستر، ماء لا يطهر
”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: سب سے برا گھر حمار ہے ایک ایسا گھر جس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا اور جس میں پاک پانی نہیں ہوتا۔“

یہ صالح نامی راوی کی ایجاد کردہ روایت ہے (امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس کا انتقال 316 ہجری میں ہوا۔
۳۷۷۳- صالح بن احمد بن یونس ہروی۔

اس نے محمد بن نطاح سے روایات نقل کی ہیں ابو احمد حاکم کہتے ہیں: اس میں غور فکر کی گنجائش ہے۔

۳۷۷۴- صالح بن ابواخضر (عمو) بصری

یہ صالح الحدیث ہے یحییٰ بن معین، نسائی اور بخاری نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے عباس اور عثمان نے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے اس نے صالح بن عبدالرحمن بن مہدی اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں۔

معاذ بن صالح کہتے ہیں: ہم نے صالح بن ابواخضر سے ان کی زہری سے نقل کردہ روایت کے بارے میں درخواست کی تو انہوں نے کہا: میں نے ان سے کچھ روایات سنی ہیں کچھ میں نے ان کے سامنے پیش کی ہیں اور کچھ روایات ان سے نہیں سنی ہیں تو یہ روایات میرے لیے خلط ملط ہو گئی ہیں۔

عیسیٰ بن یونس نے اپنی سند کے ساتھ صالح نامی راوی کا یہ بیان نقل کیا ہے زہری نے مجھ سے کہا: اگر تمہارے پاس اعمش کی نقل کردہ کوئی حدیث ہے تو اسے میرے سامنے بیان کر دو۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

رایت ابا بکر يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قبض.

”میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا۔“

ابن عدی کہتے ہیں: یہ ان ضعیف راویوں میں سے ایک ہے جس کی حدیث کو نوٹ کیا جائے گا امام ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ ہشام بن عبدالملک اموی کا آزاد کردہ غلام ہے یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس سے استدلال نہ کیا جائے احمد بن عبداللہ عجلی کہتے ہیں: اس کی حدیث کو نوٹ کیا جائے گا تاہم یہ ”قوی“ نہیں ہے۔

جوز جانی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ احادیث کی وجہ سے اس پر تہمت عائد کی گئی ہے، ابو زرعد کہتے ہیں: یہ ضعیف الحدیث ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ لین الحدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اسے حدیث میں ضعیف قرار دیا گیا ہے۔
یحییٰ القطان اور دیگر حضرات نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس سے استدلال کیا جائے گا اور اس پر اعتبار کیا جائے گا۔

۳۷۷۵- صالح بن اسحاق بجلی بصری۔

اس نے عبدالوارث بن سعید سے روایت نقل کی ہے، ازدی کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے۔

۳۷۷۶- صالح بن ابوالاسود کوفی خیاط

اس نے اعمش اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، یہ واہی ہے، ابن عدی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ احادیث مستقیم نہیں ہیں اور معروف بھی نہیں ہیں، اس نے اپنی سند کے ساتھ عطیہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:
”میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: آپ لوگوں کے درمیان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حیثیت کیسی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا: وہ سب سے بہترین فرد تھے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: شاید ان کی مراد یہ تھی کہ ان کے زمانے میں (یعنی زمانہ خلافت میں ایسا تھا)۔

۳۷۷۷- صالح بن بشر سدوسی

اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔

۳۷۷۸- صالح بن بشیر (ت) الزہاد

اس کی کنیت ابو بشر المری ہے اور یہ واعظ تھا اور بصرہ کا رہنے والا مشہور شخص ہے، اس نے حسن، ابن سیرین اور ثابت سے روایات نقل کی ہیں، ابن معین اور دارقطنی نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ قصہ گوئی کیا کرتا تھا، یہ علم حدیث کا ماہر نہیں ہے اور نہ ہی علم حدیث سے واقفیت رکھتا تھا۔

فلاس کہتے ہیں: یہ انتہائی منکر الحدیث ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے، عباس نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ پانچ راویوں نے یحییٰ کے حوالے سے اس کا مجروح ہونا روایت کیا ہے۔

عفان بیان کرتے ہیں: ہم صالح کی محفل میں شریک ہوئے، تو جب وہ کوئی واقعہ بیان کرتا شروع کرتا تھا، تو وہ ایک غمزہ شخص ہوتا تھا اور اس کا معاملہ اس کے غم کی شدت اور اس کے رونے کی وجہ سے یوں لگتا تھا، جیسے اس نے اپنے بچے کو کھو دیا ہے اور ایسا اللہ تعالیٰ کے خوف کی شدت کی وجہ سے ہوتا تھا۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

ان ربکم حی کریم یستحی ان ید احدکم یدہ البہ فیردہما خائبتین۔
 ”تمہارا پروردگار زندہ ہے اور مہربان ہے وہ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ کوئی شخص اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، تو وہ ان دونوں کو خالی واپس کر دے“

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ بیان نقل کیا ہے:

کنا جلوسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال: یطلع علیکم من هذا الباب رجل من اهل الجنة فاذا سعد.

”ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ارشاد فرمایا: اس دروازے سے تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آئے گا، تو وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھے۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

ان عمار بیوت اللہ ہم اهل اللہ.

”بے شک اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے والے لوگ ہی اللہ والے ہیں“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

ان اللہ من علی فیما من بہ انی اعطیتک فاتحة الكتاب، ہی من کنوز عرشى، ثم قسمتها بینى و بینک نصفین.

”بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے فاتحہ الکتاب عطا کی ہے اور وہ یہ فرماتا ہے: یہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک ہے، پھر میں نے اسے اپنے اور تمہارے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔“

ایک قول کے مطابق اس کا انتقال 173 ہجری میں ہوا۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اعلموا ان اللہ لا یتجیب دعاء من قلب لاه.

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تو اس کے قبول ہونے کا یقین رکھو، یہ بات جان لو! کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا جو عاقل دل کی طرف سے کی گئی ہو۔“

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

خرج علينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر فغضب.

”ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم اس وقت تقدیر کے موضوع پر بحث کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔“

۳۷۷۹- صالح بن بشیر بن فدیك

جہاں تک اس کا تعلق ہے تو یہ زہری کا استاد ہے، البتہ اسے ضعیف قرار نہیں دیا گیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کے حوالے سے ہجرت کے بارے میں روایت منقول ہے۔

۳۷۸۰- صالح بن بیان

اس نے شعبہ اور سفیان سے روایات نقل کی ہیں، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے۔ ابن عدی نے اپنی سند کے ساتھ صالح نامی راوی کا یہ بیان نقل کیا ہے، جو ایک نیک شخص تھا، وہ کہتا ہے: میں نے سفیان ثوری سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا، تو وہ بولے: میں تمہیں اس وقت تک حدیث بیان نہیں کروں گا، جب تک تم مجھے اس بات کی ضمانت نہیں دیتے کہ تم بغداد سے نکل جاؤ گے، میں نے انہیں ضمانت دیدی، تو انہوں نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی:

قال: تبني مدينه بين دجله ودجيل لهي اسرع ذهابا في الارض من الوتد الحديد في الارض الرخوه.

”دجلہ اور دجيل کے درمیان ایک شہر آباد کیا جائے گا، جو دنیا میں اس سے زیادہ تیزی سے ختم ہوگا، جتنی تیزی سے لوہے کا کیل نرم زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔“

ابوعبیدہ نامی راوی میرے خیال میں حمید الطویل ہے (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ روایت جھوٹی ہے۔ اس سے یہ روایت بھی منقول ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے: من تكلم في القدر، فاصاب اعطى ثواب الانبياء، ان اخطأ اكب على وجهه في النار، ان سكت لم يساله الله عنه.

”جو شخص تقدیر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے صحیح بات بیان کرے اسے انبیاء کا ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ غلطی کرے، تو اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اگر وہ خاموش رہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال نہیں کرے گا۔“

یہ روایت جھوٹی ہے۔

۳۷۸۱- صالح بن جبلة

اس نے قیس بن عبدہ کے حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، ازدی کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، شہاب بن خراش نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۷۸۲- صالح بن جبیر

اس نے حضرت ابو جعفر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، یحییٰ بن معین نے اسے ”ثقف“ قرار دیا ہے، یہ معروف نہیں

ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ مجہول ہے، معاویہ بن صالح، ہشام بن سعد نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔
ابو الحسین یونینی نے اپنی سند کے ساتھ صالح بن جبیر نامی اس راوی کا بیان نقل کیا ہے:

قدم علينا ابو جبعه الانصاري فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: هل قوم اعظم منا اجرا؟ فقال: بلى، قوم ياتون من بعدكم ياتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به ويعلمون بها فيه، اولئك اعظم منكم اجرا... وذكر الحديث.

حضرت ابو جبعہ انصاری رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے انہوں نے فرمایا: ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نے دریافت کیا: کیا کسی قوم کو ہم سے زیادہ اجر ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جی ہاں! یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے ان کے پاس کتاب دو لوحوں کے درمیان آئے گی، وہ اس پر ایمان رکھیں گے اور جو احکام اس میں موجود ہیں ان پر عمل کریں گے ان لوگوں کو تم سے زیادہ اجر ملے گا“

۳۷۸۳- صالح بن ابو جبیر (ت)

اس نے اپنے والد کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، ابن قطان نے اس پر تنقید کی ہے، کیونکہ کسی نے بھی اس کی توثیق نہیں کی ہے ویسے اس بزرگ کا محل صدق ہے، جہاں تک اس کے باپ کا معاملہ ہے تو اس کی شناخت نہیں ہو سکی۔
اس نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت رافع بن عمر وغفاری رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

كنت ارمي نخل الانصار... الحديث

”میں انصار کے علاقے میں تیرا اندازی کر رہا تھا“

یہ روایت فضل بن موسیٰ سینانی نے اس سے نقل کی ہے، یحییٰ بن واضح نے بھی اس سے روایات نقل کی ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روایت کو نقل کیا ہے اور اس کے غریب ہونے کے ہمراہ اسے حسن قرار دیا ہے، قطان کہتے ہیں: یہ مناسب نہیں ہے کہ اسے حسن قرار دیا جائے بلکہ یہ ضعیف ہے، کیونکہ صالح اور اس کا باپ دونوں کی حالت مجہول ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ مجہول ہے۔

۳۷۸۴- صالح بن حریر

یحییٰ بن العلاء نے اس سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے

۳۷۸۵- صالح بن ابو حسان (ت، س)

اس نے سعید بن مسیب اور عروہ سے روایات نقل کی ہیں، ایک قول کے مطابق اس کا نام صالح بن حسان نصری ہے۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: (یہ ”منکر الحدیث“ اور ضعیف ہے، ابن عدی کہتے ہیں: صالح بن حسان مدنی نے بصرہ میں رہائش اختیار کی تھی عباس نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ضعیف ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے، ایک قول کے مطابق صالح بن

ابوحسان نامی راوی شخص کوئی اور ہے، لیکن بہر حال یہ دونوں راوی ضعیف ہیں۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ ۲ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

ان سرک اللحوق بی فلا تخالطی الاغنیاء ، لا تستبدلی بثوب حتی ترقعیه .

”اگر تمہیں یہ بات پسند ہو کہ تم مجھ سے آن لو، تو پھر تم خوشحال لوگوں کی ہم نشینی اختیار نہ کرنا اور کسی بھی کپڑے کو اس وقت تک تبدیل نہ کرنا (یعنی نیا کپڑا نہ پہننا) جب تک تم اس میں بیوند نہیں لگالیتی ہو۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

ولدت سبعه بعد موت زوجها بلیلتین، فاستاذنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامرہا فنکحت .

”سبعہ نامی خاتون نے اپنے شوہر کے انتقال کے دو دن بعد بچے کو جنم دے دیا، اس نے نبی اکرم ﷺ سے اجازت مانگی تو نبی اکرم ﷺ نے اسے اگلی شادی کرنے کی اجازت دیدی۔“

ابن عدی کہتے ہیں: صالح نامی یہ شخص ضعیف ہونے کے زیادہ قریب ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ہمارے شیخ نے اپنی کتاب ”تہذیب الکمال“ میں یہ بات نقل کی ہے: صالح بن حسان نضری مدنی نے بصرہ میں رہائش اختیار کی تھی، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ جاز کا رہنے والا تھا یہ بغداد آ گیا تھا اس نے اپنے والد سے ابن مسیب، عروہ، محمد بن کعب سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے ابن ابی ذئب، ابو ضمہرہ، سعید بن محمد وراق، ابو یحییٰ حمانی اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں۔

امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے۔

۳۷۸۶- صالح بن ابوحسان مدنی

اس نے ابن مسیب اور ابو سلمہ سے، جب کہ اس سے ابن ابی ذئب، بکیر بن انج اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: صالح بن حسان نامی راوی منکر الحدیث ہے، صالح بن ابوحسان، جس سے ابن ابوزئب نے روایات نقل کی ہیں، وہ ثقہ ہے، ابو حاتم نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے۔

۳۷۸۷- صالح بن حسین بن صالح سواق

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے، ابن ابی اویس اور ہارون حمال نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۷۸۸- صالح بن حیان قرشی کوفی

اس نے ابن بریدہ سے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے کہا: یہ اس پائے کا نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس میں غور و فکر کی گنجائش ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ثقہ“ نہیں ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

العجوة من فاكهة الجنة

”عجوة کھجور جنت کے پھلوں میں سے ایک ہے۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

كان حي من بني ليث على ميلين من المدينة، كان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه، فاتاهم وعليه حله، فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه، امرني ان احكم في اموالكم ودمائكم، ثم انطلق فنزل على تلك البراه التي كان خطبها، فارسل القوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كذب عدو الله، ثم ارسل رجلا فقال: ان وجدته حيا فاضرب عنقه، ان وجدته ميتا فاحرقه، فجاء فوجده قد لدغته افعى فبات، فحرقه بالنار، فذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب على متعبدا فليتبوا مقعده من النار تفرد به حجاج بن الشاعر، عن زكريا بن عدي، عنه.

”بنو ليث قبیلے کا ایک گروہ مدینہ منورہ سے دو میل کے فاصلے پر رہتا تھا، ان میں سے ایک شخص نے زمانہ جاہلیت میں شادی کا پیغام بھیجا تھا، لیکن انہوں نے اس کی شادی نہیں کروائی، پھر وہ ان کے پاس آیا، جب کہ اس نے حلہ پہنا ہوا تھا اس نے بتایا: نبی اکرم ﷺ نے مجھے یہ پہننے کے لیے دیا اور آپ ﷺ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے اموال اور تمہاری جانوں کے بارے میں فیصلے کروں پھر وہ شخص گیا اور اس عورت کے ہاں مہمان ٹھہرا، جس کو اس نے شادی کا پیغام بھیجا تھا، ان لوگوں نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں تحقیق کے لیے آدی بھیجا تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے، پھر آپ ﷺ نے ایک شخص کو بھیجا اور فرمایا: اگر تم اسے زندہ پاؤ، تو اس کی گردن اڑا دینا اور اگر تم اسے مردہ پاؤ، تو اسے جلا دینا، جب وہ شخص آیا تو اس نے اسے پایا کہ ایک سانپ نے اسے ڈس لیا تھا اور وہ مر چکا ہے، تو اس شخص نے اسے جلا دیا، تو یہ نبی اکرم ﷺ کے اس فرمان کی وجہ سے تھا:

”جو شخص میری طرف جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات بیان کرے، وہ جہنم میں اپنے ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے تیار ہے۔“

زکریا بن عدی سے اس روایت کو نقل کرنے میں حجاج بن شاعر نامی راوی منفرد ہے، جب کہ سوید نامی راوی نے علی نامی راوی کے حوالے سے اس روایت کا آخری حصہ نقل کیا ہے۔

یہ تمام روایات ”الصارم المسلول“ نامی کتاب کے مصنف (ابن تیمیہ نے) بغوی کے حوالے سے اس کی سند کے ساتھ علی بن مسہر سے نقل کی ہیں اور انہیں صحیح قرار دیا ہے، لیکن یہ کسی بھی صورت کے حوالے سے مستند نہیں ہے۔

امام ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں: صالح بن حیان قرشی نے ابوداؤد کے حوالے سے ابن بریدہ کے حوالے سے نافع سے روایات نقل کی ہیں اور اس سے مروان فزاری، یعلیٰ بن عبید نے روایات نقل کی ہیں، جب یہ کسی روایت کو نقل کرنے میں منفرد ہو، تو مجھے اس سے

استدلال کرنا پسند نہیں ہے، ابن عدی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ زیادہ تر روایات غیر محفوظ ہیں۔

۳۷۸۹- صالح بن خیوان (د)

عبدالحق ازدی نے اس کے باپ کا نام خیوان نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں: اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا، اس نے ابوہلہ سائب کے حوالے سے اس شخص کی مذمت کے بارے میں روایت نقل کی ہے، جس نے قبلہ کی سمت تھوک دیا تھا، یہ روایت اس کے حوالے سے بکر بن سوادہ نے نقل کی ہے۔

جہاں تک ابن ابوحاتم کا تعلق ہے تو انہوں نے اس کے باپ کا نام خیوان نقل کیا ہے اور یہ دونوں اقوال ابن فرضی نے نقل کیے ہیں احمد بن عبداللہ عجل کہتے ہیں: صالح بن خیوان تابعی ہے اور ثقہ ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: بکر کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایت نقل نہیں کی ہے۔

۳۷۹۰- صالح بن دراج کاتب

اس نے عبداللہ بن نافع سے روایات نقل کی ہیں، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے، میں اسے واقف نہیں ہوں۔

۳۷۹۱- صالح بن دعیم

اس نے طبرانی اور بغوی سے روایات نقل کی ہیں، اس پر احادیث ایجاد کرنے کا الزام عائد ہے۔

۳۷۹۲- صالح بن دینار (س)

اس نے عمرو بن شرید سے، جب کہ اس سے صرف عامرا حول نے روایات نقل کی ہیں۔

۳۷۹۳- صالح بن دینار (ق) تمار

اس نے حضرت ابوسعید خدری کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، اس کے حوالے سے اس کے بیٹے داؤد کے علاوہ اور کسی نے روایت نقل نہیں کی، جسے ”ثقہ“ قرار دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے قیمت زیادہ کرنے کے بارے میں روایت منقول ہے۔

۳۷۹۴- صالح بن راشد

اس نے عبداللہ بن ابومطرف سے روایات نقل کی ہیں، یہ شامی ہے، اس کی شناخت پتا نہیں چل سکی ہے اور اس کی نقل کردہ حدیث منکر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ مستند نہیں ہے۔

۳۷۹۵- صالح بن رزیق (ق) عطار

اس نے سعید بن عبدالرحمن جمی سے روایات نقل کی ہیں، کوج نے اس کے حوالے سے صرف ایک منکر حدیث نقل کی ہے، جو اس نے اپنی سند کے ساتھ موسیٰ بن علی کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے سے حضرت عمرو بن العاص سے روایت کی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لقلب ابن آدم بكل واد شعبة فمن توكل على الله كفاه الشعب.

”نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: بیشک ابن آدم کے دل میں ہر وادی کے لیے ایک شعبہ ہے، تو جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام شعبوں کے حوالے سے اس کی کفایت کر لیتا ہے۔“

۳۷۹۶۔ (صح) صالح بن رستم (م، عو)، ابو عامر خزاز

اس نے حسن اور محمد سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، عباس نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ضعیف ہے، اسی طرح امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے، ابن عدی کہتے ہیں: میں نے اس کے حوالے سے کوئی ایسی حدیث نہیں دیکھی جو انتہائی منکر ہو، ابن ابوشیبہ کہتے ہیں: میں نے ابن مدینی سے اس کے حوالے میں دریافت کیا، تو وہ بولے: اس نے ابن ابوملیکہ کے حوالے سے احادیث بیان کی ہیں، یہ ضعیف ہے، یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے۔

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

قال رجل: يا رسول الله مما اضرب منه يتيمى؟ قال: مما كنت ضاربا منه ولدك، غير واق مالك من ماله ولا متائل من ماله مالا.

”ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں اپنے زیر پرورش یتیم لڑکے کی کس بنیاد پر اس کی پٹائی کروں، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس وجہ سے تم اپنی اولاد کی پٹائی کرتے ہو، جب کہ تم اپنے مال کو اس کے مال میں شامل کرنے سے بچتے ہو اور اس کے مال کے ذریعے اپنے مال میں اضافہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔“

اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلى وقد اقيمت صلاة الصبح، فقال: اتصلى الصبح اربعا.

”نبی اکرم ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صبح کی نماز کے لیے اقامت ہو جانے کے بعد نماز ادا کر رہا تھا تو نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: تم صبح کی نماز میں چار رکعات پڑھو گے؟“

ابو عامر خزاز نامی راوی کی روایات تقریباً پچاس تک پہنچی ہیں اور یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے: یہ صالح الحدیث ہے۔

۳۷۹۷۔ (د) صالح (بن رستم)

اس نے کھول شامی سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس سے دو ثقہ روایوں نے روایات نقل کی ہیں، اس حوالے سے اس کا مجہول ہونا کم ہو جاتا ہے اس کے حوالے سے ایک روایت ”سنن ابوداؤد“ میں منقول ہے جو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

عبدالرحمن بن یزید بن جابر نے اس کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں اور یہ کہا ہے: ہمیں ایک بزرگ نے حدیث بیان کی، جس کی کنیت ابو عبدالسلام تھی، اس نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

یوشک ان تداعی علیکم الائمہ کما تداعی الاکلہ الی قصعتها ... الحدیث.

”عنقریب ایسا وقت آئے گا جب مختلف قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو یوں دعوت دیں گی، جس طرح کھانے والوں کو پیالے کی طرف دعوت دی جاتی ہے“

یہ اپنی کنیت کے حوالے سے زیادہ مشہور ہے امام ابوزرعہ رحمۃ اللہ علیہ مشقی اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام بیان کیا ہے۔

۳۷۹۸- صالح بن رمیح (س)

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے۔

۳۷۹۹- صالح بن رؤبہ

یہ مجہول ہے، شیبہ بن عمر نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۸۰۰- صالح بن رومان حجازی

اس نے ابوزبیر اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، اس میں مجہول ہونا پایا جاتا ہے، اور اس کی نقل کردہ روایت منکر ہے۔

۳۸۰۱- صالح بن زیاد

اس نے عمرو بن دینار سے روایات نقل کی ہیں، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ثقہ نہیں ہے، یہ عبدالواحد کا بھائی ہے۔

۳۸۰۲- صالح بن سرج

اسلم منقری نے اس سے حکایت نقل کی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ خارجی تھا۔

۳۸۰۳- صالح بن سلیمان

ابومحمد بن غلام زہری کہتے ہیں: محمد بن عثمان بن ابوشیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی ہے اور یہ پسندیدہ شخصیت نہیں ہے۔

۳۸۰۴- صالح بن شریح

اس نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے، ابوزرعہ کہتے ہیں: یہ مجہول ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: ایک جماعت نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۸۰۵- (صح) صالح بن صالح بن حمی (ع)

یہ حسن بن صالح اور علی بن صالح کا والد ہے، یہ ”صدوق“ ہے، احمد بن عبد اللہ عجلی کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے، اس نے امام شعی سے احادیث کا سماع کیا ہے، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے اسے ”ثقفہ“ قرار دیا ہے۔

۳۸۰۶- صالح بن عامر (د)

یہ غیر معروف شخص ہے، بلکہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”مرفوع“ حدیث نقل کی ہے:

انه نهى عن بيع المضطر.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مضطر سے منع کیا ہے۔“

یہ روایت منقطع ہے (اصل متن یوں ہے) صالح نے عامر سے یہ روایت نقل کی ہے۔

۳۸۰۷- صالح بن عبد اللہ بن صالح مدنی (ق)

امام ابن ماجہ نے اس کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے۔ (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: اس کے حوالے سے صرف ابراہیم بن منذر حزامینے روایات نقل کی ہیں۔

۳۸۰۸- صالح بن عبد اللہ قیروانی

اس نے امام مالک سے ایک منکر روایت نقل کی ہے اور اس سے اس کے بیٹے فضل نے روایت نقل کی ہے، خطیب کہتے ہیں: دونوں مجہول ہیں۔

۳۸۰۹- صالح بن عبد اللہ کرمانی

اس نے حضرت ابوامامہ بن سہل سے روایات نقل کی ہیں، ازدی کہتے ہیں: محدثین نے اسے ترک کر دیا تھا۔

۳۸۱۰- صالح بن ابوصالح (س) اسدی

اس نے روزہ دار کے (اپنی بیوی کو) بوسہ دینے کے بارے میں روایت نقل کی ہے، زکریا بن ابوزاندہ اس سے روایت نقل کرنے میں منفرد ہے۔

۳۸۱۱- صالح بن ابوصالح

یہ ایک دوسرا شخص ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا۔

۳۸۱۲- صالح بن عبد اللہ، ابو یحییٰ

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل

کی ہے:

ابن اخت القوم منهم

”قوم کا بھانجا ان کا ایک فرد ہوتا ہے۔“

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس میں غور و فکر کی گنجائش ہے، عقلی نے اس کا ذکر کیا ہے۔

۳۸۱۳- صالح بن صہیب (ق) رومی

عبدالرحیم بن داود اس سے روایت نقل کرنے میں منفر د ہے۔

۳۸۱۴- صالح بن عبد جبار

اس نے ابن جریج سے روایات نقل کی ہیں اس نے ایک انتہائی منکر روایت نقل کی ہے جو ابن اعرابی نے اپنی ”معجم“ نے نقل کی

ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

الرضاع یغیر الطباع.

”رضاعت‘ طبیعت کو تبدیل کر دیتی ہے“

اس میں انقطاع پایا جاتا ہے، کیونکہ عبدالملک مدنی نامی راوی ضعیف ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

فی الصداق، قال: ولو قضیب من اراک.

”مہر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: یہ ضرور ہونا چاہیے، خواہ وہ پیلو کی ایک شاخ ہو“

یہ روایت ”مرسل“ روایت کے طور پر بھی نقل کی گئی ہے اور یہ زیادہ مناسب ہے۔

۳۸۱۵- صالح بن عبدالقدوس، ابو فضل ازدی

یہ فلسفی اور زندیق تھا، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ نہیں ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: مجھے اس کے حوالے سے کسی روایت کا علم نہیں ہے، اس کے زندیق ہونے کی وجہ سے

مہدی نے اسے قتل کروا دیا تھا۔

یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے، ابن عدی کہتے ہیں: یہ بصرہ میں وعظ کرتا تھا اور قصہ گوئی کرتا تھا، مجھے

اس کے حوالے سے حدیث کا علم نہیں ہے، اس سے صرف تھوڑی سی روایات اس سے منقول ہیں۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس نے یہ اشعار کہے ہیں:

ما یبلغ الاعداء من جاہل	ما یبلغ الجاہل من نفسہ
والشیخ لا یتربک اخلاقہ	حتی یواری فی ثری رمسہ
اذا ارعوی عاد الی جہلہ	کذی الضنا عاد الی نکسہ
وان من ادبتہ فی الصبی	کالعود یسقی الباء فی غرسہ
حتی تراہ مورقا ناضرا	بعد الذی ابصرت من یسہ

جاہل کی طرف سے دشمنی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک جاہل بذاتِ خود پہنچ جاتا ہے۔ شیخ اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑتا ہے جہاں تک قبر کی مٹی میں چھپ جاتا ہے۔ اور جب اسے چھوڑ دیا جائے تو جہالت کی طرف لوٹ جاتا ہے جیسا کہ بیمار شخص کمزوری کی طرف بڑھتا ہے اور اگر کوئی شخص بچپن میں اس کو ادب سکھائے تو اس عود کے پودے کی طرح ہے جس کو پانی سیراب کرتا ہے یہاں تک کہ تو اسے خشک ہونے کے بعد بھی سرسبز دیکھے گا۔ اور اس نے یہ اشعار بھی کہے ہیں:

المراء یجمع والزمان یفرق	ویظل یرقم والخطوب تمزق
ولان یعادى عاقلا خیر له	من ان یکون له صدیق احب
فارغب بنفسک لا تصادق احبقا	ان الصدیق علی الصدیق مصدق
وزن الکلام اذا نطقت فانما	یبدي عقول ذوی العقول السنطق
لا الفینک ثاویا فی غربہ	ان الغریب بکل سهم یرشق
ما الناس الا عاملان فاعامل	قد مات من عطش و آخر یغرق
واذا امرؤ لسعته افعی مرہ	ترکتہ حین یجر حبل یفرق ب
قی الذین اذا یقولوا یکذبوا	ومضی الذین اذا یقولوا یرصدقوا

”لوگ جمع ہوتے ہیں اور زمانہ ان کو جدا کر دیتا ہے۔ وہ ملتے ہیں اور حالات انہیں بکھیر دیتے ہیں۔ بے وقوف دوست سے عقلمند دشمن بہتر ہے، تو اپنے آپ کو بچا کر رکھ بے وقوف آدمی کو دوست مت بنا۔ کیونکہ دوست ہی دوست کا مصدق ہوتا ہے۔ کلام کا وزن اس وقت معلوم ہوتا ہے جب تو بولے۔ اس لئے کہ عقل والوں کی عقل بولنے سے ظاہر ہوتی ہے، میں دوری کے مقام پر اقامت کرتے ہوئے نہ پاؤں اس لئے کہ غریب آدمی ہی تیروں کا نشانہ بنتا ہے۔ لوگوں پر دو قسم کے حالات کارفرما ہیں۔ کوئی تو پیاس سے مر جاتے ہیں اور کوئی ڈوب کر مر جاتا ہے۔ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ (ان کے حکم پر) ایک مرتبہ وہ حرکت کرتا ہوا اثر دھابن جاتا ہے اور جب وہ اسے چھوڑتے تو واضح انہی کی شکل اختیار کر جاتے۔ اب وہ لوگ باقی رہ گئے کہ جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، ایسے لوگ گزر گئے جب بولتے تھے تو سچ بولتے تھے۔

بعض راویوں نے یہ روایت نقل کی ہے: میں نے صالح بن عبدالقدوس کو خواب میں مسکراتے ہوئے دیکھا تو میں نے دریافت کیا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا اور تم پر جو الزامات عائد کیے جاتے تھے ان سے تمہیں کیسے نجات ملی؟ تو اس نے کہا میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوا جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے تو اس نے رحمت کے ذریعے میرا سامنا کیا اور فرمایا: مجھے یہ پتا ہے کہ تم اس سے بری ذمہ ہو جو تم پر الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔

۳۸۱۶- صالح بن عبدالکبیر (ت) بن شعیب بن حجاب

میرے علم کے مطابق اس کے حوالے سے اس کے بھانجے عبدالقدوس بن محمد کے علاوہ اور کسی نے روایت نقل نہیں کی ہے۔

۳۸۱۷- صالح بن عبدالکبیر مسمعی

اس نے حماد بن زید سے روایات نقل کی ہیں، احمد بن محمد بن اسکن مرقی اس سے روایت کرنے میں منفرد ہے۔

۳۸۱۸- صالح بن عبید اللہ ازدی

اس نے ابوالجوزاء سے روایات نقل کی ہیں، ابوالفتح ازدی کہتے ہیں: اس کے حوالے سے میرے ذہن میں کچھ الجھن ہے۔

۳۸۱۹- صالح بن عبید، ابو مصعب

اس نے وہب بن منبہ سے روایات نقل کی ہیں، ابن مدینی نے اس سے ملاقات کی تھی یہ مجہول ہے۔

۳۸۲۰- صالح بن عبید (د)

اس نے قبیصہ بن وقاص سے ظالم حکمرانوں کے پیچھے نماز ادا کرنے کے بارے میں روایت نقل کی ہے۔

اس سے ابوہاشم زعفرانی نے روایات نقل کی ہیں، ابن القطان کہتے ہیں: اس کی حالت کا پتہ نہیں چل سکا۔

۳۸۲۱- صالح بن عجلان (د، ق)

ازدی نے اس کا تذکرہ اس طرح مختصر طور پر کیا ہے اور یہ کہا ہے: لوگوں نے اس کی حدیث کے بارے میں کلام کیا ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: شیخ بن سلیمان نے اس سے ملاقات کی ہے۔

۳۸۲۲- صالح بن ابو عریب (د، س، ق)۔

اس نے کثیر بن مرہ کے حوالے سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہے:

من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة

”جس شخص کا آخری کلام لا اله الا الله ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا“

یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں: اس کی حالت کا پتہ نہیں چل سکا اور نہ ہی عبدالحمید بن جعفر کے علاوہ کسی اور ایسے شخص کا پتا چل سکا ہے

جس نے اس کے حوالے سے روایت نقل کی ہو۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: جی ہاں اس کے حوالے سے حیوۃ بن شریح، لیث، ابن لہیعہ اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں اس کے حوالے سے کچھ اور احادیث بھی منقول ہیں ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

۳۸۲۳- صالح بن عمران، ابو شعیب الدعاء

اس نے ابو عبید اور ابو نعیم سے، جب کہ اس سے احمد بن کامل اور ابو بکر شافعی نے روایات نقل کی ہیں، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بعض حضرات نے یہ کہا ہے: یہ قوی نہیں ہے، ابو الحسن بن منادی کہتے ہیں: لوگوں نے اس سے روایات نوٹ کی ہیں، لیکن یہ اتنا قوی کا نہیں ہے۔

۳۸۲۴- صالح بن عمرو

اس نے ابان سے روایات نقل کی ہیں، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے۔

۳۸۲۵- صالح بن قدامہ (س) حجازی

ابو بکر حمیدی اور دیگر حضرات نے اس سے احادیث روایت کی ہیں، یہ صالح الحدیث ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ازدی کہتے ہیں: اس میں کمزوری پائی جاتی ہے۔

۳۸۲۶- صالح بن کثیر

اس نے ابن شہاب سے روایات نقل کی ہیں، ابن ابوزب اس سے روایات نقل کرنے میں منفرد ہے، ازدی کہتے ہیں: اس میں کمزوری پائی جاتی ہے۔

۳۸۲۷- صالح بن کندیر

یہ مجہول ہے

۳۸۲۸- (صح) صالح بن کیسان (ع)

یہ ثقہ اور علماء میں ایک ہے، اس پر قدریہ فرقے سے تعلق رکھنے کا الزام ہے، البتہ اس کے بارے میں یہ روایت درست نہیں ہے۔

۳۸۲۹- صالح بن محمد (د، ت، ق) بن زائدہ، ابو واقد لیشی مدنی

اس نے سعید بن مسیب سے روایات نقل کی ہیں، یہ مقارب الحال ہے، احمد بن ابومریم نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے، یہ ضعیف ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”قوی“ نہیں ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ

کہتے ہیں: میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ہوں، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، سلیمان بن حرب نے اسے ”متروک“ قرار دیا ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: یہ ان ضعیف راویوں میں سے ایک ہے، جن کی حدیث کو نوٹ کیا جائے گا۔ اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ بریدا فی برید، امرنا ان نضرب من وجدناہ يفعل ذلك، جعل لنا سلبه.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ایک ایک برید تک حرم قرار دیا ہے اور آپ نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ ہم اس شخص کو سزا دیں، جس شخص کو اس کی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائیں، تو اس کا سامان ہمیں مل جائے گا“ اس راوی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں:

ما رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راسه الى السماء الا قال: يا مصرف القلوب، ثبت قلبي على دينك.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے: اے دلوں کو پھیرنے والی ذات! تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا“۔

اس راوی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں: موضع سوط فی الجنة خیر من الدنيا وما فیها.

”جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے“

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس نے سالم کے حوالے سے ان کے والد (حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے:

من غل فاحرقوا متاعه.

”جو شخص خیانت کرے اس کا ساز و سامان جلا دو“

(امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں) یہ روایت جھوٹی ہے۔

اس نے سالم کے حوالے سے ان کے والد (حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من وجد تبوه قد غل فاحرقوا متاعه

فرحلت مع سليمان بن عبد الملك، فوجد رجلا قد غل في سبيل الله، فدعا سالبا فحدثه بهذا

فاحرق متاعه، وجد في متاعه مصحفا، فامرهم فباعوه وصدقوا بشبهه.

”نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: جس شخص کو تم پاؤ کہ اس نے خیانت کی ہو تو اس کا ساز و سامان جلا دو۔“

راوی کہتے ہیں: تو میں سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ سفر کر رہا تھا، انہوں نے ایک شخص کو پایا کہ اس نے اللہ کی راہ میں (جہاد کے دوران مال غنیمت میں) خیانت کی ہے تو انہوں نے سالم کو بلوایا، سالم نے ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی تو سلیمان بن عبد الملک نے اس کا سامان جلوا دیا، اس کے ساز و سامان میں قرآن مجید کا ایک نسخہ ملا تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ حکم دیا کہ اسے فروخت کر کے اس کی قیمت کو صدقہ کر دیا جائے۔

صالح نامی شخص کا انتقال 145 ہجری میں یا اس کے بعد ہوا، اقدی کہتے ہیں: میں نے اسے دیکھا ہے، یہ جنگوں میں حصہ لینے والا شخص تھا۔

۳۸۳۰- صالح بن محمد ترمذی۔

اس نے محمد بن مروان سدی اور دیگر حضرات سے روایت نقل کی ہیں، اس پر تہمت عائد کی گئی ہے اور یہ ساقط الاعتبار ہے۔ اس کی نقل کردہ مصیبتوں میں سے ایک روایت یہ ہے، جس کو اس نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نقل کیا ہے اور جس کا متن یہ ہے۔

من اکل الطین حشا اللہ بطنہ ناراً

”جو شخص مٹی کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو آگ سے بھر دے گا۔“

امام ابن حبان ”تاریخ الثقات“ میں کہتے ہیں: صالح بن عبد اللہ ترمذی، سنت کا عالم اور فضیلت والا شخص ہے، یہ صالح بن محمد ترمذی نہیں ہے، کیونکہ وہ مرجئی تھا اور ایک دجال تھا، انہوں نے یہ بھی کہا ہے: اس کی نقل کردہ احادیث کو نوٹ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مرجہ فرقی سے تعلق رکھتا تھا، چہی نظریات رکھتا تھا، ان کا داعی تھا، وہ شراب فروخت کرتا اور شراب پینے کو مباح قرار دیتا تھا، اس نے رشوت دی تو اس وقت کے حکمران نے اسے ترمذ کا قاضی مقرر کر دیا، تو یہ اس شخص کو سزا دیتا تھا، جو اس بات کا قائل تھا کہ ایمان قول اور عمل کے مجموعہ کا نام ہے، یہاں تک کہ اس نے محدثین میں سے ایک نیک شخص کو پکڑا اور اس کی گردن میں رسی ڈال کر اس کو (گلی بازاروں کا) چکر لگوا دیا۔ حمیدی نے مکہ میں اس کے خلاف فتوے نازلہ پڑھی تھی، جب اسحاق بن راہویہ اس کا ذکر کرتے تھے تو رو پڑتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کتنی جرات کا اظہار کرتا ہے۔

سلیمان کہتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے، یہ خلق قرآن کا قائل تھا۔

ابو یونس عصام بن حسین نے اس کے بارے میں ایک طویل قصیدہ کہا ہے، جس کے کچھ اشعار یہ ہیں:

لہ قحہ فی الصالحین اذا ذکر
وعجلہ ربی الجلیل الی سقر
محلہ جہم عند ملتظم النہر
مرمی بالوان الفضائح والقدر

یفتی بشرق الارض شیخ مفتن
اناف علی السبعین لا در درہ
محلته لا یبعد اللہ غیرہ
علی شط جیحون بترمذ قاضیا

”زمین کے کنارے میں ایک شیخ ہے جو فتویٰ دیتا ہے۔ جب صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا ذکر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ستر پر بھاری ہے۔ اس کی خیر نہ ہو میرا رب جلیل نے اس کو جہنم میں جلد داخل کیا اللہ اس کے علاوہ کسی کو ہلاک نہ کرے۔ جہم کے ٹھہرنے کی جگہ نہر کے قریب ہے۔ (علاوہ ازیں) جیحون کے کنارے ترند کا ایک قاضی ہے جو کہ رسوائی اور گندگی کو دور کرتا ہے۔

اس قصیدے میں انہوں نے صالح بن عبد اللہ ترمذی کی تعریف کی ہے اور اس کی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے۔

۳۸۳۱- صالح بن محمد

اس نے لیث بن سعد سے روایات نقل کی ہیں، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس سے روایت نقل کرنا جائز نہیں ہے (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: شاید یہ پہلے والا شخص ہے۔

۳۸۳۲- صالح بن محمد بن حرب

ابن ابوحاتم نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے حالات نقل کیے ہیں، یہ مجہول ہے۔

۳۸۳۳- صالح بن مسلم

اس نے ابوزبیر سے روایات نقل کی ہیں، یہ کی بزرگ ہے، ابن معین اور ابوحاتم نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے، یونس بن محمد اور تہوذکی نے اس سے روایات نقل کی ہیں

۳۸۳۴- صالح بن ابوصالح (ت) مہران

یہ عمرو بن حریث کا آزاد کردہ غلام ہے، اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، اس کی عمر طویل ہوئی تھی، ابو بکر بن عیاش نے اس کا زمانہ پایا ہے، یحییٰ اور دیگر حضرات نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ مجہول ہے۔

۳۸۳۵- صالح بن مقاتل

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے، یہ ابن قانع کے مشائخ میں سے ایک ہے۔

۳۸۳۶- صالح بن موسیٰ (ت، ق)

(یہ صالح بن موسیٰ بن عبد اللہ) بن اسحاق بن طلحہ بن عبید اللہ قرظی طحی ہے (یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے

ہے) یہ کوفہ کا رہنے والا ہے اور ضعیف ہے۔

اس نے عبد العزیز بن رفیع سے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے، اس کی نقل کردہ احادیث کو نوٹ نہیں کیا جائے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ ”قوی“ نہیں ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے، ابن عدی کہتے ہیں: میرے نزدیک یہ ان افراد میں سے ایک ہے جو جان بوجھ کر غلط بیانی نہیں کرتے تھے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے: انی قد خلفت فيكم ثنتين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي، لن يتفرقا حتى يردا على الحوض. ”میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جن کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو گے اللہ کی کتاب اور میری سنت یہ دونوں ایک دوسرے سے اس وقت تک جدا نہیں ہونگے، جب تک حوض پر (میرے پاس) نہیں آجاتے۔“ اسی سند کے ساتھ یہ روایت بھی منقول ہے:

قتل الرجل صبرا كفارة لما قبله من الذنوب
 ”آدمی کا باندھ کر مارا جانا اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے“
 اسی سند کے ساتھ یہ روایت بھی منقول ہے:

ستاتيكم احاديث مختلفة عني، فما اتاكم موافقا لكتاب الله وسنتي فهو مني، ما اتاكم مخالفا
 لذلك فليس هو مني.

”عنقریب تمہارے سامنے میرے حوالے سے مختلف روایات آئیں گی، تو تمہارے پاس جو ایسی روایت آئے، جو اللہ کی کتاب اور میری سنت کے موافق ہو، تو وہ میری حدیث ہی ہوگی اور تمہارے پاس اس کے مخالف جو چیز آئے، تو وہ میری حدیث نہیں ہوگی۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسرع البر ثوابا صلح الرحم، اسرع الشر عقوبة البغي.
 ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ جلدی جس کا ثواب ملتا ہے، وہ نیکی صلح رحمی کرنا ہے۔“

اور سب سے زیادہ تیزی سے سزا ملنے والی برائی سرکشی ہے۔“

ابن ماجہ نے سدید کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، اور صالح سے ایسی روایات منقول ہیں، جو اس نے ابو حازم، اعرج، عاصم بن بہدلہ، اس کے چچا معاویہ بن اسحاق، اس کے والد اور عبد الملک بن عمیر سے نقل کی ہیں، جب کہ اس سے قتیبہ، منجاب بن حارث اور ایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں، ابو اسحاق جوز جانی کہتے ہیں: یہ ضعیف الحدیث ہے، اگرچہ یہ ایک اچھا آدمی ہے، امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ انتہائی منکر الحدیث ہے، اس نے نقد راویوں سے (منکر روایات نقل کی ہیں)۔

ابن عدی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ زیادہ تر روایات میں کسی نے اس کی متابعت نہیں کی ہے۔

۳۸۳۷- صالح بن میسرہ

اس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے، یہ مجہول ہے، سعید بن واصل نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۸۳۸- صالح بن نبهان (د، ت، ق) مدنی

یہ تو امد کا آزاد کردہ غلام ہے وہ خاتون امیہ بن خلف کی صاحبزادی تھی۔

صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، اصمعی کہتے ہیں: شعبہ اس کے حوالے سے روایات نقل نہیں کرتے تھے اور اس سے روایات نقل کرنے سے منع کرتے تھے۔

بشر بن عمر کہتے ہیں: میں نے امام مالک سے اس کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے کہا: یہ ثقہ نہیں ہے، عبد اللہ بن احمد نے یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ قوی نہیں ہے امام احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مالک نے صالح نامی شخص کا زمانہ پایا تھا، لیکن اس وقت یہ اختلاط کا شکار ہو چکا تھا اور اس کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، جس نے پہلے زمانے میں اس سے سماع کیا ہو اس کے حوالے سے مجھے اس کے بارے میں کسی خرابی کا علم نہیں ہے، اس سے اکابر اہل مدینہ نے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ القطان کہتے ہیں: یہ ثقہ نہیں ہے۔

سفیان بن عیینہ کہتے ہیں: میں صالح کے پاس بیٹھا، میں نے اس سے دریافت کیا: تم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کیسے سماع کیا ہے؟ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کیسے سماع کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: تو اس سے اندازہ ہوا کہ وہ اختلاط کا شکار ہو گیا ہے، اس لیے میں نے اسے ترک کر دیا، جو زجانی کہتے ہیں: ابن ابو ذب نے اس سے پرانے زمانے میں سماع کیا تھا (جب اس کا حافظ ٹھیک تھا) لیکن جہاں تک سفیان کا تعلق ہے، تو انہوں نے اس کے حافظے کے متغیر ہو جانے کے بعد اس کی ہم نشینی اختیار کی تھی۔

امام نسائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، عباس دوری نے یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ثقہ ہے، لیکن اپنے مرنے سے پہلے خرافات بولنے لگ پڑا تھا، تو اس سے پہلے: جس نے اس سے سماع کیا ہے، وہ مثبت ہوگا۔

احمد بن ابومریم نے یحییٰ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ثقہ اور حجت ہے، میں نے ان سے کہا: امام مالک نے اس کو ترک کر دیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا: امام مالک نے اسے اس زمانے میں پایا تھا، جب یہ خرافات بولنے لگ پڑا تھا اور ثوری نے بھی اسے اس زمانے میں پایا تھا، جب یہ خرافات بولنے لگ پڑا تھا، انہوں نے اس سے منکر روایات سنیں (تو اسے ”متروک“ قرار دیا) لیکن ابن ابو ذب نے اس کے خرافات کا شکار ہونے سے پہلے اس سے سماع کیا تھا۔

امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے، علی بن مدینی کہتے ہیں: یہ ثقہ ہے، تاہم یہ عمر رسیدہ ہونے پر خرافات بکنے لگ پڑا تھا، سفیان ثوری نے اس کے خرافات کا شکار ہونے کے بعد اس سے سماع کیا ہے، جب کہ ابن ابو ذب نے اس سے پہلے اس سے سماع کیا تھا۔

عثمان بن سعید نے یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ثقہ ہے، امام بن حبان کہتے ہیں: یہ 125 ہجری میں تغیر کا شکار ہوا تھا اور اس نے ایسی روایات نقل کرنا شروع کر دیں، جو ثقہ راویوں کے حوالے سے منقول موضوع روایات کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں، تو اس کی آخری زمانے کی احادیث اختلاط کا شکار ہو گئیں، جب کہ پہلے زمانے کی روایات ایسی نہیں ہیں تو ان کے درمیان امتیاز نہیں ہو سکتا، اس حوالے سے اسے ترک کیے جانے کا مستحق قرار دیا گیا۔

حمیدی کہتے ہیں: میں نے سفیان بن عیینہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: میں نے صالح سے ملاقات 126 یا 125 ہجری میں کی تھی، اس

وقت یہ تغیر کا شکار ہو چکا تھا۔

سفیان ثوری نے میرے بعد اس سے ملاقات کی، میں نے ان سے کہا: کیا تم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سماع کیا ہے؟ تم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سماع کیا ہے؟ کیا تم نے فلاں سے سماع کیا ہے؟ تو اس نے مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، تو اس کے پاس موجود ایک عمر رسیدہ شخص نے کہا: یہ عمر رسیدہ ہو چکا ہے (اس لیے اسے تمہاری بات سمجھ نہیں آرہی) عبداللہ بن احمد کہتے ہیں: میں نے اپنے والد سے صالح نامی شخص کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا: یہ صالح الحدیث ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من صلی علی البیت فی المسجد فلا شئی لہ.

”جو شخص مسجد میں نماز جنازہ ادا کرتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا“

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ روایت جھوٹی ہے، اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت بھی نقل کی ہے:

انہ کان ینعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: کان شبح الذراعین، اهدب العینین، بعید ما بین

المنکبین، اذا قبل اقبل معا واذا ادبر ادبر جمیعا، بابی وامی! لم یکن فاحشا ولا متفحشا، لاسخابا

فی الاسواق

”انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے یہ بات کی: آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوڑی کلائیوں کے مالک تھے، آپ کی

آنکھیں سرگیں تھیں، آپ کے کندھے چوڑے تھے، جب آپ مڑ جاتے تھے تو مکمل مڑ جاتے تھے، میرے ماں باپ آپ پر

قربان ہوں، نہ تو آپ بدزبانی کرتے تھے اور نہ ہی تکلف کے ساتھ بدزبانی کا مظاہرہ کرتے تھے، نہ آپ چلا کر بازاروں

میں بولا کرتے تھے۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من انشد ضالہ فی المسجد فقولوا: لا وجدت

”جو شخص مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرے، تو تم کہو: اللہ کرے تمہیں یہ نہ ملے“

یہ تمام روایات یحییٰ بن معین کے نزدیک مستند ہیں، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے۔

۳۸۳۹- صالح بن واقد لیشی

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے، اس کے حالات نقل کیے گئے ہیں، تاہم شاید یہ صالح بن محمد ہو، اس کی کنیت

ابو واقد ہے۔

۳۸۴۰- صالح بن ولید

اس نے اپنی دادی کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، اس سے ابو سلمہ تبوذکی نے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

۳۸۴۱- صالح بن یحییٰ (د، س، ق) بن مقدم

اس نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا سے روایات نقل کی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔

موسیٰ بن ہارون کہتے ہیں: اس کی شناخت نہیں ہو سکی (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: ثور، یحییٰ بن جابر، سلیمان بن سلیم نے اس سے روایات نقل کی ہیں اور اسے ”ثقة“ قرار دیا گیا ہے۔

۳۸۴۲- صالح عمبدی

اس نے ابن سیرین سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۸۴۳- صالح سلمی

اس نے ابو شعثاء سے روایات نقل کی ہیں، یہ دونوں مجہول ہیں (یعنی یہ اور سابقہ راوی)۔

۳۸۴۴- صالح شیبانی

ابن مدینی کہتے ہیں: یہ مجہول ہے۔

۳۸۴۵- صالح قیراطی

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ (کذاب) اور دجال ہے۔

۳۸۴۶- صالح بیاع اکیسہ

اس نے اپنی دادی سے روایات نقل کی ہیں، علی بن ہاشم بن برید کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایات نقل نہیں کی ہیں۔

(صامت، صباح)

۳۸۴۷- صامت بن خنبل یثکری

اس نے رؤبہ بن عجاج سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

۳۸۴۸- صباح بن سہل

اس نے حصین بن عبد الرحمن اور محمد بن عمرو سے روایات نقل کی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ابوہل بصری ”منکر الحدیث“ ہے، دیگر حضرات نے یہ کہا ہے: یہ کوفہ کا رہنے والا ہے، ابو زرہ کہتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے، ابن عدی کہتے ہیں: یہ ابوہل واسطی

ہے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں اس سے واقف نہیں ہوں۔

ابن عدی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایات دس تک نہیں پہنچی ہیں اور یہ ایسی روایات ہیں جن میں کسی نے اس کی متابعت نہیں کی ہے اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهل الدرجات العلا يراهم من اسفل منهم، كما ترون الكوكب (الدرى)، ان ابا بكر وعمر منهم وانعبا.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: (جنت میں) بلند درجات والوں کو (نیچے کے درجات والے لوگ) اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم چمکدراستارے کو دیکھتے ہو اور ابو بکر اور عمران افراد میں سے ایک ہیں (جو بلند درجات میں ہوں گے) اور یہ دونوں اچھے آدمی ہیں“

۳۸۴۹- صباح بن عبد اللہ عبدی

اس نے بعض تابعین سے روایات نقل کی ہیں اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی ہے اس کو ”ثقفہ“ قرار دیا گیا ہے صرف تہود کی نے اس سے روایات نقل کی ہیں کونج نے یحییٰ بن معین سے اس کی توثیق نقل کی ہے۔

۳۸۵۰- صباح بن عبد اللہ

عدوی نے یہ بات بیان کی ہے: اس نے بصرہ میں اس سے ملاقات کی ہے اور اس نے اسے حدیث بیان کی ہیں شعبہ کہتے ہیں: عدوی نامی شخص کذاب ہے اس کی شناخت پتہ نہیں چل سکی یہ بات ابن عساکر نے بیان کی ہے۔

۳۸۵۱- صباح بن ماجد

یہ بقیہ کا استاد ہے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کون ہے؟ اور اس کی نقل کردہ روایت جھوٹی ہے جسے دو ثقہ راویوں نے اس کے حوالے سے بقیہ کے حوالے سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے:

قال: اذا كانت سنه خمس وثلاثين ومائه خرجت شياطين كان حبسهم سليمان في البحر فتذهب تسعة اعشارهم الى العراق يجادلونهم بالقرآن وعشر بالشام.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: جب 135 ہجری کا سال آجائے گا تو شیاطین نکلیں گے جنہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے سمندر میں قید کیا ہوا تھا ان میں سے دس میں سے نو عراق کی طرف چلے جائیں گے اور وہ ان لوگوں سے ساتھ قرآن کے بارے میں بحث کریں گے اور دسواں حصہ شام چلا جائے گا“

میں یہ کہتا ہوں: اس روایت کو ایجاد کرنے کا الزام صباح نامی اس راوی کے سر ہے۔

۳۸۵۲- صباح بن محارب (ق)، (تمیمی) کوفی

اس نے ”رے“ میں سکونت اختیار کی تھی یہ صالح الحدیث ہے امام ابوزرعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف بیان کی ہے امام ابوزرعہ رحمۃ اللہ علیہ

اور امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے۔

اس نے ہشام بن عمرو اور ان کے معاصرین سے، جب کہ اس سے سہل بن زبجلہ اور ایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں، عقلی نے اس تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے: اس کی روایت میں بعض اوقات اس کے برخلاف لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں: تمام ثقہ راوی جب کسی روایت کو نقل کرنے میں منفر دہوں تو اسی طرح کی صورت حال ہوتی ہیں۔ ایک عالی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے یہ روایات ہم تک پہنچی ہے جو اس راوی نے حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، لكن يقبضه بقبض العلماء، فاذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فاستلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: بے شک اللہ تعالیٰ علم کو یوں قبض نہیں کرے گا کہ اسے لوگوں سے الگ کر دے بلکہ وہ علماء کو قبض کرنے کے ذریعے علم کو قبض کرے گا، تو جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رہنے دے گا، تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، ان سے مسائل دریافت کیے جائیں گے، وہ علم نہ ہونے کے باوجود جواب دیں گے، وہ لوگ گمراہ ہونگے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے“

۳۸۵۳- صباح بن محمد (ت) بجلی

اس نے مرہ طیب کے حوالے سے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، اس نے دو احادیث مرفوع احادیث کے طور پر نقل کی ہیں، جو دونوں حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہیں۔

امام ابن حبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس نے موضوع روایات نقل کی ہیں، ابن ابو حاتم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے: ابان بن اسحاق اسدی نے اس سے روایات نقل کی ہیں، انہوں نے مزید کچھ نہیں کہا، انہوں نے اس کے بارے میں کسی جرح یا تعدیل کا ذکر نہیں کیا۔

۳۸۵۴- صباح بن موسیٰ

اس نے ابو داؤد سبیعی سے، جب کہ اس سے محمد بن ربیعہ اور اسحاق بن موسیٰ رحمہما نے روایات نقل کی ہیں، یہ اتنا قوی نہیں ہے، بعض حضرات نے اس بارے میں ان کا ساتھ دیا ہے۔

۳۸۵۵- صباح بن یحییٰ

اس نے حارث بن جھیرہ سے روایات نقل کی ہیں، یہ ”متروک“ ہے، بلکہ اس پر (احادیث ایجاد کرنے) کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: کان الناس من شجر شتی، کنت انا وعنی من شجرة واحدة.

”نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: لوگ مختلف درختوں میں سے ہیں اور میں اور علی ایک درخت سے ہیں“
یہ روایت عقیلی نے اس کے حوالے سے نقل کی ہے۔

۳۸۵۶- صباح عبدی

یہ (صبح) بن عبد اللہ ہے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ مجہول ہے۔

(صبح)

۳۸۵۷- صبح بن بزیج

اس نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے، جب کہ اس سے ابن طباع نے روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے۔

۳۸۵۸- صبح بن دینار

عقیلی نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ حدیث کی سند میں دوسروں کے برخلاف روایت نقل کر دیتا ہے، بغوی نے اس سے روایات نقل کی ہے۔

۳۸۵۹- صبح بن سعید

اس نے حضرت عثمان غنی اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایات نقل کی ہیں، ابو یوسف اور ابن معین کہتے ہیں: یہ خلد نامی جگہ پر پڑاؤ کرتا تھا۔ یہ کذاب اور خبیث شخص ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے۔

۳۸۶۰- صبح بن عبد اللہ

یہ احمد بن ابو یوسف کا استاد ہے، عبد الغنی مصری کہتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے، خطیب نے ”تلخیص“ میں یہ کہا ہے: اس نے منکر روایات نقل کی ہیں۔

۳۸۶۱- صبح بن عبد اللہ

ایک قول کے مطابق اس کے والد کا نام قاسم ہے (اور اس کی کنیت اور اسم منسوب) ”ابو جہم ایادی“ ہے، ہشیم نے اس سے روایات

نقل کی ہیں اس کا ذکر کنیت سے متعلق باب میں آئے گا اس کے حوالے سے یہ روایت منقول ہے:

امرؤ القیس قائد الشعراء الی النار
 ”امرؤ القیس، جہنم میں جانے والے شاعروں کا قائد ہے“

۳۸۶۲- صبیح بن عبداللہ فرغانی

یہ احمد بن ابویثمہ کے استادوں میں سے ایک ہے، خطیب نے کتاب ”تخیص“ میں یہ بات بیان کی ہے اس نے منکر روایات نقل کی ہیں۔

۳۸۶۳- صبیح بن عمیر

اس نے تمام بن بزیج سے روایات نقل کی ہیں ازدی کہتے ہیں: اس میں کمزور ہونا پایا جاتا ہے۔

۳۸۶۴- صبیح بن محرز (د) مقرائی

ابن ماکولانے اسے پہلے والے شخص کے ساتھ ملایا ہے جب کہ اس کے برخلاف بھی نقل کیا گیا ہے اس کے حوالے سے ایسی روایات منقول ہیں جو اس نے ابوصحیح مقرائی سے نقل کی ہیں جب کہ محمد بن یوسف فریابی اس سے روایات نقل کرنے میں منفرد ہے۔

۳۸۶۵- صبیح بالضم (ت، ق)

یہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا غلام ہے اس راوی نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

انه قال لعلي وابنيه وفاطمه: انا حرب لمن حاربكم.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادوں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ فرمایا تھا: جو تمہارے ساتھ لڑائی رکھے گا میں اس سے لڑائی کروں گا۔“

یہ روایت اس سے سدی نے نقل کی ہے امام نسائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: صبیح غیر معروف ہے۔

(صبی، صخر)

۳۸۶۶- صبی بن اشعث سلولی

اس نے عطیہ سے روایات نقل کی ہیں اس کے حوالے سے منکر روایات منقول ہیں اس میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے اور اس بات کا احتمال بھی موجود ہے ابن عدی نے اس کا تذکرہ کیا ہے احمد بن ابراہیم موصلی نے اس سے روایات نقل کی ہیں امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ایک عمر رسیدہ شخص ہے جس کی احادیث کو نوٹ کیا جائے گا۔

۳۸۶۷- صحیح بن اسحاق (د) حجازی

ابوغصن ثابت کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایات نقل نہیں کی ہیں۔

۳۸۶۸- صحیح بن بدر (د)

ابوتیاح ضعیبی کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایات نقل نہیں کی ہیں۔

۳۸۶۹- (صحیح) صحیح بن جویریہ (خ، م)

اس نے ابوجاء عطار دی اور نافع سے، جب کہ عفان، علی بن جعد اور لوگوں نے اس سے روایات نقل کی ہیں، امام احمد رضی اللہ عنہ اور ایک جماعت نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، ابن معین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ صالح ہے، امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔

۳۸۷۰- صحیح بن عبد اللہ (ت) بن حرمہ

یہ جاز کار بننے والا عمر رسیدہ شخص ہے، جو علم الحدیث میں کم مہارت رکھتا تھا، (اس کی کنیت) ابوجاجب ہے، اس نے لیث بن سعد سے روایات نقل کی ہیں، اس پر احادیث ایجاد کرنے کا الزام ہے، اس کی شناخت بھی نہیں ہو سکی اس کے حوالے سے ”سنن دارقطنی“ میں ایک روایت منقول ہے، یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں: یہ ”مجهول الحال“ ہے، اس کی شناخت یہ نہیں چل سکی ہے۔ بکر بن مضر کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایات نقل نہیں کی ہیں۔

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے، جو اس نے ابوسلمہ بن عبد الرحمن سے نقل کی ہے، امام نسائی رضی اللہ عنہ نے اس کی حالت کو حسن قرار دیا ہے۔

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ دو آدمی ہیں، تو پھر یہ شریف ہوگا۔

۳۸۷۱- صحیح بن ابو غلیظ

اس نے ابوسلمہ بن عبد الرحمن سے روایات نقل کی ہیں، ابوحاتم نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے، لیث بن سعد اس سے ملے ہیں۔

۳۸۷۲- صحیح بن محمد منقری حاجی مروزی

اس نے امام مالک سے روایات نقل کی ہیں، ابن طاہر کہتے ہیں: یہ کذاب ہے، (امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ ابوجاجب ہے، یہ صحیح بن عبد اللہ ہے، جو کوفہ کار بننے والا ہے، اس نے ”مرو“ میں رہائش اختیار کی تھی، یہ صحیح بن حاجب ہے، جس سے عبد اللہ بن محمود مروزی نے ملاقات کی تھی۔

امام دارقطنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، ابن عدی کہتے ہیں: اس نے ثقہ راویوں کے حوالے سے جھوٹی روایات نقل کی ہیں، جن

میں سے ایک روایت یہ ہے جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے:

قال لا عقل كالتدبير .

”تدبیر کی طرح کی اور کوئی عقل مندی نہیں ہے۔“

اس سند کے ساتھ یہ روایت بھی منقول ہے:

اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَامْتِي فِي بَكُورِهَا

”اے اللہ! میری امت کے صبح کے کاموں میں ان کے لیے برکت رکھ دے“

ایک روایت یہ ہے جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے:

تبجيل المشايخ من اجلال الله

”عمر رسیدہ افراد کی عزت افزائی کرنا اللہ تعالیٰ کا اکرام کرنے میں شامل ہے“

اس کے حوالے سے ایک جھوٹی روایت بھی منقول ہے جو اس نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: صحیح بن عبد اللہ حاجی نامی یہ شخص جرجان کا ظالم حکمران تھا اس کی نقل کردہ زیادہ تر روایات جھوٹی ہیں جو اس

نے خود ہی ایجاد کی ہیں۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے جو ابوسلمہ بن عبد الرحمن نے نقل کی ہے

اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے، ابن جوزی نے صحیح بن عبد اللہ کے حالات میں غلطی کی ہے اور یہ کہا ہے: صحیح بن عبد اللہ بن

حرمہ ہے یہ بھی کہا گیا ہے: یہ صحیح بن محمد مدلیجی کوئی ہے جس نے مرو میں رہائش اختیار کی تھی۔

ابن عدی کہتے ہیں: لوگوں نے اس کی یہی کنیت بیان کی ہے وہ یہ کہتے ہیں: اس کی کنیت ”ابو حاجب ضریر“ ہے۔

اس نے لیث، عمر بن عبد العزیز، زیاد بن حبیب، عامر بن عبد اللہ بن زبیر، ابوسلمہ سے، جب کہ اس سے بکر بن مضر نے روایات نقل

کی ہیں، ابن مدینی کہتے ہیں: یہ ہلاکت کا شکار ہونے والا ہے مصنف کہتے ہیں: میں نے ضیاء مقدسی کی تحریر میں سے اس کے حالات اسی

طرح نقل کیے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے کیونکہ صحیح بن عبد اللہ بن حرمہ مجازی نامی راوی کا تعلق 130 ہجری کے آس پاس سے ہے اس

نے ابوسلمہ بن عبد الرحمن، عامر بن عبد اللہ، عمر بن عبد العزیز سے جب کہ اس سے بکر بن مضر نے روایات نقل کی ہیں۔

یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے: یہ صالح ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کتاب ”اشقات“ میں

کیا ہے

جب کہ دوسرا شخص صحیح بن عبد اللہ، اور ایک قول کے مطابق صحیح بن محمد مدلیجی کوئی ہے اس نے مرو میں رہائش اختیار کی تھی اور امام

مالک اور لیث بن سعد سے روایات نقل کی تھیں یہ 230 ہجری تک زندہ رہا تھا۔

حاکم کہتے ہیں: صحیح بن محمد ابو حاجب حاجی، مرو سے تعلق رکھنے والا شخص ہے اس نے مالک، لیث، ابن لہیعہ کے حوالے سے

موضوع روایات نقل کی ہیں، اس سے عبد اللہ بن محمود اور دیگر ثقہ راویوں نے روایات نقل کی ہیں۔

(صدقہ)

۳۸۷۳- صدقہ بن حسین بغدادی جنلی ناسخ

یہ بعد کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا عقیدہ براتھا۔

۳۸۷۴- صدقہ بن رستم اسکاف

اس نے مسیب بن رافع سے، جب کہ اس سے فضل بن موسیٰ، محمد بن فضیل اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ”صدقہ“ ہے، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس نے وہم کی وجہ سے ثبت راویوں کے حوالے سے ایسی روایات نقل کی ہیں جو ثقہ راویوں کی حدیث کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کی نقل کردہ حدیث مستند نہیں ہوتی ہے۔

۳۸۷۵- صدقہ بن سعید (د، س، ق) حنفی

یہ افضل بن صدقہ کا والد ہے، اس نے مصعب بن شیبہ، جمیع بن عمیر سے، جب کہ اس سے زائدہ، ابو بکر بن عیاش اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ بزرگ ہے، ساجی کہتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس کے حوالے سے حیران کن روایات منقول ہیں، محمد بن وضاح کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کتاب ”الثقات“ میں کیا ہے۔

۳۸۷۶- صدقہ بن سہل، ابو سہل ہنائی

اس نے ابن سیرین، ابو عمرو جملی سے، جب کہ اس سے محمد بن معاذ غزیری، موسیٰ بن اسماعیل نے روایات نقل کی ہیں۔ کوچ نے ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: ”یہ ثقہ“ ہے، میں نے اس کا تذکرہ اس لیے کیا ہے، کیونکہ ہناتی نے اس کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کسی سند کے بغیر یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ کوئی چیز نہیں ہے واللہ اعلم۔

۳۸۷۷- صدقہ بن عبداللہ (س، ق، ت) سمین، ابو معاویہ دمشقی

اس نے ابن منکدر، علاء بن حارث اور ایک جماعت سے، جب کہ اس سے کعب، ولید، اور فریابی نے روایات نقل کی ہیں، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے، ابو زرہ کہتے ہیں: یہ قدریہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور کمزور تھا، ابن نمیر کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کا محل صدقہ ہے، اس پر صرف قدریہ فرقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اعتراض ہے، عثمان بن سعید نے یحییٰ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ضعیف ہے، اس طرح امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے۔

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں نے عبداللہ بن یزید کے پاس صدقہ بن عبداللہ کی تصانیف دیکھیں تو میں نے دیم سے اس کے

بارے میں دریافت کیا، تو وہ بولے: اس کا محل صدق ہے البتہ اس میں قدریہ فرقے کے نظریات کی کچھ آمیزش پائی جاتی ہے۔
سعید بن عمرو یہ کہتے ہیں: اس نے امام اوزاعی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پندرہ سو احادیث نوٹ کی تھیں، یہ علم حدیث کا ماہر تھا، امام اوزاعی رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف تقدیر کے بارے میں ایک خط بھی لکھا تھا، جس میں اسے وعظ و نصیحت کی تھی۔

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی، تو یہ غلطی ہے، کیونکہ دجیم کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی، دوسری غلطی یہ ہے کہ تاریخ ابن عساکر میں اس کا ذکر ہے، حالانکہ اس میں ذکر اس شخص کا ہے، جس نے اس سے روایت نقل کی ہے اور وہ ابو عامر موسیٰ بن عامر ہے، موسیٰ نے ولید کے حوالے سے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

عمر بن عبداللہ نے صدقہ بن عبداللہ کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں کوفہ آیا، میں اعمش کے پاس آیا تو وہاں ایک موٹا تازہ شخص موجود تھا، مجھے اس پر اہل شام کے مخصوص لہجے کا گمان ہوا، اس نے میری لغت کو منکر قرار دیتے ہوئے کہا: تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ میں نے جواب دیا شام میں، اس نے کہا: شام میں کہاں؟ میں نے کہا: دمشق میں، اس نے دریافت کیا: تم کوفہ کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا: تاکہ میں تم سے اور تمہارے جیسے لوگوں سے احادیث کا سماع کروں، تو اس نے جواب دیا: تم یہاں پر صرف کسی کذاب سے ہی ملو گے، جب تک یہاں سے نکل نہیں جاتے۔

سعید بن عبدالعزیز کہتے ہیں: امام اوزاعی رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے انہوں نے مجھ سے کہا: تمہیں یہ احادیث کس نے بیان کی ہیں؟ میں نے کہا: ایک ایسے شخص نے جو میرے اور آپ کے نزدیک ثقہ ہے اور وہ صدقہ بن عبداللہ ہے۔
ولید کہتے ہیں: اس کا انتقال 166 ہجری میں ہوا۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:
قال: اتاني ملك برسالة من الله، ثم رفع رجله فوضعها فوق السماء والاخرى ثابتته في الارض لم يرفعها.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میرے پاس ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آیا، پھر اس نے اپنا پاؤں اٹھایا اور اسے آسمان کے اوپر رکھ لیا اور دوسرے کو زمین پر ہی رہنے دیا، اس نے اسے بلند نہیں کیا۔“

ابن عدی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ زیادہ تر روایات وہ ہیں، جن میں اس کی متابعت نہیں کی گئی ہے، اور یہ ضعیف ہونے کے زیادہ قریب ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسرجس کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا اتى احدكم اهله فليقل على عجزته وعجزيتها شيئا.
”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس (صحبت کرنے کے لیے) آئے تو وہ اس کی اور اپنی شرمگاہ پر کوئی چیز ڈال لے (یعنی مکمل برہنہ نہ ہو)۔“

زہیر نامی راوی بھی ایسا ہے، جو منکر روایات نقل کرتا ہے۔

۳۸۷۸- (صح) صدقہ بن ابوعمران (م، ق) کوفی

یہ ابواز کا قاضی تھا اس نے ابو یعفر، ابواسحاق سے، جب کہ اس سے ابواسامہ نے روایات نقل کی ہیں یہ ”صدوق“ ہے، امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ایک عمر رسیدہ اور نیک شخص تھا یہ اس پائے کا نہیں ہے، امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں: یہ راوی ”لیس بشیء“ ہے۔

اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

كان يوم عاشوراء يصومه اهل خيبر، يلبسون فيه نساء هم حليهم وشارتهم، فسئل النبي صلي الله عليه وسلم عن صومه فقال: صوموا.

”عاشورہ کے دن اہل خیبر روزہ رکھا کرتے تھے وہ اس دن اپنی خواتین کو زیورات اور دیگر آرائش وزینت کی چیزیں پہنایا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ روزہ رکھو۔“

یہ روایت مسلم کی نقل کردہ غریب روایات میں سے ایک ہے۔

۳۸۷۹- صدقہ بن عمرو غسانی

اس نے ایک تابعی سے روایت نقل کی ہیں۔

۳۸۸۰- وصدقہ بن عمرو مکی

اس نے عطاء سے روایات نقل کی ہیں یہ دونوں راوی مجہول ہیں (یعنی یہ اور سابقہ راوی)۔

(امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: جہاں تک غسانی کا تعلق ہے، تو اس کے حوالے سے ہشام بن عمار کے علاوہ اور کسی نے روایت نقل نہیں کی ہے اور کسی سے ولید بن مسلم کے علاوہ اور کسی نے روایت نقل نہیں کی ہے۔

۳۸۸۱- صدقہ بن عیسیٰ حنفی

یہ مفضل کا والد ہے اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں اس سے ابو بکر بن عیاش، عبید اللہ بن موسیٰ نے روایات نقل کی ہیں درست یہ ہے کہ اس کا نام عیسیٰ بن صدقہ ہے اس کا ذکر آگے آئے گا یہ راوی ضعیف ہے۔

۳۸۸۲- صدقہ بن ثنی کعبی

اس نے کعب بن مالک بن زید سے روایات نقل کی ہیں اس کی شناخت پتا نہیں چل سکی۔

۳۸۸۳- صدقہ بن مہلبیل

یہ ”متروک الحدیث“ ہے یہ بات ازدی نے بیان کی ہے (امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: ابن ابو حاتم نے اس کا ذکر

نہیں کیا ہے۔

۳۸۸۴- صدقہ بن موسیٰ (د، ت) دقیقتی بصری، ابو مغیرہ۔

یحییٰ بن معین امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے اس نے ابو عمران جوئی اور ثابت سے، جب کہ اس سے مسلم، تہذیب کی، علی بن جعد اور ایک مخلوق نے روایات نقل کی ہیں امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی احادیث کو نوٹ کیا جائے گا یہ قوی نہیں ہے۔

عبد بن حمید نے اپنی ”مسند“ میں یہ روایت نقل کی ہے جو اس راوی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے:

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انکم لو ان الناس اطاعونی لما اسمعتم صوت الرعد.
”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تمہاری یہ صورت حال ہو کہ تمام لوگ میری اطاعت کر لیں، تو تم لوگ بجلی کی کڑک کی آواز نہ سنو۔“

اس سند کے ساتھ ایک روایت بھی منقول ہے:

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: جددوا ایہا نکم، اکثر وامن قول لا الہ الا اللہ
”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو اور بکثرت لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔“

اس کے حوالے سے ایک یہ روایت بھی منقول ہے جو اس نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

خصلتان لا تجتمعان فی مسلم: البخل وسوء الخلق
”دو چیزیں مسلمان میں اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں، بخل اور برے اخلاق“

۳۸۸۵- صدقہ بن موسیٰ بن تمیم

اس نے اپنے والد کے حوالے سے حمید طویل سے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے، لیکن اس بزرگ سے احمد بن عبد اللہ ذارع کے علاوہ اور کسی نے روایت نقل نہیں کی اور وہ کذاب ہے اس نے اس کے حوالے سے بکثرت روایات نقل کی ہیں۔

۳۸۸۶- صدقہ بن ہرمز زامانی

اس نے عاصم بن بہدلہ سے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے، مسلم اور تہذیب کی نے اس سے روایات نقل کی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صدقہ بن ہرمز کی جریری سے نقل کردہ روایات اور صدقہ ابو محمد زامانی کی عاصم بن بہدلہ سے نقل کردہ روایات میں فرق کیا ہے۔

۳۸۸۷- صدقہ بن یزید خراسانی، ثم شامی۔

اس نے رملہ میں رہائش اختیار کی تھی۔

اس نے حماد بن ابوسلیمان، علاء بن عبدالرحمن، ابراہیم الصائغ سے، جب کہ اس سے ولید بن مسلم، رواد بن جراح نے روایات نقل کی ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ صالح ہے ابو زرعد مشقی کہتے ہیں: یہ ”ثقتہ“ ہے ابن عدی کہتے ہیں: یہ ضعیف ہونے کے زیادہ قریب ہے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ حدیث میں مشغول نہیں ہو جائے گا اور نہ ہی اس سے استدلال کیا جائے گا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ ”منکر الحدیث“ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: صدقہ بن یزید بیت المقدس کے ایک کونے میں رہتا تھا اور یہ ضعیف ہے۔

ولید بن مسلم کہتے ہیں: اصدقہ بن یزید خراسانی نے ہمیں حدیث بیان کی جو اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے:

قال اللہ عزوجل: ان عبداً اصححتہ ووسعت علیہ لم یزرنی فی کل خمسة اعوام لبحرہم
”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جب کسی بندے کو میں تندرستی عطا کرتا ہوں اور اسے وسعت عطا کرتا ہوں اور وہ ہر پانچ سالوں میں ایک مرتبہ میری زیارت کے لیے نہیں آتا تو وہ محروم ہے۔“

۳۸۸۸- (صح) صدقہ بن یسار (م ہ)

یہ ”ثقتہ“ ہے اس نے مکہ میں سکونت اختیار کی، اس نے طاؤس اور ایک جماعت کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں شعبہ، مالک، اور دونوں سفیانوں نے اس سے روایات نقل کی ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ نے اسے ”ثقتہ“ قرار دیا ہے امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ صالح ہے بنیاتی نے اس کے حالات میں یہ بات نقل کی ہے: سفیان بن عیینہ کہتے ہیں: میرے ماں باپ کے مقابلے میں یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یہ بات عقلمانی نے نقل کی ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: یہ بات مستند طور پر منقول ہے: امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں: سفیان یہ کہتے ہیں: میں نے صدقہ بن یسار سے کہا: کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ خارجی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: میں ان میں سے تھا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت عطا کر دی۔

امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ثقتہ ہے، لیکن وحشت کا شکار ہے یہ ایک جمعہ مکہ میں ادا کرتا تھا اور ایک جمعہ مدینہ منورہ میں ادا کرتا تھا۔ (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: یہ بات بیان کی گئی ہے اس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۸۸۹- صدقہ رمانی

یہ ابن ہریرہ سے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے ابوداؤد طیالسی اور دیگر حضرات نے اس سے روایات نقل کی ہیں یہ کمزور ہے۔

(صدیق)

۳۸۹۰- صدیق بن سعید صوناخی ترکی

اس نے محمد بن نصر مروزی، یحییٰ، امام مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

شفاعتی لاهل الکبائر منامتی.

”میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے“

یہ روایت ان حضرات نے کبھی نقل نہیں کی (جن کا ذکر سنہ میں ہے) یہ روایت صدیق کے حوالے سے ایسے شخص نے نقل کی ہے جس کی حالت مجہول ہے وہ شخص احمد بن عبد اللہ بن محمد زینی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اسے ایجاد کس نے کیا ہے؟

۳۸۹۱- صدیق بن موسیٰ (بن عبد اللہ بن زبیر)

ابن جریج نے اس سے روایت نقل کی ہے، یہ حجت نہیں ہے (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: ابن عیینہ کہتے ہیں: یہ شریف اور مستثنیٰ شخص تھا۔

(صرد، صعب، صعصعہ)

۳۸۹۲- صرد بن ابومنازل (د)

اس نے بعض تابعین سے روایات نقل کی ہیں، یہ بصری ہے، اس میں مجہول ہونا پایا جاتا ہے، انصاری نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۸۹۳- صعب بن حکیم بن شریک بن نملہ کوفی

لا يعرف، لکن ذکرہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فی الثقات، وروی البخاری فی کتاب الادب لہ عنابیہ، قال: اتیت عمر فجعل یقول: یا بن اخی، ثم سألنی، فانتسبت لہ، فعر فانابی لم یدرک الاسلام، فجعل یقول: یا بنی، یا بنی

اس کی شناخت نہیں ہو سکی البتہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کتاب ”الثقات“ میں کیا ہے، جب کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ”الادب المفرد“ میں نقل کی ہے یہ اپنے والد کا بیان کرتا ہے: میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا: اے میرے بھتیجے! پھر انہوں نے مجھ سے دریافت کیا: میں نے ان کے سامنے اپنا نسب بیان کیا تو

انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ میرے والد اسلام قبول نہیں کر سکے، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا: اے میرے بیٹے! اے میرے بیٹے!

۳۸۹۴- صعّب بن زید

اس نے اپنے والد سے، جب کہ اس سے جریر بن حازم اور حماد بن زید نے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ بزرگ ہے۔

۳۸۹۵- صعّب بن عثمان

مغیرہ اسے روایت نقل کرنے میں منفرد ہے۔

۳۸۹۶- صعصعہ بن صوحان (س)

اس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، یہ ”ثقة“ اور معروف ہے، جو زبانی نے اس کا ذکر کتاب ”الضعفاء“ میں کیا ہے اور اس کا شمار خارجیوں میں کیا ہے، جب کہ یہ بات درست نہیں ہے، ابن سعد اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہما سے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

(صعق)

۳۸۹۷- صعق بن حبیب (م، س)

اور ایک قول کے مطابق اس کا نام صقر ہے

اس نے ابو رجاء عطار دی سے روایات نقل کی ہیں، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے، اور یہ کہا ہے: یہ ثبوت راویوں کے حوالے سے مقلوب روایات نقل کرتا ہے۔

۳۸۹۸- صعق بن حزن (م، س) بن قیس بکری بصری

اس نے حسن اور قدادہ سے، جب کہ اس سے عارم، شیبان اور متعدد افراد نے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ، ابو زرہ، اور ابو داؤد نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: صعق اور مطرد دونوں قوی نہیں ہیں، عارم کہتے ہیں: لوگ یہ کہتے تھے اس کا شمار ابدال میں ہوتا ہے۔

(صغدی)

۳۸۹۹- صغدی بن سنان، ابو معاویہ بصری

امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف الحدیث ہے، عباس نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ کوئی چیز نہیں ہے، اس نے

خالد الخذاء اور اس کے طبقے کے افراد سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۹۰۰- صغریٰ کوفی

یہ ابو نعیم کا استاد ہے، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، ابن ابی حاتم نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔

۳۹۰۱- صغریٰ بن عبداللہ

اس نے قتادہ سے روایات نقل کی ہیں، اس سے ایک منکر روایت منقول ہے، عقیلی کہتے ہیں: اس کی شناخت صرف ایک روایت کے حوالے سے ہو سکی ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: عنہ بن عبدالرحمن نے اس کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے، جس کا متن یہ ہے: ”بکری (میں) برکت ہوتی“۔

(صفوان)

۳۹۰۲- صفوان بن رستم

اس نے روح بن قاسم سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے، ازدی کہتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے۔

۳۹۰۳- صفوان بن ابوصہباء

اس نے بکیر بن عتیق سے روایات نقل کی ہیں، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے: اس نے ایسی روایات نقل کی ہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جب یہ کسی روایت کو نقل کرنے میں منفرد ہو، تو اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن پھر ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ ثقہ راویوں میں کیا ہے۔

۳۹۰۴- صفوان بن عمران اصم

اس نے زبردستی طلاق دلوانے کے بارے میں بعض صحابہ کرام سے روایت نقل کی ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت منکر ہے، اس کی متابعت نہیں کی گئی۔

۳۹۰۵- صفوان بن قبیصہ

اس نے طارق بن شہاب سے، جب کہ اس سے امی صیرنی اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

۳۹۰۶- صفوان بن ہبیرہ (ق)، بصری

اس نے ابولکین سے ایک منکر روایت نقل کی ہے، اس نے حسن حلوانی سے روایات نقل کی ہیں، عقیلی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ

حدیث کی متابعت نہیں کی گئی اور یہ نہ صرف اس حدیث کے حوالے سے معروف ہے ابو حاتم کہتے ہیں: یہ بزرگ ہے۔
(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: محمد بن یحییٰ ذہلی نے اس سے روایت نقل کی ہے۔

(صقر)

۳۹۰۷- صقر بن حبیب

اس نے ابو رجاء عطار دی سے روایات نقل کی ہیں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ثبت راویوں سے مقلوب روایات نقل کرتا ہے امام دارقطنی نے زکوٰۃ سے متعلق باب میں اس پر تنقید کی ہے اس کی شناخت تقریباً نہیں ہو سکی۔
اس کا ذکر صق کے نام کے تحت گزر چکا ہے۔

۳۹۰۸- صقر بن عبدالرحمن، ابو بہر

یہ مالک بن مغول کا پوتا ہے اس نے عبداللہ بن ادریس، مختار بن فنفل کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ جھوٹی روایت نقل کی ہے:

قم یا انس فافتح لابی بکرو بشرہ بالخلافة من بعدی، وکذا فی عمر، وعثمان.

”اے انس! تم اٹھو اور ابو بکر کے لیے (دروازہ) کھولو اور اسے میرے بعد خلیفہ بننے کی خوشخبری دو“ اسی طرح کی روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: امام ابو یعلیٰ جب ہمیں اس کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو وہ اسے ضعیف قرار دیتے تھے۔

ابو بکر بن ابوشیبہ کہتے ہیں: یہ حدیث ایجاد کرتا تھا ابو یعلیٰ جزرہ کہتے ہیں: یہ کذاب ہے

ابن ابوحاتم کہتے ہیں: صقر بن عبدالرحمن بن مالک بن مغول نے شریک اور خالد طحان سے روایات نقل کی ہیں میں نے اپنے والد سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: یہ اپنے والد کے مقابلے میں زیادہ اچھے حال کا مالک ہے میرے والد سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا: تو انہوں نے فرمایا: یہ ”صدوق“ ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: اس کے پاس صدق کہاں سے آ گیا؟

(صلت)

۳۹۰۹- صلت بن بہرام

اس نے ابو داؤد اور زید بن وہب سے جب کہ اس سے مروان بن معاویہ، اور ابن عیینہ نے روایات نقل کی ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ کوئی ہے اور ثقہ ہے ابن عیینہ کہتے ہیں: اہل کوفہ میں یہ سب سے زیادہ سچا ہے

ابن ابوشمہ نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ”ثقفہ“ ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ”ارجاء“ کے عقیدے۔ اس میں اور کوئی عیب نہیں ہے، امام ابو زرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ”ارجاء“ کے حوالے سے اس کے بارے میں اسی طرح کا کلام کیا ہے۔

۳۹۱۰- صلت بن حجاج

اس نے محمد بن مجاہد سے روایات نقل کی ہیں؛

ابن عدی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ زیادہ تر روایات منکر ہیں، ایک اور جگہ انہوں نے یہ کہا ہے: اس کی نقل کردہ روایت میں کچھ منکر ہونا پایا جاتا ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا اليه الوحشة، فامرہ ان يتخذ زوج حمام.
”ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وحشت کا شکار ہونے کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ ہدایت کی کہ وہ اپنے پاس کبوتروں کا جوڑا رکھے۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما اكثر بياض عينيك
”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: تمہاری آنکھیں کتنی سفید ہیں“

۳۹۱۱- صلت بن دینار (ت، ق) ابو شعيب مجنون

یہ بصری ہے اور کمزور ہے، اس نے ابو عثمان مہدی اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین نے عبداللہ بن احمد کے سوال کے جواب میں یہ کہا ہے: یہ کوئی چیز نہیں ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے، فلاس بیان کرتے ہیں: یحییٰ اور ابن مہدی اس سے حدیث روایت نہیں کرتے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: شعبہ نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے، جوڑ جانی کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے، اسی طرح امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”ثقفہ“ نہیں ہے۔

فلاس بیان کرتے ہیں: میں نے یحییٰ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: میں اور عوف، صلت بن دینار کی عیادت کرنے کے لیے گئے، تو صلت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کی شان میں گستاخی کی، تو عوف بولے: اے ابو شعيب! تمہارا کیا کام (کہ تم یہ کہو) اللہ تعالیٰ تمہاری بردباری کو بلند نہیں کرے گا۔

علی بن ثابت جزری بیان کرتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی

ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم تواضاً بنصف مد.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف مد (پانی) سے وضو کیا“

شہابہ نے شعبہ کا یہ بیان نقل کیا ہے: جب سفیان تمہیں کسی ایسے شخص کے حوالے سے حدیث بیان کرے جس سے تم واقف نہ ہو تو تم اس سے وہ روایت قبول نہ کرو کیونکہ وہ اس نے ابو شعیبہ مجنون جیسے شخص سے نقل کی ہوگی۔

۳۹۱۲- صلت بن سالم

اس نے زید بن اسلم سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے، موسیٰ بن یعقوب نے اس سے روایت نقل کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت مستند نہیں ہوتی ہے۔

۳۹۱۳- صلت بن طریف

یہ بصری بزرگ ہے، ابن عجلان نے اس سے روایت نقل کی ہے، یہ مجہول ہے۔

۳۹۱۴- صلت بن طریف معولی

یہ بصری بزرگ ہے

اس نجس اور ابو شمر سے، جب کہ اس سے

ابوسلمہ، بہل بن بکار اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں، یہ مستور ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے روایت نقل کی ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ مرفوع روایت کے طور پر نقل کی ہے: لا صلاة لمختلف

” (نماز کے دوران) ادھر ادھر دیکھنے والے کی نماز نہیں ہوتی ہے۔“

یہ روایت دو دیگر اسناد سے بھی منقول ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ حدیث ”مضطرب“ ہے، ابن القطان کہتے ہیں: صلت کی حالت کی شناخت نہیں ہو سکی۔

۳۹۱۵- صلت بن عبدالرحمن انصاری

یہ ایک بزرگ ہے جس سے ابن عجلان نے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

۳۹۱۶- صلت بن عبدالرحمن زبیدی

ابوالفتح ازدی کہتے ہیں: اس کے ذریعے حجت قائم نہیں ہو سکتی، (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: ابن ابو حاتم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔

۳۹۱۷- صلت بن عبدالرحمن

اس نے سفیان ثوری سے روایت نقل کی ہے، عقیلی کہتے ہیں: یہ مجہول ہے، اس کی نقل کردہ روایت کی متابعت نہیں کی گئی، پھر انہوں

نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

بعث عیاض بن حمار المجاشعی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفرس فقال: انی اکره زبد
البشرکین.

”عیاض بن حمار مجاشعی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گھوڑا تحفے کے طور پر پیش کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں مشرکین کے تحائف کو ناپسند کرتا ہوں۔“

یہی روایت دود دیگر اسناد کے حوالے سے منقول ہے۔

۳۹۱۸- صلت بن قوید

اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسا شخص ہے؟ اس کی نقل کردہ روایت ”منکر“ ہے، پھر انہوں نے اس کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے، جو ابن عرفہ کے جزء میں ہے (جس کے الفاظ یہ ہیں)

لا تقوم الساعة حتی لا تنطح ذات قرن جماء .

”قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، جب تک سینگ والی بکری بغیر سینگ کے بکری کو سینگ نہیں مارے گی۔“

عمار بن محمد نے اس کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے، البتہ عمار نامی راوی پر اس روایت میں اختلاف کیا گیا ہے، عبداللہ بن احمد کہتے ہیں: یہ روایت ابراہیم بن عبداللہ نے عمار کے حوالے سے ان کی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، جب کہ امام احمد رضی اللہ عنہ نے یہ روایت اپنی سند کے ساتھ عمار کے حوالے سے نقل کی ہے، لیکن اس میں ”ابو احمر“ کا ذکر نہیں ہے۔

۳۹۱۹- (صح) صلت بن مسعود (م) محمد ری

یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ایک ہے، عبدالان کہتے ہیں: عباس غزیری نے میرے ایک جزء میں صلت نامی راوی کے حوالے سے منقول کچھ روایات دیکھیں، تو انہوں نے فرمایا: اے میرے بیٹے! اس سے بچ کے رہو، ابن عدی کہتے ہیں: مجھے ایسا کوئی شخص نہیں ملا، جس نے صلت کے بارے میں کوئی ایسا کلام کیا ہو، جو اسے ضعیف ہونے کی طرف منسوب کرتا ہو، میں اس کی نقل کردہ روایت کو قابل اعتماد قرار دیتا ہوں اور مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی، جسے منکر قرار دیا جائے، میرے نزدیک اس میں حرج نہیں ہے، یہ اسماعیل کا بھائی ہے، صالح جزرہ اور دیگر حضرات نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔

۳۹۲۰- صلت بن مہران

اس نے شہر بن حوشب، ابن ابی ملیکہ، اور حسن سے روایت نقل کی ہیں، جب کہ اس سے محمد بن بکر برسانی اور سہل بن حماد نے روایات نقل کی ہیں، یہ مستور ہے، ابن القطان کہتے ہیں: یہ مجہول الحال ہے۔

عبداللہ بن ابی اسحاق نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے:

لا صلاة لملفت.

”نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنے والے کی نماز نہیں ہوتی“

یہ روایت ثابت نہیں ہے، اسے بزار نے اپنی ”امالی“ میں نقل کیا ہے اپنی ”مسند“ میں نقل نہیں کیا۔

۳۹۲۱- صلت بن یحییٰ

اس نے ابن ابوملیکہ سے روایت نقل کی ہے؛ از دی کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے اس کی نقل کردہ روایت درست نہیں ہے۔

۳۹۲۲- صلت سدوسی

یہ تابعی ہے اس نے یہ ”مرسل“ روایت نقل کی ہے:

ذبیحة المسلم حلال، وان لم یسم

”مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے خواہ اس نے بسم اللہ نہ پڑھی ہو“

صرف ثور بن یزید نے اس سے روایت نقل کی ہے۔

(صلہ)

۳۹۲۳- صلہ بن سلیمان عطار، ابوزید واسطی

اس نے ابن جریج اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں؛ عباس نے یحییٰ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ”ثقة“ نہیں ہے؛ معاویہ بن صالح نے یحییٰ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ضعیف ہے؛ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے؛ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ابن جریج اور شعبہ کے حوالے سے اس نے جو روایات نقل کی ہیں؛ انہیں ترک کیا جائے گا اور اس کی وہ روایت معتبر ہوگی؛ جو اس نے اشعث حرانی سے نقل کی ہے۔

اس کی نقل کردہ منکر روایات میں سے ایک یہ روایت ہے؛ جو اس راوی نے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے

من حج عن والدیہا قضی عنہما مغرم بعد اللہ مع الابرار

”جو شخص اپنے ماں باپ کی مٹھوں سے حج کرے؛ یا ان کا قرض ان کی طرف سے ادا کر دے؛ اسے اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) نیک

لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا“۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

اخبرنی معاذانہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: من امن رجلا ثم قتله وجبت له النار،

وان كان المقتول كافرا.

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: جو شخص کسی کو امان دے اور

پھر اسے قتل کر دئے، تو اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے، اگرچہ مرنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو۔“

(صہیب)

۳۹۲۳- صہیب بن مہران

عمرو بن صالح نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۹۲۵- صہیب

اس نے حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، یہ دونوں روای مجہول ہیں۔

۳۹۲۶- صہیب عتواری

اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت نہیں ہو سکی، نعیم مجمر نے اس سے روایت نقل کی ہے۔

۳۹۲۷- صہیب مکی (س) الخذاء

اس نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے، جب کہ اس سے صرف عمرو بن دینار نے روایت نقل کی ہے، بعض حضرات نے اسے قوی قرار دیا ہے، اس کی نقل کردہ روایت یہ ہے:

من قتل عصفورا ساله الله عنده.

”جو شخص کوئی چڑیا مار دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے بارے میں باز پرس کرے گا۔“

۳۹۲۸- صہیب، ابو صہبَاء (د، س، م) بکری

اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، جب کہ اس سے طاؤس، سعید بن جبیر اور ابو نضر نے روایات نقل کی ہیں، ابو زرعا نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے جب کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے: یہ بصری اور ضعیف ہے۔

۳۹۲۹- صہیب

اس نے اپنے آقا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے صرف ابو صالح السمان روایت نقل کی ہیں،

﴿ حرف الضاد ﴾

(ضبارہ)

۳۹۳۰- ضبارہ بن عبداللہ (د، س، ق) بن ابوسلیل شامی

اس نے دوید بن نافع سے، جب کہ اس سے بقیہ بن ولید اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں، ابن عدی نے اپنی کتاب ”الکامل“ میں اس کے حوالے سے چھ روایات نقل کی ہیں، اس کمزور ہونا پایا جاتا ہے۔

۳۹۳۱- ضبارہ بن مالک

ایک قول کے مطابق اس کا نام عبداللہ ہے اور اس کو اس کے دادا کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے، یہ بقیہ کا استاد ہے اور بقیہ کے استادوں میں یہ سب سے زیادہ مجہول ہے، لیکن اس کا ذکر ”الکامل“ کے مصنف نے کیا ہے اور یہ کہا ہے: اس سے ایسی روایات منقول ہیں جو اس نے اپنے والد سے نقل کی ہیں، اس سے اس کے صاحبزادے محمد اور بقیہ نے روایات نقل کی ہیں۔

(ضبیعہ)

۳۹۳۲- ضبیعہ بن حصین (د)

ابو بردہ کے علاوہ، اور کسی نے بھی اس سے روایت نقل نہیں کی،

(ضحاک)

۳۹۳۳- ضحاک بن ایمن کلبی (د)

یہ ابن لہیعہ کا استاد ہے، یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ کون ہے؟ اس کے حوالے سے نصف شعبان کی رات کے بارے میں روایت منقول ہے۔

۳۹۳۴- ضحاک بن حمزہ (ت)

اس نے عمرو بن شعیب سے روایت نقل کی ہے، نسائی کہتے ہیں: ”یہ ثقہ“، نہیں ہے بخاری کہتے ہیں: منکر الحدیث، یہ مجہول ہے، اس ر

اوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياہ، واذا اخذ في المشي الى الجمعة كان له بكل خطوة عمل عشرين سنة، فاذا فرغ من الجمعة اجيز بعلم مائتي سنة.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، اس کے گناہوں اور خطاؤں کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ پیدل چل کر جمعہ کی طرف جاتا ہے، تو اسے ہر ایک قدم کے عوض میں بیس سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ جمعہ سے فارغ ہوتا ہے، تو اسے دو سال کے عمل کا بدلہ ملتا ہے“

یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ”الضعفاء“ میں، تعلق کے طور پر، اسحاق بن راہویہ کے حوالے سے، بقیہ سے نقل کی ہے۔ اس راوی سے ابوسفیان سعید بن یحییٰ حمیری، ابو مغیرہ، محمد بن حرب، محمد بن حمیر، یمان بن عدی حمصی نے بھی روایت نقل کی ہیں۔

اس سے ایسی روایات منقول ہیں، جو اس نے قادم، منصور بن زاذان اور دیگر حضرات سے نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین کہتے ہیں: یہ ”لیس بشیء“ ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

من سبح مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن حج مائة حجة. ومن حمد الله مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن حمل على مائة فرس.. الحديث.

”جو شخص ایک سو مرتبہ صبح اور ایک سو مرتبہ شام کے وقت ”سبحان اللہ“ پڑھتا ہے، تو یہ ایک سو مرتبہ حج کرنے کی مانند ہوگا اور جو شخص ایک سو مرتبہ صبح اور ایک سو مرتبہ شام کے وقت ”الحمد للہ“ پڑھتا ہے، تو یہ (اللہ کی راہ میں) ایک سو گھوڑے دینے کی مانند ہوگا“ (الحديث)

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت محمد بن وزیر کے حوالے سے نقل کی ہے، اور اسے ”حسن“ قرار دیا ہے، تو گویا اس نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

الزكاة قنطرة الاسلام
”زکوٰۃ، اسلام کا ڈھیر ہے“

۳۹۳۵- ضحاک بن حیوہ

اس نے سفیان بن عیینہ سے روایت نقل کی ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ احادیث ایجاد کرتا تھا، ابن عدی کہتے ہیں: یہ

اللہ منجی ہے اس کی تمام روایات یا تو متن کے حوالے سے، یا سند کے حوالے سے، منکر ہیں اس کی نقل کردہ مصیبتوں میں سے ایک روایت وہ ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے:

من اکرم العلماء فقد اکرم الله ورسوله.

”جس نے علماء کا اکرام کیا، اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا اکرام کیا“

۳۹۳۶- ضحاک بن زید اہوازی

اس نے اسماعیل بن ابو خالد سے روایت نقل کی ہے، امام ابن حبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”مرسل“ روایات کو ”مرفوع“ کے طور پر، اور ”موقوف“ روایات کو ”مسند“ کے طور پر نقل کیا کرتا ہے، اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔ عقلی بیان کرتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت میں اس کے برخلاف نقل کیا گیا ہے۔

۳۹۳۷- ضحاک بن شریحیل (ق).

اس نے زید بن اسلم سے روایت نقل کی ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے۔

۳۹۳۸- ضحاک بن شریحیل (د) مصری غافقی.

(اگر تو یہ وہ ہے، جو) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کرتا ہے، تو پھر یہ ”صدوق“ ہے۔

۳۹۳۹- ضحاک بن شریحیل (خ، م)

اور ایک قول کے مطابق یہ ابن شریحیل مشرقی ہے، مشرق، ہمدان کا علاقہ ہے

اس نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے، جب کہ اس سے زہری، اعمش اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں، یہ حجت ہے، لیکن اس نے تھوڑی روایات نقل کی ہیں۔

۳۹۴۰- ضحاک بن عبدالرحمن (ت، ق) بن عرزب شامی

عجلی کہتے ہیں: یہ تابعی ہے اور ثقہ ہے۔

۳۹۴۱- ضحاک بن عبدالرحمن (س) بن حوشب نصری دمشقی

اس نے مکحول اور عطاء خراسانی سے روایات نقل کی ہیں، دجیم کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ اور ثبت ہے۔

۳۹۴۲- ضحاک بن عبدالرحمن (س) بن حوشب نصری دمشقی

اس نے مکحول اور عطاء خراسانی سے روایات نقل کی ہیں، دجیم کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ اور ثبت ہے۔

۳۹۴۳- ضحاک بن عثمان (م، عمو) حزامی مدنی

اس نے تابعین سے روایات نقل کی ہیں یہ ”صدوق“ ہے، یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے، تاہم اس کی حدیث میں ضعف پایا جاتا ہے، یحییٰ القطان نے اسے ”لین“ قرار دیا ہے، باوجودیکہ انہوں نے اس سے روایات نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا، امام ابو زرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے، عثمان بن سعید نے یحییٰ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ ثقہ ہے، جہاں تک اس کے پوتے کا تعلق ہے، (تو اس کا تذکرہ درج ذیل ہے)

۳۹۴۴- ضحاک بن عثمان بن ضحاک بن عثمان بن عبداللہ بن خالد،

یہ حکیم بن حزام کا بھائی ہے (اس راوی کا اسم منسوب) اسدی حزامی مدنی ہے، یہ ”صدوق“ ہے، اس نے اپنے دادا اور امام مالک سے روایات نقل کی ہیں، اس سے اس کے بیٹے محمد، ابراہیم بن منذر حزامی اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں، خطیب کہتے ہیں: یہ مدینہ منورہ میں، عربوں کی تاریخ اور ادبیات کا، قریش کا بڑا عالم تھا، یہ امام مالک کے اکابر شاگردوں میں سے ایک ہے۔

۳۹۴۵- ضحاک بن عثمان

یہ عمر رسیدہ شخص ہے، لیکن اس کا تعارف پتہ نہیں چل سکا، محمد بن منذر ہروی نے محمد بن حماد کا یہ بیان نقل کیا ہے: ضحاک بن عثمان، جن کا تعلق اہل زربہ سے ہے، انہوں نے ثوری کے خادم سے ایک حکایت نقل کی ہے:

۳۹۴۶- (صح) ضحاک بن مخلد (ع) ابو عاصم نبیل

یہ ”ثبت“ راویوں میں سے ایک ہیں، عقلی نے یہ قابل انکار حرکت کی ہے کہ اس نے ان کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے اور ان کے حوالے سے ایک حدیث بھی نقل کی ہے، جس کی سند میں، ان کے برخلاف نقل کیا گیا ہے، ابو عباس نباتی نے اسی طرح بیان کیا ہے، البتہ میں نے عقلی کی کتاب میں ان کا ذکر نہیں پایا۔ نباتی بیان کرتے ہیں: ابو عاصم کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی، یحییٰ بن سعید آپ کے بارے میں کلام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا: میں نہ تو زندہ ہوں اور نہ ہی مردہ ہوں، تو پھر میرا ذکر کیوں نہ کیا جائے؟ علماء کا ابو عاصم کی توثیق پر اتفاق ہے، عمر بن شیبہ تو یہ کہتے ہیں: اللہ کی قسم! میں نے ان جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا۔

۳۹۴۷- ضحاک بن مزاحم بنی مفسر، ابو قاسم

یحییٰ بن معین نے ان کی یہ کنیت بیان کی ہے، فلاس نے ان کی کنیت ”ابو محمد“ ذکر کی ہے، یہ استاد تھے، یہ کہا جاتا ہے: ان کے مدرسہ میں تین ہزار بچے پڑھتے تھے، اور یہ گدھے پر بیٹھ کر ان کا جائز لیا کرتے تھے، یہ روایت بھی نقل کی گئی ہے: ضحاک، دو برس تک اپنی والدہ

کے پیٹ میں رہے تھے، یحییٰ القطان کہتے ہیں: شعبہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ ضحاک نے کبھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ملاقات کی ہو۔

طیالسی، شعبہ کے حوالے سے، عبدالملک بن عمیر کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: ضحاک نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ملاقات نہیں کی ہے، انہوں نے ”رے“ میں سعید بن جبیر سے ملاقات کی تھی، اور ان سے علم تفسیر حاصل کیا تھا۔ سلم بن قتیبہ، شعبہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے مشاش سے دریافت کیا: کیا ضحاک نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سماع کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اس نے تو انہیں دیکھا تک نہیں ہے۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں: ہمارے (محدثین) کے نزدیک یہ ضعیف ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ اور ابو زرعد نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے۔

یحییٰ بن معین یہ کہتے ہیں: ضحاک مشرقی (دراصل) ضحاک بن مزاحم ہے، یعقوب فسوی نے اس بارے میں ان کی پیروی کی ہے، حالانکہ ضحاک مشرقی (دراصل) ضحاک بن شراحیل ہے، اس نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کی ہیں، ”مشرق“ ہمدان کا ایک علاقہ ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: ضحاک بن مزاحم، تفسیر کے حوالے سے معروف ہے، جہاں تک اس کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایات نقل کرنے کا تعلق ہے، بلکہ اس سے جو بھی روایات نقل کی گئی ہیں، وہ سب محل نظر ہیں۔ جہاں تک عبداللہ بن احمد کا تعلق ہے، تو وہ کہتے ہیں: میں نے اپنے والد (امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ) کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: ضحاک بن مزاحم ثقة اور مامون ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس کا انتقال 105 ہجری میں، اور ایک روایت کے مطابق 106 ہجری میں ہوا۔

۳۹۴۸- ضحاک بن مسافر

یہ ایک عمر رسیدہ شخص ہے، جس کے حوالے سے ولید موقری نے روایات نقل کی ہیں، ولید بھی ضعیف ہے اور اس (ضحاک بن مسافر) کی شناخت بھی پتہ نہیں چل سکی۔

۳۹۴۹- ضحاک بن میمون ثقفی

ازدی کہتے ہیں: یہ (کچھ) معروف اور (کچھ) منکر ہے۔

۳۹۵۰- ضحاک بن نبراس، بصری

اس نے ثابت اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں

یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے، نسائی کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے، امام دارقطنی رحمہ اللہ اور دیگر حضرات کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے حوالے سے ”الادب المفرد“ میں روایات نقل کی ہیں۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

اقبمت الصلاة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه، فقارب في الخطا وقال: انبا فعلت ذلك ليكثر عدد خطاي في طلب الصلاة.

”نماز کے لیے اقامت کہی گئی، تو نبی اکرم ﷺ (گھر سے) باہر تشریف لائے، میں آپ ﷺ کے ساتھ تھا، نبی اکرم ﷺ چھوٹے قدم اٹھا رہے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے ایسا اس لیے کیا ہے، تاکہ ادائیگی میں، میرے قدموں کی تعداد زیادہ ہو جائے“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

اقرأوا القرآن ولا تاكلوا به، ولا تستكثروا به، ولا تغلوا؟ فيه، ولا تجفوا عنه.
”تم قرآن کی تلاوت کرو، اور اس کے عوض میں کچھ کھاؤ نہیں، اس کے عوض میں (مال کی) کثرت حاصل نہ کرو، اس میں غلو اختیار نہ کرو اور اس سے اعراض نہ کرو“۔

۳۹۵۱- ضحاک بن ربیع

ازدی کہتے ہیں: اس کی حدیث قائم نہیں ہے۔

ضحاک بن یسار بصری

(یہ الگ راوی ہے، لیکن عربی نسخے میں اسی طرح ضمنی طور پر ذکر ہوا ہے، جو شاید ہو کا تب ہے۔)

اس نے ابو عثمان نہدی، یزید بن شحیر اور ایک جماعت سے، جب کہ اس سے امام مسلم، ابو لید اور حوضی نے روایات نقل کی ہیں۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں: اہل بصرہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، امام ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن عدی نے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے: میں اس کے حوالے سے منقول روایات سے واقف نہیں ہوں، صرف تھوڑی سی روایات ہیں (جو اس سے منقول ہیں)

۳۹۵۲- ضحاک ضعی

اس نے اپنے والد سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے، یہ بات امام ابو زرعہ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔

۳۹۵۳- ضحاک معافری (ق)

اس نے سلیمان بن موسیٰ سے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت نہیں ہو سکی، محمد بن مہاجر انصاری کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایت نقل نہیں کی ہیں، ابن حبان رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کتاب ”الثقات“ میں کیا ہے، اس کے حوالے سے دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں ایک روایت منقول ہے۔

(ضرار)

۳۹۵۴- ضرار بن سہل

اس نے حسن بن عرفہ کے حوالے سے، ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے، یہ نہیں پتہ کہ ذوالحیو ان کون ہے؟ اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

قال علی: قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم: یا علی، ان اللہ امرنی ان اتخذ ابا بکر والدا، وعبدا مشیرا، وعتبان سندا، وانت ظہیرا، انتم قد اخذ اللہ لکم البیثاق لا یحبکم الا (مؤمن) تقی، انتم خلفاء امتی، و عقد ذمتی.

”حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے علی! بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں ابو بکر کو والد، عمر کو مشیر، عثمان کو سند (ثبک)، اور تمہیں مددگار بنا لوں، تم وہ لوگ ہو، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پختہ عہد لیا ہے، کہ صرف پرہیزگار مومن ہی تم سے محبت رکھے گا، تم میری امت کے خلفاء ہو اور میرے ذمہ کو مضبوط کرنے والے ہو“

یہ روایت عبد الوہاب کلابی نے اپنی سند کے ساتھ ضرار کے حوالے سے نقل کی ہے۔

۳۹۵۵- ضرار بن صرد، ابو نعیم طحان

اس نے ابراہیم بن سعد کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں (ابو عبد اللہ) بخاری اور دیگر حضرات نے یہ کہا ہے: یہ ”متروک“ ہے یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: کوفہ میں دو کذاب تھے یہ (یعنی ضرار) اور ابو نعیم نخعی۔

ابن عدیبیان کرتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

علی عیبة علی

”علی، میرے علم کا صندوق ہے“۔

ابن حبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

انه صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی: انت تبین لاتی ما اختلفوا فیہ من بعدی.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: میری امت میرے بعد جب اختلافات کا شکار ہوگی، اس وقت تم ان کے سامنے (حق) واضح کرو گے“

ابو نعیم طحان کا انتقال 229 ہجری میں ہوا، مطین اور ایک جماعت نے اس سے روایات نقل کی ہیں، نسائی کہتے ہیں: یہ ”ثقة“ نہیں

ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے، لیکن اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے۔
(نوٹ: اصل عربی متن میں 56 کی ترقیم شاید سہو کا تب کی وجہ سے رہ گئی)

۳۹۵۷۔ ضرار بن عمرو ملطی

اس نے یزید قاشی اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، احمد بن سعد بن ابومریم نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ کوئی چیز نہیں ہے، جب کہ دولابی کہتے ہیں: اس میں غور و فکر کی گنجائش ہے، اس کی نقل کردہ منکر روایات میں سے، ایک روایت یہ ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“، نقل کی ہے:

اهل الجنة عشرون ومائة صف، هذه الامة ثمانون صفاً.

”اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

لوان آحم ومن دونہ اشترکوا فی دم مؤمننا کبھم اللہ فی النار.

”اگر آدم اور ان کے علاوہ (تمام بنی نوع انسان) کسی ایک مؤمن کے قتل میں شریک ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا“

ابن عدی بیان کرتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“، نقل کی ہے:

من قال: انا فی النار فهو فی النار. ومن قال: انا فی الجنة فهو فی النار.

”جو شخص یہ کہے: میں جہنمی ہوں، تو وہ جہنم میں جائے گا اور جو یہ کہے: میں جنتی ہوں، وہ بھی جہنم میں جائے گا“

۳۹۵۸۔ ضرار بن عمرو قاضی

یہ انتہا پسند معتزلی ہے، اس کے خبیث نظریات ہیں، یہ کہتا ہے: اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ تمام لوگ جو بظاہر مومن ہیں، وہ درحقیقت کافر ہوں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک میں، اس بات کا احتمال موجود ہے۔

مروزی بیان کرتے ہیں: امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں نے قاضی سعید بن عبدالرحمان کے سامنے ضرار کے خلاف گواہی دی، تو قاضی نے اس کی گردن اڑانے کا حکم دیا، تو ضرار بھاگ گیا، یہ بات بیان کی گئی ہے: یحییٰ بن خالد برمکی نے اسے چھپا دیا تھا۔ ابن حزم کہتے ہیں: ضرار، عذاب قبر کا انکار کرتا تھا۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں) میں یہ کہتا ہوں: اس مدبر نے کوئی چیز روایت نہیں کی۔

۳۹۵۹۔ ضرار بن علی قاضی، ابومرجی

اس کی شناخت نہیں ہو سکی، اس کے حوالے سے صرف لاحق بن حسین نے روایات نقل کی ہیں اور یہ ساقط الاعتبار ہے۔

۳۹۶۰- ضرار بن مسعود

اس نے خوارزم کی فضیلت کے بارے میں تاریک سند کے ساتھ ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے۔

(ضمام)

۳۹۶۱- ضمام بن اسماعیل مصری

یہ صالح الحدیث ہے اور بعض حضرات نے کسی حجت کے بغیر اسے ”لین“ قرار دیا ہے اس نے ابو قبیل اور موسیٰ بن وردان سے، جب کہ اس سے ابن وہب، سوید بن سعید اور ایک گروہ نے روایات نقل کی ہیں ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ صدوق اور عبادت گزار تھا۔ میں یہ کہتا ہوں: اس کا انتقال اسکندریہ میں 185 ہجری ہوا، ابن عدی نے ”الکامل“ میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے حوالے سے حسن روایات نقل کی ہیں۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ضمام ”صالح الحدیث“ ہے، میں نے سوید کے حوالے سے ضمام کی روایات نوٹ کی ہیں اس نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کا یہ بیان نقل کیا ہے:

”ہم زمانہ جاہلیت میں یہ کہا کرتے تھے: وقفے، وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت میں اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمادی“

اس نے اپنی سند کے ساتھ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایت نقل کی ہے:

”وہ جمعہ کے دن منبر پر چڑھے، انہوں نے خطبے میں ارشاد فرمایا: اے لوگو! بے شک مال ہمارا مال ہے اور فہ ہمارا فہ ہے، ہم ہنسہ چاہیں گے، اسے یہ دیں گے اور جسے چاہیں گے، نہیں دیں گے، تو کسی نے انہیں کچھ نہیں کہا، اگلے جمعہ انہوں نے پھر یہی بات کہی، تو پھر کسی نے انہیں کچھ نہیں کہا، تیسرے جمعے انہوں نے پھر یہی بات کہی، تو ایک شخص ان کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا: اے معاویہ! ہرگز نہیں، یہ مال ہمارا مال ہے اور یہ فہ ہمارا فہ ہے، جو ہمارے اور اس کے درمیان رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا، ہم اپنی تلواروں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کا فیصلہ کروائیں گے، جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ منبر سے نیچے اترے، تو انہوں نے اس شخص کو اپنے (گھر) بلوایا، وہ شخص ان (کے گھر) لے جایا گیا، تو لوگوں نے کہا: یہ ہلاکت کا شکار ہو گیا، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دروازے کھلوائے، لوگ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے اس شخص کو ان کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے ہوئے پایا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس شخص نے مجھے زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے، جن کو ٹوکنا نہیں جائے گا، وہ جہنم میں اس طرح بڑھیں ماریں جسے بند ماتے ہیں۔“

میں نے پہلے جمعہ میں ایک بات کہی تو کسی نے مجھے نہیں ٹوکا، تو مجھے یہ اندیشہ ہوا، کہیں میں ان میں سے نہ ہوں، پھر میں نے

دوسرے جمعہ میں وہی بات کہی، تو کسی نے مجھے نہیں ٹوکا، تو میں نے دل میں سوچا: میں ان سے ایک ہوں، پھر میں نے تیسرے جمعہ وہی کلام کیا، تو یہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے مجھے ٹوک دیا، تو اس نے مجھے زندگی دی، مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں سے نکال دیا ہے، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے عطیات دے کر رخصت کیا۔

ابن عدی نے یہ روایت بہلول بن اسحاق کے حوالے سے، اس سے نقل کی ہے، میں نے حافظ ضیاء مقدسی کی تحریر میں یہ بات پڑھی ہے: ہمام بن اسماعیل، جس نے موسیٰ بن وردان کے حوالے سے روایات نقل کی ہیں، وہ ”متروک“ ہے، یہ بات امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے۔

(ضمہ)

۳۹۶۲- ضمہ بن حبیب مقدسی

یہ بتا نہیں چل سکا کہ یہ کون ہے اس نے مجہول سند کے ساتھ جھوٹا متن روایت کیا ہے، اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

يجتمع بعرفة جبرائيل وميكائيل والخضر فيقول جبرائيل: ما شاء الله، فذكر خبرا طويلا.
”عرفہ میں حضرت جبرائیل، میکائیل اور حضرت خضر اکٹھے ہوئے، جبرائیل نے کہا: جو اللہ تعالیٰ چاہے، اس کے بعد اس نے طویل روایت نقل کی ہے۔“

۳۹۶۳- ضمہ بن حبیب (عو) حمصی

یہ تابعی ہے اور ثقہ ہے، اس نے شداد بن اوس، ابوامامہ اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں

۳۹۶۴- ضمہ بن ربیعہ رملی

یہ مشہور شخص ہے اور اس پر کوئی تنقید نہیں کی گئی ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ثقہ“ قرار دیا ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ صالح الحدیث ہے۔

ضمہ نامی راوی اس روایت کو نقل کرنے میں منفرد ہے، جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من ملك ذا رحم محرّم عتق.

”جو شخص اپنے کسی محرم رشتے دار کا مالک بن جائے، تو وہ محرم آزاد ہو جاتا ہے۔“ یہ روایت امام انسائی نے نقل کی ہے۔

(ضمضم)

۳۹۶۵- ضمضم بن زرعہ (د).

اس نے شریح بن عبید سے روایت نقل کی ہے، یحییٰ بن معین نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے، جب کہ ابو حاتم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے ایک جماعت نے اس سے روایات نقل کی ہیں۔

۳۹۶۶- ضمضم بن عمرو (نخ)

یہ تہذیب کا استاد ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ بزرگ ہے، ازدی کہتے ہیں: یہ کمزور ہے، اس سے ایسی روایت منقول ہیں، جو اس نے کلیب بن منفعہ اور یزید رقاشی سے نقل کی ہیں، یہ بصری ہے۔

(ضوء)

۳۹۶۷- ضوء بن ضوء

ازدی کہتے ہیں: اس کی روایت رخصت ہونے والی ہے، اس کے بعد ازدی نے اس حوالے سے اس کی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں روایت نقل کی ہے (انہوں نے ایک دفعہ سفر کے دوران) ایک شخص کو دیکھا، جو اپنی قبر سے نکلا اور وہ آگ کا انگارہ چب رہا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، بعد میں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابن عمر! تمہیں نصیحت کی گئی، تو تم نصیحت حاصل کرو، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی بھی شخص تنہا سفر نہ کرے۔

﴿ حرف الطاء ﴾

(طارق)

۳۹۶۸- طارق بن ابوحسنا

اس نے حسن بصری رضی اللہ عنہ سے جب کہ اس سے اعمش نے روایات نقل کی ہیں یہ مجہول ہے

۳۹۶۹- طارق بن زیاد

اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خوارج کے بارے میں روایت نقل کی ہے اس سے صرف ابراہیم بن عبدالاعلیٰ نے روایت نقل کی ہے، عبدالرحمن بن خراش کہتے ہیں: یہ مجہول ہے

۳۹۷۰- طارق بن عبدالرحمن (ع) بجلی

اس نے سعید بن مسیب سے روایت نقل کی ہے یہ ثقہ اور مشہور ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت زیادہ پائے کی نہیں ہے، یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں: میرے نزدیک یہ ابراہیم بن مہاجر کی مانند ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے: اللہم اذقت اول قریش نکالافاذق آخرهم نوالا۔

”اے اللہ! تو نے قریش کے پہلے لوگوں کو سزا کا ذائقہ چکھایا تھا، بعد والوں کو نعمتوں کا ذائقہ چکھادے۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المحاقلة والمزارعة وقال: انما يزرع ثلاثة: رجل له ارض

فهو يزرعها، ورجل منح ارضا فهو يزرع ما منح منها، ورجل استكرو ارضا بذهب او فضة.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلة اور مزارعة سے منع کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں: (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تین طرح کے

لوگ کھیتی باڑی کر سکتے ہیں: ایک وہ شخص جس کی اپنی زمین ہو اور وہ اس میں کھیتی باڑی کرے، ایک وہ شخص جو اپنی زمین کسی کو

عطیے کے طور پر دیدے، تو جسے عطیے کے طور پر وہ زمین دی گئی ہے وہ اس میں کھیتی باڑی کرے، اور ایک وہ شخص جو سونے اور

چاندی کے عوض میں کسی زمین کو کرائے پر لے۔“

یحییٰ بن سعید کہتے ہیں: طارق نامی راوی میرے نزدیک ابن حرملة سے زیادہ قوی نہیں ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: شعبہ، ابو عوانہ، وکیع نے اس سے روایات نقل کی ہیں، یحییٰ بن معین اور عجل نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نقل کردہ روایت کونوٹ کیا جائے گا، ابن عدی کہتے ہیں: مجھے یہ امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۳۹۷۱- طارق بن عبد الرحمن (د) بن قاسم

اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کینر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایات نقل کی ہیں، اس سے عکرمہ بن عمار نے روایات نقل کی ہیں، اس کی شناخت نہیں ہو سکی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیا مراد لی ہے؟ یہ والا شخص یا اس سے پہلے والا شخص؟ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کتاب ”الثقات“ میں کیا ہے۔

۳۹۷۲- طارق بن عمار

اس نے ابوزنا سے، جب کہ اس سے واقدی اور دیگر حضرات نے روایات نقل کی ہیں، اس کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ حدیث کی متابعت نہیں کی گئی۔

۳۹۷۳- طارق بن مرقع (س)

اس نے حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کی چادر چوری ہونے کی روایت نقل کی ہے، جب کہ عطاء بن ابی رباح نے اس کے حوالے سے صرف یہ روایت نقل کی ہے۔

(طالب)

۳۹۷۴- طالب بن بشیر

یہ مدنی ہے اور مجہول ہے

۳۹۷۵- طالب بن حبیب (د) بن سہل

ضعفا سے ضعیف قرار دیا گیا ہے، ابن عدی نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب ”الکامل“ میں کیا ہے، پھر یہ کہا ہے: مجھے یہ امید ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

قال: اکثر من يموت من امتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالانفس.

”میری امت میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کے فیصلے قدر و قضا کے ساتھ دل کی بیماری کی وجہ سے فوت ہوں گے۔“

۳۹۷۶- طالب بن حجر (ت، ع)

اس نے ہود بن عبد اللہ بن سعد، کے حوالے سے ان کے دادا حضرت مزیدہ عصری کا یہ بیان نقل کیا ہے:

قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، كانت قبعة السيف فضة.

”نبی اکرم ﷺ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ ﷺ کی تلوار پر سونے اور چاندی کا کام ہوا تھا، اور تلوار کا دستہ چاندی سے بنا ہوا تھا“

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ روایت ”حسن غریب“ ہے؛ جب کہ ابوالحسن القطان کہتے ہیں: میرے نزدیک یہ ”ضعیف“ ہے ”حسن“ نہیں ہے اور ابوالحسن نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں: طالب نامی راوی اس روایت کو نقل کرنے میں منفرد ہے، اگر اللہ نے چاہا تو اس کا معاملہ ٹھیک ہوگا، لیکن یہ روایت ”منکر“ ہے، کیونکہ ہمارے علم کے مطابق نبی اکرم ﷺ کی تلوار میں سونا نہیں لگا تھا۔

۳۹۷۷- طالب بن سمیدع

ازدی کہتے ہیں: اس میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔

۳۹۷۸- طالب (بن عبد اللہ)

ازدی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت قائم نہیں ہے، پھر انہوں نے اس کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔

عن علي - انه نزل مسكن، فامر بنبيذ فنبذ في الخوابي، فشرب وسقى اصحابه، فاخذ رجل قد سكر ليحده، فقال: يا امير المؤمنين، تحدني على شراب انت قد سقيتنيه؟ قال: ليس احدك على الشراب، انما احدك على السكر.

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے: انہوں نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، انہوں نے نبیذ تیار کرنے کے بارے میں حکم دیا، تو ان کے لیے خواہی میں نبیذ تیار کی گئی، انہوں نے اسے پی لیا اور اپنے اصحاب کو بھی پلائی، ان میں سے ایک شخص کونشہ ہو گیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر حد جاری کرنے کا ارادہ کیا، اس نے عرض کی: اے امیر المؤمنین! کیا آپ مجھے ایک ایسے مشروب کی وجہ سے حد لگائیں گے، جو آپ نے مجھے پلایا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: میں تم پر پینے کی وجہ سے حد جاری نہیں کر رہا، میں تو نشے کی وجہ سے تم پر حد جاری کر رہا ہوں“

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: یہ روایت جھوٹی ہے اور یہ ایسی صورت حال کے بارے میں ہے، جس کا آدمی پابند

نہیں ہے۔

(طالوت)

۳۹۷۹- طالوت بن طریف

ابو مطیع بلخی نے اس سے حدیث روایت کی ہے یہ مجہول ہے۔

۳۹۸۰- طالوت بن عباد صیرفی

یہ اس بلند نسخے کا مولف ہے یہ ایک عمر رسیدہ بزرگ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے
یہ ”صدوق“ ہے جہاں تک ابن جوزی کا تعلق ہے تو انہوں نے یہ بات کہی ہے: علم حدیث کے ماہرین نے اسے ضعیف قرار دیا
ہے

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: میں نے اس کے بارے میں پوری تحقیق کی ہے مجھے ایسا کوئی شخص نہیں مل سکا جس
نے اسے ضعیف قرار دیا ہو، اور مجھے کتاب ”المنتقی“ میں اس کے حوالے سے عالی سند والی ایک حدیث ملی ہے جو اخلاص والے شخص
کے بارے میں ہے۔

اس کا انتقال 238 ہجری میں ہوا اس وقت اس کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔

(طاہر)

۳۹۸۱- طاہر بن حماد بن عمرو نصیبی

اس نے امام مالک اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں
یہ نہ تو ثقہ ہے اور نہ ہی مامون ہے اس کی نقل کردہ جھوٹی روایات میں سے ایک روایت یہ ہے جو اس راوی نے اپنی ”سند“ کے
ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نقل کی ہے:

صلیٰت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر ف جہروا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

”میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی ہے یہ حضرات بلند آواز میں ”بسم اللہ“
پڑھا کرتے تھے۔“

۳۹۸۲- طاہر بن خالد بن نزار ابلی

یہ ”صدوق“ ہے، لیکن اس سے منکر روایات منقول ہیں ابن ابوحاتم بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والد کے ہمراہ سامرا میں اس
کے حوالے سے احادیث نوٹ کی ہیں یہ ”صدوق“ ہے اس کے لیے کتابیں خریدی جاتی تھیں اور وہ اسے دی جاتی تھیں تو یہ ان کے حوالے

سے احادیث بیان کیا کرتا تھا۔

ابن عدی کہتے ہیں: اس کے حوالے سے منفرد اور غریب روایات منقول ہیں، خطیب کہتے ہیں: ”یہ ثقہ“ ہے۔

۳۹۸۳- طاہر بن رشید

اس نے سیف بن محمد کے حوالے سے اعمش سے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے، ازدی کہتے ہیں: مجھے نہیں معلوم کہ اس روایت میں

جھوٹ اس نے بولا ہے یا سیف نے؟

۳۹۸۴- طاہر بن اسہل اسفراہینی،

یہ ابن حرستانی کا استاد ہے، حافظ ابوالقاسم اس کے حالات میں یہ کہتے ہیں: یہ ثقہ نہ ہونے کے باوجود ایک مشکل شخص تھا، اس نے

اپنے بھائی کا نام شہاب کی کتاب سے مناد یا تھا اور اپنا نام نوٹ کر لیا تھا۔

۳۹۸۵- طاہر بن فضل حلبی

اس نے سفیان بن عیینہ اور جاج اعمور سے روایات نقل کی ہیں، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ثقہ راویوں کے حوالے سے جھوٹی

روایات نقل کرتا تھا، اس کی نقل کردہ روایت کو تحریر کرنا جائز نہیں ہے، البتہ صرف حیرانگی کے اظہار کے لیے نوٹ کیا جاسکتا ہے، محمد بن ایوب

بن مشکان نیشاپوری نے اس کے حوالے سے حدیث ہمیں حدیث بیان کی ہے، پھر انہوں نے اس کے حوالے سے چار روایات نقل کی

ہیں، امام حاکم کہتے ہیں: اس نے موضوع روایات نقل کی ہیں۔

(طرب، طرفہ)

۳۹۸۶- طرب

یہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا غلام ہے، ازدی کہتے ہیں: اس کی نقل کردہ روایت کی سند قائم نہیں ہے۔

۳۹۸۷- طرفہ حضری

اس نقل کردہ روایت مستند نہیں ہے، یہ بات ازدی نے بیان کی ہے۔

(طریف)

۳۹۸۸- طریف بن زید

اس نے ابن جریج سے روایت نقل کی ہے، حیران کارہنے والا عمر رسیدہ شخص ہے، اس کی شناخت نہیں ہو سکی، اس نے ایک منکر

روایت نقل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوع حدیث کے طور پر منقول ہے:

من شاب شبيبة في الاسلام كانت له نوراً يوم القيامة
 ”جو شخص اسلام میں بوڑھا ہو جائے (یعنی اس کے سفید بال آجائیں) تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوں گے“
 عقیلی کہتے ہیں: اس روایت میں اس کی متابعت نہیں کی گئی البتہ اس بارے میں صالح سند کے ساتھ روایات منقول ہیں۔

۳۹۸۹۔ طریف بن سلمان ابو عاتکہ

اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے امام ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ ذاہب الحدیث ہے امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے: یہ ”ثقة“ نہیں ہے امام دارقطنی رحمہ اللہ اور دیگر حضرات یہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے یہ اس روایت کو نقل کرنے والا شخص ہے:

اطلبوا العلم ولو بالصين

”تم علم حاصل کرو خواہ وہ چین میں ہو“

یہ اپنی کنیت کے حوالے سے زیادہ مشہور ہے۔

غسان بن عید بیان کرتے ہیں: ابو عاتکہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في النصف من رمضان.. الى آخره.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے نصف حصے تک قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔“

۳۹۹۰۔ طریف بن شہاب (ق، ت) سعدی بصری اشل، ابوسفیان.

یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: محدثین کے نزدیک یہ قوی نہیں ہے امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے ایک قول کے مطابق اس کے باپ کا نام سفیان ہے اور ایک قول کے مطابق اس کے باپ کا نام طریف بن سعد ہے ابو معاویہ نے اس کا یہی نام بیان کیا ہے اور ایک قول کے مطابق اس کا نام کچھ اور ہے۔

اس نے حسن بصری رحمہ اللہ اور ابو نصرہ سے روایات نقل کی ہیں طریف اشل بیان کرتے ہیں: ہمارے ہاں ایک گونگا ہوتا تھا میں نے تیس سال تک اسے گونگا ہی دیکھا پھر ایک مرتبہ رمضان کی ستائیسویں رات میں اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس کی زبان کو کھول دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو کھول دیا، میں نے اس کے ساتھ بات چیت کی اس نے بھی میرے ساتھ بات چیت کی۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين الاسطوانتين.

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ستونوں کے درمیان نماز ادا کرنے سے منع کیا ہے۔

۳۹۹۱- طریف بن عبید اللہ موصلی، ابو ولید

اس نے یحییٰ بن بشر حریری اور دیگر حضرات سے، جب کہ اس سے جعابی اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں؛ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے، اس کا انتقال 334 ہجری میں ہوا، یہ ابو یعلیٰ کے معاصرین میں سے ہے۔

۳۹۹۲- طریف بن عیسیٰ جزری

یہ بعد کے زمانے سے تعلق رکھنے والا عمر رسیدہ شخص ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ”ضعیف“ قرار دیا ہے۔

۳۹۹۳- طریف بن ناصح

اس نے معاویہ بن عمار سے روایت نقل کی ہے، یہ شیعہ ہے، اس کی شناخت نہیں ہو سکی اور اس کی نقل کردہ روایت ”منکر“ ہے، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ”سنن“ میں یہ روایت اپنی سند کے ساتھ ابو زبیر کے حوالے سے نقل کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں:

سالت ابن عمر عن طلق امراته ثلاثا وهي حائض، فقال: انی طلقت امراتی ثلاثا علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهي حائض، فردھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السنة. ”ابو زبیر بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا، جو اپنی بیوی کو اس کے حیض کے دوران تین طلاقیں دے دیتا ہے، تو انہوں نے فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، میں نے بھی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیدی تھیں، وہ اس وقت حیض کی حالت میں تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو ایک سال تک واپس کروا دیا تھا۔

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کے تمام راوی شیعہ ہیں اور اس کو وہ روایت جھوٹ قرار دیتی ہے، جو ”صحیح“ میں منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی اہلیہ کو ایک طلاق دی تھی۔

۳۹۹۴- طریف بن یزید

اس نے ابو موسیٰ سے روایت نقل کی ہے، یہ مجہول ہے، اسی طرح اس کا استاد (بھی مجہول ہے۔)

۳۹۹۵- طریف کوفی

اس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایات نقل کی ہیں، یہ مجہول ہے۔

۳۹۹۶- طریف

یہ مسلم زنگی کا استاد ہے، عقیلی نے اسے کمزور قرار دیا ہے، یہ طریف بن دفاع ہے، اس سے ایک روایت منقول ہے، جو اس نے یحییٰ بن ابو کثیر سے شعبان کی فضیلت کے بارے میں نقل کی ہے۔

(طعمہ، طفیل)

۳۹۹۷- طعمہ بن عمرو (د، ت) جعفری کو فی

اس نے عمر بن بیان تغلیسی سے روایت نقل کی ہے سعید بن منصور اس سے ملے تھے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ حجت نہیں ہے، یحییٰ بن معین نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ صالح الحدیث ہے۔

۳۹۹۸- طفیل بن عمرو تمیمی

اس نے حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے اس کی شناخت نہیں ہو سکی، عقیلی کہتے ہیں: اس حدیث کی متابعت نہیں کی گئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کی حدیث صحیح نہیں ہے، (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: العلماء بن فضل مقری نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے۔

قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسلمت وعلمنی آیا من القرآن، فقلت: انی عملت اعمالا فی الجاہلیۃ، فهل لی فیہا من اجر؟ (انی احییت ثلاثائہ وستین من الموءدۃ، اشتری کل واحدۃ بناقتین وجمل، فهل لی فی ذلک من اجر؟) فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: هذا باب من البر، لك اجر، اذ من الله عليك بالاسلام.

”میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے اسلام قبول کر لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن کی کچھ آیات کی تعلیم دی، میں نے عرض کی: میں نے زمانہ جاہلیت میں کچھ اعمال کیے تھے تو کیا مجھے ان کا اجر ملے گا؟ میں نے 68 زندہ درگور ہونے والی لڑکیوں کو بچایا تھا اور میں نے ان میں سے ہر ایک کو دو اونٹنیوں اور ایک اونٹ کے عوض خرید لیا تھا، تو کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ نیکی کا کام ہے اور تمہیں اس کا اجر یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ احسان کیا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا۔

راوی کہتے ہیں: ان کے اس قول کا مصداق فرزدق کا یہ شعر ہے۔

وجدی الذی منع الوائدات فاحیا الوئید ولم یواد

”وہ شخص جو زندہ درگور کرنے سے منع کرتا ہے، میں نے اس کو درگور کی ہوئی بچیوں کو زندہ کرتے ہوئے پایا، حالانکہ ان کو زندہ درگور نہیں کیا گیا تھا۔“

۳۹۹۹- طفیل نخعی

یہ قاضی شریک کا چچا زاد ہے اس سے ابن فضیل نے روایات نقل کی ہیں، یہ مہجول ہے۔

۴۰۰۰۔ طفیل مؤذن

عون بن سلام نے اس سے روایت نقل کی ہے، یہ بھی مجہول ہے۔

(طلحہ)

۴۰۰۱۔ طلحہ بن جبر

اس نے مطلب بن عبد اللہ سے روایت نقل کی ہے، جو زجانی نے اسے واہی قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں: یہ ثقہ نہیں ہے، یحییٰ کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے، ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا ہے: یہ ثقہ ہے۔

۴۰۰۲۔ طلحہ بن خراش (ت، ق) بن عبد الرحمن بن خراش بن صمہ انصاری سلمی

اس نے حضرت جابر بن عبد اللہ اور دیگر حضرات سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے در اور دی اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں، یہ صالح الحدیث ہے، ازدی کہتے ہیں: اس سے ایسی روایات منقول ہیں، جنہیں منکر قرار دیا گیا ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ نیک آدمی ہے۔

۴۰۰۳۔ طلحہ بن رافع

صالح بن کیسان نے اس سے روایت نقل کی ہے، یہ مجہول ہے

۴۰۰۴۔ طلحہ بن زید

اس نے اعمش سے، جب کہ اس سے عبید اللہ بن عمرو واسدی نے روایت نقل کی ہیں، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

۴۰۰۵۔ طلحہ بن زید (ق) رقی

ایک قول کے مطابق یہ کوفہ کا رہنے والا ہے، ایک قول کے مطابق شام کا رہنے والا ہے، اس نے ”واسط“ میں رہائش اختیار کی تھی، ایک قول کے مطابق یہ ”قریشی“ ہے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ پہلے والا راوی ہے، تاہم ابن ابو حاتم نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔

اس نے ہشام بن عروہ، ابراہیم بن ابو عبیلہ، اوزاعی، (امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ) اور متعدد افراد سے روایات نقل کی ہیں، جب کہ اس سے احمد بن یونس اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے، نسائی کہتے ہیں: یہ ”متروک“ ہے، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ انتہائی منکر الحدیث ہے، اس کی نقل کردہ روایت سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت جابر بن عبد اللہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعمر: انت ولی فی الدنیا وولی فی الآخرة.
نبی اکرم ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم دنیا میں میرے ولی ہو اور آخرت میں میرے ولی ہو گے۔
یہ روایت ابن عدی نے اس راوی کے حوالے سے نقل کی ہے۔

امام ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

بینا نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من المهاجرین فیہم ابوبکر، وعمر، وعثمان،
وعلی، وطلحة، والذبیبر، وابن عوف، وسعد، فقال: لینھض کل رجل الی کفوفہ، ونھض هو صلی
اللہ علیہ وسلم الی عثمان فاعتنقہ، ثم قال: انت ولی فی الدنیا والآخرة.

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم نبی اکرم ﷺ کے ساتھ کچھ مہاجرین کے درمیان موجود تھے ان میں
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت
عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہر شخص اپنے ہم پلہ کے ساتھ اٹھ
جائے تو نبی اکرم ﷺ اٹھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے اور انہیں گلے لگایا پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم
دنیا اور آخرت میں میرے ولی ہو۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

من تکلم بالفارسیۃ زادت فی حبۃ ونقصت من مروءتہ.

”جو شخص فارسی میں کلام کرتا ہے اس کا فساد زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر مروءت کم ہو جاتی ہے۔“
اسی سند کے ساتھ اس نے چھ موضوع روایات نقل کی ہیں۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل
کی ہے:

یبعث اللہ العلماء فیقول: انی لم اضع علمی فیکم الا لعلی بکم، ولم اضع علمی فیکم لاعدابکم،
انطلقوا، فقد غفرت لکم.

”(قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ علماء کو زندہ کرے گا اور یہ فرمائے گا: میں نے تمہارے اندر اپنا علم اس لیے رکھا تھا کیونکہ مجھے
تمہارے بارے میں پتا تھا اور میں نے اپنا علم تمہارے اندر اس لیے نہیں رکھا تھا تاکہ تمہیں عذاب دوں اب تم جاؤ میں نے
تمہاری مغفرت کر دی ہے“

یہ روایت جھوٹی ہے یہ بات ابن عدی نے بیان کی ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی

ہے:

لا یبر من احد منکم امر احتی یشاور۔

”تم میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی معاملے حسن تدبیر سے انجام نہیں دے سکتا؛ جب تک کہ وہ مشورہ نہیں کرتا“۔

یہ روایت جھوٹی ہے، یہ عقیل سے منقول ہے، علی بن مدینی کہتے ہیں: طلحہ بن زید برا شخص تھا، یہ احادیث ایجاد کرتا تھا، صالح جزرہ کہتے ہیں: اس کی حدیث کو نوٹ نہیں کیا جائے گا، عقیلی کہتے ہیں: طلحہ بن زید قرشی شامی نامی شخص واسط میں ہوتا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: طلحہ بن زید قرشی نامی شخص منکر الحدیث ہے۔

طلحہ نامی شخص کی کنیت کے بارے میں اختلاف ہے، یہ ایک قول کے مطابق ابو مسکین اور ایک قول کے مطابق ابو محمد ہے۔

۴۰۰۶۔ طلحہ بن سمرہ

یہ عبدالحکم بن محمد کا استاد ہے۔

۴۰۰۷۔ طلحہ بن صالح

یہ ابراہیم بن حمزہ زبیری کا استاد ہے۔

۴۰۰۸۔ طلحہ

اس نے زاذان سے روایات نقل کی ہیں، ایک قول کے مطابق یہ طلحہ بن عبد اللہ ہے، یہ تمام (یعنی سابقہ تین راوی) مجہول ہیں۔

۴۰۰۹۔ طلحہ بن ابوطلحہ جو باری جرجانی

اس نے یحییٰ بن یحییٰ سے روایات نقل کی ہیں، اسماعیلی کہتے ہیں: میں نے کم سنی میں اس کے حوالے سے روایات نوٹ کی تھیں لیکن اس پر تنقید کی گئی ہے۔

۴۰۱۰۔ طلحہ بن عبد اللہ (س، ق) بن عبد الرحمن بن حضرت ابو بکر صدیق

یہ شعیب اور محمد کا والد ہے، اس نے والد اپنی والدہ عائشہ بنت طلحہ، معاویہ بن جاہم، اور اپنے والد کی پھوپھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایات نقل کی ہیں، اس سے اس کے دونوں بیٹوں اور عطف بن خالد نے روایات نقل کی ہیں، یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں: طلحہ کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کتاب ”الثقات“ میں کیا ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ”حدیث“ نقل کی ہے:

قلت: یا رسول اللہ، انعم علی امر قد فرغ منہ امر مؤتلف؟ قال: بل علی امر قد فرغ

منہ. قلت: ففیم العبل؟ قال: کل میسر لما خلق له.

”میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا ہم کسی ایسے معاملے کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں، جس سے فارغ ہوا چکا ہے، یا یہ کوئی ایسی صورت ہے، جو اسے نو پیدا ہوتی ہے، تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: نہیں، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے فارغ ہوا چکا ہے، میں نے عرض کی: پھر عمل کیوں کیا جائے؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہر ایک کے لیے وہ چیز آسان کر دی جاتی ہے، جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے“

امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت اپنی کتاب ”تقدیر کا بیان“ میں اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے اور یہ سند صالح اور متصل ہے۔

۴۰۱۱۔ طلحہ بن عبد الرحمن مؤدب

اس نے قنادہ سے روایات نقل کی ہیں، ابن عدی کہتے ہیں: اس سے منکر روایات منقول ہیں، یہ واسطی ہے، اس کی کنیت ابو محمد ہے، اور ایک قول کے مطابق ابوسلیمان ہے، قاسم بن عیسیٰ واسطی اور محمد بن ابان نے اس سے روایت نقل کی ہیں، اس کے حوالے سے ایسی روایات منقول ہیں، جن میں اس کی متابعت نہیں کی گئی۔

۴۰۱۲۔ طلحہ بن علاء احمسی۔

اس نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے، اسماعیل بن ابوالخالد کے علاوہ اور کسی نے اس سے روایت نقل نہیں کی ہے۔

۴۰۱۳۔ طلحہ بن عمرو (ق) حضرمی مکی

یہ عطاء کا شاگرد ہے، یحییٰ بن معین اور دیگر حضرات نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ متروک الحدیث ہے

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ابن مدینی کہتے ہیں: یہ کوئی چیز نہیں ہے

فلاس کہتے ہیں: یحییٰ اور عبد الرحمن اس کے حوالے سے احادیث نقل نہیں کرتے ہیں۔

عبد الرحمن بیان کرتے ہیں: طلحہ بن عمرو آئے وہ مسند پر تشریف فرما ہوئے، لوگ اکٹھے ہو گئے، عبد الرحمن کہتے ہیں: میں نے خلوت میں ان سے ملاقات کی اور میں نے کہا: یہ کون سی احادیث ہیں؟ تو انہوں نے کہا: میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں ان روایات کے حوالے سے تو بہ کرتا ہوں، میں نے کہا: آپ مسند پر بیٹھیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، تو وہ بولے: میری طرف تم لوگوں کو اس کے بارے میں بتادو۔

امام عبدالرزاق، معمر کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں شعبہ سفیان اور ابن جریج اکٹھے ہوئے، ایک شیخ ہمارے پاس آیا، اس نے ہمیں اپنے حافظے کی بنیاد پر چار ہزار احادیث املاء کروائیں اس نے صرف دو جگہ پر غلطی کی اور یہ غلطی بھی نہ ہماری

طرف سے اور نہ اس کی طرف سے تھی بلکہ اوپر کسی نے یہ غلطی کی ہوئی تھی؛ جب رات کا وقت ہوا اور ہم نے تحریر پر مہر لگا دی اور اسے اپنے سر کے نیچے رکھا تو ان روایات کو نوٹ کرنے والے شخص شعبہ تھے اور ہم اس تحریر میں غور و فکر کرتے جا رہے تھے جب کہ وہ بزرگ طلحہ بن عمرو تھا۔ یہ روایت ابن عدی نے صحیح سند کے ساتھ نقل کی ہے البتہ میرے ذہن میں اس کے حوالے سے کچھ الجھن ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

ما من عبد يلتفت في صلاته الا قال الله له: عبدی این تلتفت؟ انا خير لك من تلتفت اليه.

”جو بھی بندہ نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ فرماتا ہے: میرے بندے تم کہاں دیکھ رہے ہو؟ میں تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہوں جسے تم دیکھ رہے ہو“

ابن عدی نے اس کے حوالے سے چند روایات نقل کی ہیں اور یہ کہا ہے: اس کی نقل کردہ زیادہ تر روایات میں اس کی متابعت نہیں کی گئی، اور یہ وہ روایات ہیں جن میں سے زیادہ تر میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

ان من الجبال التي تطايرت يوم موسى عليه السلام سبعة اجبل لحقت بالحجاز واليمن، منها جبل احد.

”حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے دن جو پہاڑ اڑ گئے تھے وہ سات پہاڑ تھے وہ حجاز اور یمن آگئے تھے ان میں سے ایک اُحد پہاڑ ہے۔“

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

اطلبوا الخير عند حسان الوجوه.

”بھلائی کو خوبصورت چہرے والوں کے پاس تلاش کرو“

یہ روایت نقل کرنے میں قبصیہ نامی راوی منفرد ہے اور اس کا متن ”مسند عبد“ میں ہے، یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے، جس میں محمد نامی راوی واہی ہے۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ روایت جھوٹی ہے آدم بن موسیٰ کہتے ہیں: میں نے امام بخاری رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: طلحہ بن عمرو محدثین کے نزدیک کمزور ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

زرغباً تزدد حبا.

”وقفے سے ملاقات کرو اس سے محبت زیادہ ہوگی“

یہی بن ابوسلیمان مکی نے اس کی متابعت کی ہے اور یہ اس سے کم مرتبے کا ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

طوبی لمن دانی وآمن بی، وطوبی لمن لہ یرنی وآمن بی یقولہا ثلاث مرات.

”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: اس شخص کی خوش نصیبی ہے جس نے میری زیارت کی اور مجھ پر ایمان لایا اور اس شخص کے لیے بھی خوش نصیبی ہے، جس نے میری زیارت نہیں کی لیکن مجھ پر ایمان لے آیا“ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی۔

ابن ابوحاتم کہتے ہیں: میں نے اپنے والد سے طلحہ بن عمرو کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے فرمایا: یہ مکہ کا رہنے والا ہے اور یہ قوی نہیں ہے محدثین کے نزدیک یہ حدیث میں کمزور ہے امام ابو زرعة رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ ضعیف ہے ابن سعد کہتے ہیں: اس کا انتقال 152 ہجری میں ہوا۔

۴۰۱۴۔ طلحہ بن ابوقنان

اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ”مرسل“ روایت نقل کی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نرم جگہ کے پاس تشریف لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لکڑی لے کر اس جگہ کو کھود لیتے یہاں تک کہ اس میں گڑھا سا بن جاتا تو پھر پیشاب کرتے۔

یہ پتا نہیں چل سکا کہ طلحہ نامی راوی کون ہے؟ ولید بن سلیمان بن ابوسائب اس سے روایت نقل کرنے میں منفرد ہے امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ”مراسل“ میں نقل کی ہے۔

۴۰۱۵۔ طلحہ بن کیسان

یہ مجہول ہے۔

۴۰۱۶۔ طلحہ بن محمد شاہد

یہ بغداد کا رہنے والا ہے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ مشہور حیثیت کا مالک تھا اس کا سماع صحیح ہے ابن ابی الفوارس اور دیگر حضرات نے یہ کہا ہے: یہ اعتزال کی طرف دعوت دیا کرتا تھا ازہری نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

۴۰۱۷۔ طلحہ بن نافع (م، ع، خ مقرونا)، ابوسفیان واسطی

یہ قریش کا غلام ہے اس نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں اس سے اعش، شعبۃ اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

ابن عیینہ کہتے ہیں: اس کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کردہ روایت ہی صحیفہ ہے

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، احمد بن زہیر کہتے ہیں: یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو انہوں نے کہا: یہ کوئی چیز نہیں ہے، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: ابو زہیر میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہے۔

ابن مدینی کہتے ہیں: محدثین اسے حدیث کے حوالے سے ضعیف قرار دیتے ہیں، ابوسفیان کی حدیث جو اس نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، وہ صحیفہ ہے۔ امام ابو زرہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا: تو انہوں نے فرمایا: کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں یہ کہوں کہ یہ ثقہ ہے، ثقہ تو سفیان اور شعبہ ہیں۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے روایت نقل کی ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، جس میں اس کے ساتھ دوسرا راوی بھی شریک ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبھا.

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: (لوگوں) کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جنہیں وہ پلٹتا رہتا ہے“

یہ روایت صحیح اور غریب ہے۔

۴۰۱۸۔ طلحہ بن یحییٰ (م، عو)، بن طلحہ بن عبید اللہ تیمی کوفی

یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے اسے ”ثقہ“ قرار دیا ہے، یحییٰ القطان یہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے، ابن معین یہ بھی کہتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بخاری فرماتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے، ابو زرہ کہتے ہیں: یہ صالح الحدیث ہے، ایک روایت کے مطابق یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی یہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: اس نے اپنے والد، عروہ اور مجاہد سے روایات نقل کی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ صالح ہے، اس نے یہ روایت نقل کی ہے: کہ وہ جنت کی چڑیاؤں میں سے ایک چڑیا ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی جنازة غلام من الانصار لیصلی علیہ، قلت: یا رسول اللہ، طوبی له عصفور من عصفیر الجنة. قال: یا عائشة، او غیر هذا؟ ان اللہ خلق للجنة اهلا وخلقها لهم، وهم فی اصلاب آبائهم.

”سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری بچے کے جنازے میں شرکت کے لیے بلا یا گیا، تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، تو میں نے کہا: یا رسول اللہ! اس کو مبارک ہو، یہ جنت کی ایک چڑیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ! اس کے علاوہ بھی تو ہو سکتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے اہل پیدا کیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جنت کو پیدا کیا ہے، جب کہ وہ اس وقت اپنے آباؤ اجداد کی پشتوں میں تھے“

اس روایت کے ابتدائی حصے کو نقل کرنے میں طلحہ منفرد ہے؛ جب کہ آخری حصہ دیگر حوالے سے بھی منقول ہے۔

۴۰۱۹۔ طلحہ بن یحییٰ (خ، م) بن نعمان بن ابو عیاش زرقی

اس نے یونس بن زید اور دیگر حضرات سے؛ جب کہ اس سے عثمان بن ابوشیبہ اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ یحییٰ بن معین اور دیگر حضرات نے اسے ”ثقة“ قرار دیا ہے؛ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ مقارب الحدیث ہے؛ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے؛ یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں: یہ بزرگ ہے؛ لیکن انتہائی ضعیف ہے؛ بعض حضرات نے یہ کہا ہے: اس کی حدیث کو نوٹ نہیں کیا جائے گا۔

۴۰۲۰۔ طلحہ بن یزید شامی

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ منکر الحدیث ہے؛ (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: ایک نسخے میں اسی طرح ہے؛ جب کہ ایک نسخے میں (اس راوی کا نام طلحہ) بن زید ہے۔

۴۰۲۱۔ طلحہ بن یزید (خ، عو) ابو حمزہ کوفی

یہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہے؛ اس سے ایسی روایات منقول ہیں جو اس نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہما اور دیگر حضرات سے نقل کی ہیں؛ جب کہ اس سے صرف عمرو بن مرہ نے روایت نقل کی ہے؛ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کے علاوہ اور کسی نے اسے روایت نقل نہیں کی ہے

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے؛ اس کے بارے میں عمرو نے یہ کہا ہے: تو اس کی نسبت ابن ابی لیلیٰ کی طرف کر دی گئی؛ تو انہوں نے کہا: یہ زید کا گمان ہے؛ ورنہ وہ روایت شعبہ نے عمرو سے نقل کی ہے؛ جو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے منقول ہے:

قالت الانصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل قوم اتباعا، وانا قد اتبعناك، فادع الله ان يجعل اتباعنا منا. قال: اللهم اجعل اتباعهم منهم.

”حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: انصار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی: ہر قوم کے کچھ پیروکار ہوتے ہیں؛ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے؛ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی پیروکار بنادے؛ اور وہ ہم میں سے ہی ہوں؛ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ! ان کے پیروکار ان میں سے ہی بنادے۔“

۴۰۲۲۔ طلحہ بن یزید

اس نے جعفر بن ابومغیرہ سے روایات نقل کی ہیں۔

۴۰۲۳۔ طلحہ

اس نے ابوشہدہ سے روایات نقل کی ہیں، یہ حکم بن محمد کا استاد ہے (طلحہ نامی یہ) دونوں راوی مجہول ہیں۔

۴۰۲۳۔ طلحہ القناد،

یہ واسطی (کوفی) بزرگ ہے ابوداؤد کہتے ہیں: یہ قوی نہیں ہے (امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: یہ (طلحہ) بن عمرو ہے، جو عمرو بن حماد بن طلحہ کا دادا ہے۔

اس نے شععی اور ایک جماعت سے روایات نقل کی ہیں؛ جب کہ اس سے وکیع اور ابواسامہ نے روایات نقل کی ہیں۔

۴۰۲۴۔ طلحہ (د)

اس نے اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا سے سرکامح کرنے کے بارے میں روایت نقل کی ہے، ایک قول کے مطابق یہ طلحہ بن مصرف ہے؛ اگر یہ وہ نہ ہو تو پھر یہ مجہول ہے۔

۴۰۲۵۔ طلحہ ابویسع

اس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے؛ اس کی شناخت نہیں ہو سکی؛ اس کے حوالے سے وہ روایت منقول ہے جس میں دودھ کے ساتھ گوشت کھانے کا ذکر ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے

عن ابن عباس انه كان يقول: ان الله اوحى الى نبي من الانبياء شكيا اليه الضعف فقال: كل اللحم باللبن.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ فرمایا کرتے تھے: بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی طرف وحی کی جس نے اس کی بارگاہ میں کمزوری کی شکایت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم دودھ کے ساتھ گوشت کھاؤ۔

عقبلی کہتے ہیں: یہ روایت درست نہیں ہے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: یہ راوی طلحہ بن ابزود ہے اس کی عالی اسناد کے حوالے سے کچھ روایات مجھ تک پہنچی ہیں؛ جو مخلص کے حوالے سے منقول ہیں؛ اس میں کچھ مجہول ہونا پایا جاتا ہے؛ تاہم اس کی روایت کونوٹ کیا جائے گا۔

۴۰۲۶۔ طلحہ حارثی

اس نے ابوریح سے روایت نقل کی ہے، اپنے استاد کی طرح یہ مجہول ہے۔

۴۰۲۷۔ طلحہ

جس نے ابوشہدہ سے روایت نقل کی ہے؛ یہ مجہول ہے

(طلق)

۴۰۲۹۔ طلق بن حبیب (م، عمو)

یہ عبادت گزار ہے نیک تابعین میں سے ایک ہے البتہ یہ ارچاء کا عقیدہ رکھتا تھا اس کی نقل کردہ روایات کم ہیں۔ امام ابو زرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے احادیث کا سماع کیا یہ ثقہ ہے لیکن مرجحہ فرقی سے تعلق رکھتا ہے امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ ”صدوق“ ہے لیکن ارچاء کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اس نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت جناب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے، جب کہ اس سے عمرو بن دینار، مختار بن فلفل اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔

۴۰۳۰۔ طلق بن سح

اس نے یحییٰ بن ایوب مصری اور ایک جماعت سے، جب کہ اس سے فضل رضامی اور ابو بکر بن زنجویہ نے روایات نقل کی ہیں امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ مصر کا رہنے والا عمر رسیدہ شخص ہے لیکن معروف نہیں جب کہ ان کے علاوہ نے یہ کہا ہے: اس کا محل اگر اللہ نے چاہا تو صدوق ہوگا۔

۴۰۳۱۔ طلق بن غنام (خ، عمو) بن طلق بن معاویہ نخعی،

یہ شریک کا کاتب (معمتدیا سیکرٹری) تھا اس نے شریک، قیس اور اسرائیل سے، جب کہ اس سے امام بخاری، احمد دورقی، ابراہیم بن ابی بکر بن ابی شیبہ اور ایک جماعت نے روایات نقل کی ہیں۔ امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس نے ایک منکر حدیث نقل کی ہے اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت ”مرفوع“ حدیث کے طور پر نقل کی ہے:

اد الامانة الي من اتعنك.

”جس نے تمہیں امین بنایا ہے اسے تم امانت ادا کرو“۔

امام ابوداؤد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: یہ صالح ہے ابن سعد کہتے ہیں: یہ ”ثقہ“ ہے اس کا انتقال رجب کے مہینے میں 211 ہجری میں ہوا۔

۴۰۳۲۔ طلق بن معاویہ

اس نے سفیان ثوری سے روایت نقل کی ہے یہ مجہول ہے۔

۴۰۳۳۔ طلق بن معاویہ

اگر تو یہ طلق کا دادا ہے تو پھر یہ ثقہ ہے اس نے ابو زرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔

(طیفور)

۴۰۴۰۔ طیفور بن عیسیٰ، بایزید بسطامی

یہ صوفیاء کے سردار ہیں ان کے بارے میں بڑی حیران کن روایات منقول ہیں یہ اکابر مشائخ میں سے ایک ہیں ان کا درجہ ذیل قول نہایت عمدہ ہے۔

”اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ اسے کرامات عطا کی گئی ہوں یہاں تک کہ وہ ہوا میں بلند ہو جاتا ہو تو تم اس وقت تک اس کا اعتبار نہ کرو جب تک تم یہ جائزہ نہیں لے لیتے کہ شرعی احکام کی پابندی اور شریعت اور ممنوعہ چیزوں سے رکنے کی حدود کا خیال رکھنے کے حوالے سے وہ کیسا ہے۔“

لوگوں نے ان کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں بھی نقل کی ہیں جن کا ان سے مستند طور پر منقول ہونا قابل اعتراض ہے جس میں ایک یہ بات بھی ہے ”میں ہر عیب سے پاک ہوں“ اور ”جے کے اندر صرف اللہ تعالیٰ ہے“، آگ کیا ہے؟ کل میں خود اس تک پہنچ جاؤں گا، میں یہ کہتا ہوں: یا تو مجھے اہل جہنم کا فدیہ بنا دے یا میں اس تک پہنچ جاتا ہوں جنت کیا ہے؟ یہ بچوں کے کھیل کود کا سامان ہے، مجھے یہ یہودی ہبہ کر دے یہ کیا ہیں کہ تو انہیں عذاب کرے گا؟ بعض حضرات نے ان کے حوالے سے ان روایات کو درست قرار دیا ہے۔ اور یہ کہا ہے: کہ انہوں نے سکر کے دوران یہ اقوال کہے تھے۔

ابو عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں: اہل بسطام نے ان کا انکار کیا انہوں نے حسین بن عیسیٰ بسطامی کو یہ بتایا: کہ وہ (بایزید) یہ کہتے تھے: انہیں بھی اسی طرح معراج ہوئی تھی، جس طرح نبی اکرم ﷺ کو ہوئی تھی، تو حسین بن عیسیٰ بسطامی نے انہیں بسطام سے نکال دیا انہوں نے حج کیا، پھر یہ جرجان چلے گئے جب حسین کا انتقال ہوا تو یہ بسطام واپس آ گئے۔

(امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:) میں یہ کہتا ہوں: حسین بن عیسیٰ بسطامی علم حدیث کے ماہرین میں سے ایک ہیں، جہاں تک ”بایزید“ کا تعلق ہے، تو ان کی حالت تسلیم شدہ ہے اور اللہ تعالیٰ پوشیدہ معاملات کا نگران ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر اس چیز سے بری ذمہ ہونے کا اظہار کرتے ہیں جو انہوں نے کتاب و سنت کے برخلاف جان بوجھ کر کہا ہو۔

بایزید کا انتقال 261 ہجری میں ہوا۔

حرف الظاء ﴿﴾

(ظبیان)

۴۰۴۱۔ ظبیان بن صبیح ضعی

یہ مبارک بن فضالہ کا استاد ہے یہ پتہ نہیں کہ یہ کون ہے؟

۴۰۴۲۔ ظبیان بن عمارہ کوفی

اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب کہ اس سے ابوقطبہ نے روایت نقل کی ہے ازدی کہتے ہیں: اس کی حدیث قائم نہیں ہے۔

۴۰۴۳۔ ظبیان بن محمد حمصی

اس نے اپنے والد سے روایت نقل کی ہے امام ابن حبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔

اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ حضرت عمرو بن مرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

من لم یکن له حسنة یرجوها فلینکح امرأة من جھینة

”جس شخص کی کوئی ایسی نیکی نہ ہو جس کی وجہ سے اسے (آخرت میں اجر و ثواب ملنا ہو) تو اسے جھینہ قبیلے سے تعلق رکھنے

والی عورت کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے۔“

یہ روایت جھوٹی ہے۔

۴۰۴۴۔ ظبیان

اس نے سعید بن جبیر سے ان کا قول روایت کیا ہے اس کی شناخت نہیں ہو سکی ابو عباس نباتی کہتے ہیں: اس کے بارے میں

کلام کیا گیا ہے۔

(ظریف)

۴۰۴۵۔ ظریف بن ناصح

اس تذکرہ ظریف نامی راویوں کے حالات میں گزر چکا ہے ہم یہاں اسی پر اکتفاء کرتے ہیں۔

(ظفر)

۴۰۴۶۔ ظفر بن لیث

میں اس سے واقف نہیں ہوں، اس نے جھوٹی روایت نقل کی ہے، جو احمد بن عسا کرنے اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے، (اور وہ درج ذیل ہے):

عن ابی ہریرۃ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لیس فی امتی ریاء ولا کبر اذا سجدوا، فان کان فی شیء من الاعمال مرء فان التوحید فی القلب لا یراء ی فیہ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جب میری امت کے لوگ سجدے میں چلے جائیں تو پھر ان میں ریا کاری اور تکبر نہیں رہتا اور اگر اعمال میں سے کسی چیز میں دکھاوا ہو بھی سہی، تو توحید کا عقیدہ تو دل میں ہوتا ہے، اس میں کوئی دکھاوا ہو نہیں سکتا۔

اس میں خرابی کی جڑ ظفر نامی یہ راوی ہے یا پھر اس کا استاد ہے۔

۴۰۴۷۔ ظفر

ابن بطن نامی راوی نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب ”الابانۃ“ میں کیا ہے، اس نے اپنی سند کے ساتھ اس راوی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے:

قلنا: یا رسول اللہ، من احب الناس الیک؟ قال: عائشة. قلنا: من الرجال؟ قال: ابوہا. فقالت

فاطمۃ: لم ادک قلت فی علی شینا! قال: ان علیا نفسی، هل رایت احدا یقول فی نفسه شینا؟

”ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عائشہ! ہم نے عرض کی:

مردوں میں سے کون ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کا والد، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ

کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے نہیں دیکھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علی، میری ذات کا حصہ ہے، تو کیا تم نے کسی شخص کو

دیکھا ہے جو اپنی ذات کے بارے میں کچھ کہتا ہو؟

یہ الفاظ ایجاد کردہ ہیں اور اس میں خرابی کی جڑ ظفر نامی راوی ہے، یا پھر اس کا استاد ابو ربیع زہرانی ہے، کیونکہ ابو ربیع نامی

راوی ثقہ نہیں ہے۔

(ظلم)

۴۰۴۸۔ ظلم بن حطیط، ابوقاسم جہضمی دیوسی

ابن عدی نے اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے: اس راوی نے اپنی ”سند“ کے ساتھ یہ ”حدیث“ نقل کی ہے:

دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده سفر جلة، فقال: دونكها، فانها تذكي الفؤاد
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ ﷺ کے ہاتھ میں
سفر جل تھی، آپ ﷺ نے فرمایا: تم اسے استعمال کرو، کیونکہ یہ دل کو صاف کرتی ہے۔

یہ روایت جھوٹی ہے اور اس میں خرابی کی جز ظلم نامی راوی ہے یا پھر حسن بن علی رقی نامی راوی ہے، سفر جل کے بارے میں دوسری
سند کے ساتھ روایات منقول ہے۔